


وَجَزِيلَةٌ لَكَ شَرِيكٌ وَتَبَيَّنَ الْمُبَدِّلُ الْأَنْوَافُ

تصوّف و سلوک



حضرت ولنا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجودی مظاہر

ناشر حکمت به الفقیہ فصل آباد



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَىءَةً مِّنْ أَذْنَانِ الْجَنِّ

تصوّف و سکون



ناشر: جامعۃ الحبیب فیصل آباد

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب _____ تصوف و سلوک

مَوْلَف _____

مکتبہ الفقیہ
ناشر _____
سنت پورہ فیصل آباد 223

اشعات اول اکتوبر 1995ء

اشعاعت دوم جون 1998ء

اشاعت سوم نومبر 2000ء

اشراعت چهارم دسمبر 2003ء

اشاعت پنجم مئی 2005ء

١١٠٠ تعداد

کمپویٹر کی پوزنگ

النسب

نقیر اپنی ان طالبعلمانہ کوششوں کا انتساب اپنے بادی و راہبر مرشد عالم محبوب العارفین حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی مجددی ”کے نام کرتا ہے۔

جن کی تعلیمات کی گھنی چھاؤں نے فقیر کو زندگی کی کڑکتی و حوب سے بچائے رکھا۔



جن کی توجہات نے خودشناہی اور خدا شناسی کی منزل کاراہی بنایا۔



جن کی شفقتوں نے فقیر جیسے بے ماہی کو بھی درودل کا گوہر عطا فرمایا۔



نمبر نامہ	تفصیل	نمبر شمار	تفصیل	نمبر فہر	تفصیل
ب) نمبر 1: علم تصرف	پیش لفظ				
علم تصرف	1				
دیل نمبر 1	2				
دیل نمبر 2	3				
دیل نمبر 3	4				
تصوف مشاہیر امت کی نظر میں	5				
ب) نمبر 2: تصوف کیا ہے؟					
تصوف کیا ہے؟	1				
خلاصہ کلام	2				
ب) نمبر 3: لفظ "صوفی" کی تحقیق					
لفظ "صوفی" کی تحقیق	1				
صوفی کون ہوتا ہے؟	2				
ب) نمبر 4: بیعت طریقت کا شرعی					
بیعت طریقت کا شرعی ثبوت	1				
بیعت کی تعریف	2				
بیعت اسلام	3				
بیعت جماد	4				
بیعت بھرت	5				
بیعت قوبہ (بیعت طریقت)	6				
بیعت سے متعلق سوالات و جوابات	7				
ب) نمبر 5: ضرورت مرشد					
قرآن مجید سے دلائل	1				
احادیث سے دلائل	2				
عقلی دلائل	3				
ب) نمبر 6: آداب مرشد					
احادیث سے دلائل	2				
عقلی دلائل	3				
احوال اصحابین سے دلائل	4				
علامات شیخ کمال	5				
ب) نمبر 7: خاقانیوں کا قائم					
قرآن مجید سے دلائل	1				
احادیث سے دلائل	2				
عقلی دلائل	3				

تفصیل	تفصیل	تفصیل	تفصیل	تفصیل
نمبر	نمبر	نمبر	نمبر	نمبر
114	(1) ذکر (وقف قبی)	8	89	باب نمبر 8: اعتدالات
116	قرآن مجید سے دلائل۔	9	89	اعتدالات برائے مریدین
118	احادیث سے دلائل	10	89	اہل اللہ کی شان حد سے گھنانا
119	(2) فقر (مرابق)	11	89	گناہ ہے۔
121	قرآن مجید سے دلائل۔	12	91	اہل اللہ کی شان حد سے بوجعلنا
123	احادیث سے دلائل	13	91	گناہ ہے۔
124	ذکر و مرابق سے متعلقہ سوالات و جوابات۔	14	92	حضرت چینہ بغدادی ”کا جاہل
126	امام ابن تیمیہ ” کے اعتراض کا جواب۔	15	92	صوفیاء کے بارے میں قول۔
129	(3) درود شریف	16	93	اویاء اللہ کے کشف و الام کی
129	قرآن مجید سے دلائل۔	17	95	حقیقت۔
130	احادیث سے دلائل	18	96	غیر اللہ کی عبادات حرام ہے۔
131	درود شریف سے متعلقہ سوالات و جوابات۔	19	96	قبوس کو بجدہ کرنا شرک ہے۔
133	(4) استغفار	20	99	کوئی ولی شریعت کے کاموں سے
133	قرآن مجید سے دلائل۔	21	105	مشتبہ نہیں۔
135	احادیث سے دلائل۔	22	105	ولی کی کرامات اس کی فضیلت کی دلیل نہیں۔
139	(5) تلاوت قرآن مجید	23	106	ولی کا بے عمل بیٹا پیر نہیں بن
139	قرآن مجید سے دلائل۔	24	106	سکتا۔
140	احادیث سے دلائل	25	107	طریقت کی بدعت شریعت کی بدعت کی مانند ہے۔
141	(6) رابط شیع	26	107	باب نمبر 9: اسلامی تقویف
141	قرآن مجید سے دلائل۔	27	107	شریعت محمدیہ کا صحن و جمال
142	احادیث سے دلائل۔	28	107	مثال نمبر 1
143	عقلی دلائل۔	29	108	مثال نمبر 2
143	اشعار سے دلائل۔	30	109	مثال نمبر 3
145	باب نمبر 10: معمولات شب و		109	آدم برسر مطلب۔
			111	طفل صالحین کی عبارات
			113	اور ادا و خلافت کے دلائل۔
				روز

نمبر نمبر	تفصیل	نمبر نمبر	تفصیل	نمبر نمبر	تفصیل
190	خیر خاتم کی لا جواب مثالیں	4	145	حضرت خواجہ ابو سعید کی مشور ربائی۔	1
192	اخوت اسلامی کے فضائل	5	146	حضرت خواجہ ابو یوسف "ہدایی" کی نماز تجدید۔	2
196	اخوت کی بنیادی شرط	6	146	حضرت خواجہ عبید اللہ احرار" کا قول۔	3
198	جبیب کیسا ہو؟	7	146	حضرت خواجہ بہاؤ الدین تشنید بغاری" کے اشعار۔	4
202	اخوت کے آداب	8	146	حضرت مولانا عبد الغفور مدفی" کا اموال جواب۔	5
216	باب نمبر 13: سوالات و جوابات		146	حضرت خواجہ دوست محمد قدھاری" کا فرمان۔	6
216	چیر سے محبت کے بارے میں	1	147	باب نمبر 11: معارف و تفاسیق	1
	شریعت کی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟		150	دنیا	2
217	چیر پکننے کی کیا ضرورت ہے؟	2	152	دل	3
219	سلوک میں ذکر ہی سے فائدہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی؟ امون کو نماز کا انتظار کیوں رہتا ہے؟	3	152	عادات	4
221	مجذوب کون ہوتے ہیں؟	4	152	توہہ	5
222	دست غیب سے کیا مراد ہے؟	5	153	شیخ اور مرید	6
223	قیعن و سط سے کیا مراد ہے؟	6	153	لائقی	7
223	فنا فی الرسول سے کیا مراد ہے؟	7	154	ذکر و مراقبہ	8
223	تشنیدیہ اور چنیتیہ سلسلہ میں کیا فرق ہے؟	8	155	دعا	9
225	کیا ساعت جائز ہے؟	9	157	علم و عمل	10
225	سنن اور بدعت کی پہچان کیا ہے؟	10	158	برائے علائیہ کرام	11
225	است کا ایک بڑا طبقہ تصوف کو اچھا کیوں نہیں سمجھتا؟	11	159	متفرقات	
226	اکثر گناہوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟	12	164	باب نمبر 12: اخلاق حمیدہ	
227	صوفیاء جہاد کیوں نہیں کرتے؟	13	182	مکارم اخلاق	1
		14	183	اخلاق الصالحین	2
			183	حسن خلق کے فضائل	3
			184		

پیش لفظ

1994ء کے سالانہ نقشبندی اجتماع کی ایک نشست میں فقیر نے ولی ابن ولی حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ چکوال کے ارشاد پر بیان کیا۔ تصوف و سلوک کے مختلف عنوانات کے گرد گھومتے ہوئے اس بیان کو ساکھیں طریقت نے پذیرائی بخشی۔ بعض احباب نے تقاضا کیا کہ یہ تقریر اگر تحریر کے ساتھ میں ڈھل جائے تو افادت کا باعث ہوگی۔ فقیر نے تقلیل ارشاد کرتے ہوئے اپنی یادداشت کو صفحہ قرطاس پر بکھیرنا شروع کر دیا۔ پے در پے تبلیغ اسفار کے باوجود کچھ نہ کچھ سپرد قلم کرنے کی کوشش رہی۔ آزاد کشمیر ضلع باغ کا تبلیغی دورہ کرتے ہوئے جانب پروفیسر امیاز احمد عباسی نے فقیر کا یہ معمول دیکھا تو حضرت موبانی کا ایک شعر قد رے تصرف کیا تھا یوں چسپاں کیا۔

ہے مشق "قلم" جاری "سفروں" کی مشقت بھی اک طرفہ تماشا ہے "حضرت" کی طبیعت بھی قارئین کرام اگر فقیر کی اس طالب علمانہ کوشش میں کوئی قابل اصلاح یات نوٹ کریں تو مطلع فرمایہ کر عند اللہ ماجور ہوں۔ البتہ جن حضرات نے اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں علمی و عملی تعاون کیا ہے فقیر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا درود نصیب فرمائے۔ مزید برآں تمنا ہے کہ رب کائنات روز محشر اس تائیز کوشش کو قول فرمای کر فقیر کو بخشش کئے ہوئے گنجاروں کی قطار میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین

مگھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفتقوں کا خیال ہے
مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے

مؤلف

فقیر ذو القفار احمد نقشبندی مجددی

(کان اللہ لہ عوضاً عن کل شمی)

مہتمم دارالعلوم جھنگ۔ پاکستان



الله



باب 1

علم تصوف

علم تصوف کے شری شوت کے لئے تین دلائل بیان کئے جاتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱:- اللہ مل شانہ، کافرمان ہے۔ "وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثْمِ وَبِاطِنَهُ"

(الانعام آیت 120)

[اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو]

تفیر خازن میں اس آیت کے تحت مرقوم ہے۔

"السَّمَرَادُ بِظَاهِرِ الْأَثْمِ الْعَالَمُ الْجَوَارِحُ وَبِاطِنَهُ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ"

(تفیر خازن جلد دوم صفحہ 146)

[ظاہری گناہ سے مراد اعضا و جوارح کے اعمال اور باطنی گناہوں سے مراد دل کے اعمال ہیں]

لہذا انسانی اعمال کی تین قسمیں ہیں۔

قسم اول:- وہ اعمال جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہر سے ہے۔ مثلاً "کلو وا اشربوا

ولا تسرفووا" [کھانا اور بیوہ اور اسراف د کرو] "قُلْ لِلَّهِ مُنِينٌ يَغْضُبُوا مِنْ

ابصَارَهُمْ" [آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ ناہیں پیسی رکھیں] "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

الْمُحِيطِ" [مورتوں سے جہن سکر و دران علیہمہ رحوم]

قسم دوم:- وہ اعمال جن کا تعلق نظر انسان کے باطن سے ہے۔ مثلاً ”توکل علی اللہ“ [اور اللہ پر توکل کرو] ”وافوض امری الى اللہ“ [میں اپنا کام اللہ کے پرداز کرتا ہوں] ”لاتخشونم و اخشونی“ [ان سے نہ ڈرد اور مجھ سے ڈرد]

قسم سوم:- وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی شلاماز کے ظاہر کے متعلق فرمایا ”و اذا قاموا الى الصلوة قاموا كساملي“ [اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ] اور باطن کے متعلق فرمایا ”يراء ون الناس“ [انسانوں کے دکھلنے کے لئے] اعمال کے ظاہری حصے کا تعلق علم قال (فتاوی) اور باطنی حصے کا تعلق علم حال (تصوف) سے ہے۔ یہ دونوں علوم صحابہ کرام نے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سچھے جس کی تائید درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے۔

☆ — حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ ”حفظت من رسول اللہ ﷺ وعائین۔

فاما احدهما في بسطته واما الاخر في بسطته قطع هذا البلعوم“
(مشکوٰۃ کتاب العلم)

[میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دو برتن حفاظت میں لئے۔ ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے] اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی اکرم ﷺ سے دو علوم سچھے یعنی ایک علم قال اور دوسرा علم حال۔

☆ — سیدنا عمر بن الخطابؓ کو جب دفن کیا گیا تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کی ایک محفل میں کہا ”آج دس میں سے نو حصے علم فوت ہو گیا“ اس پر بعض صحابہ کرامؓ نے ٹاکواری کا اظہار کیا تو حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا ”اس سے مراد حیض و نفاس کا علم نہیں بلکہ علم بالشہد ہے“ یہ جواب سن کر سب حضرات مطمئن اور خاموش ہو گئے۔ پس اس پر صحابہ کرامؓ کا اجماع سکوتی ثابت ہوا اور صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کسی غیر شرعی بات پر ہرگز خاموش نہ رہتے۔ وہ تو باطل کے خلاف بُنگی تکوار تھے۔

☆ — حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے علم کے سڑا باب بتارکے ہیں اور میرے سوایہ علم کسی اور کو نہیں بتایا۔“ (کتاب المحس 54)

❸ — صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے بھی تھے جنہیں ایک خاص قسم کا علم خصوصیت کے ساتھ حاصل تھا۔ حضرت حذیفہؓ کو سمجھا اور کئی باتوں کے منافقین کے ناموں کا علم تھا۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے یہ علم راز میں بتایا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ بھی ان سے دریافت کرتے تھے کہ کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔

❹ — بعض تابعین حضرات علم قال (فقہ) میں صحابہ کرامؓ سے بڑھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بعض اوقات مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے ”جاہر بن عبد اللہؓ سے پہنچو، الہ بھری ان کے فتویٰ پر عمل کریں“ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ”سعید بن المیبؓ سے پہنچو“ حضرت انس بن مالکؓ فرمایا کرتے ”حسن بھریؓ سے پہنچو۔ انہوں نے مسئلے یاد کر رکھے ہیں ہم بھول گئے“ حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابہ کرامؓ کو یقین و معرفت (علم حال) میں تابعین پر ایسی فضیلت حاصل تھی جیسا کہ سورج کو چراغ شب پر۔ صحابہ کرام کے یقین کامل کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جسے حکیم ترمذیؓ نے شان الصلوۃ میں اور ابن الاشیر نے افسد القابہ میں نقل کیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے ایک صاحبؓ سے پوچھا.....

”کیف اصبحت یا حارثؓ۔“ قال اصبحت مومنا بالله حقا۔ قال انظر ما تقول یا حارثؓ ان لکل شئی حقيقة فما حقيقة ایمانکؓ۔
فقال عزلت نفسي و صرفتها عن الدنيا فاستوى عندى حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها فاسهورت لیلی و اظمات نهاری حتى صرت کانی انظرالی عرش ربی بارزاً و کانی انظرالی اهل الجنة يتزاوروں فیها و کانی انظرالی اهل النار یتصارعون۔ و فی روایة یتعادون۔“

[اے حارثؓ! صبح کیسے کی؟ تو حارثؓ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبیؓ! میں نے

الثغر پر نجیب ایمان کی حالت میں بیٹھ کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دیکھ تو کیا کہ رہا ہے؟

اے حارث! پیش ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حارث نے جواب دیا، میں نے اپنے نفس سے ملجمدگی اختیار کی اور اسے دنیا سے پھیر دیا، جس کے نتیجہ میں میری نظر میں اس دنیا کے پھر، منی، سونا اور چاندی برائی رہ گئے ہیں۔ میں رات کو جاہاتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ میری یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں مور گویا میں جنت میں الل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور الل جنم کو چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔

اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ”عرفت فالزم“ [تو جان گیا ہے اور اسی پر جمارہ] حضرت علیؓ سے منقول ہے ”اگر جنت اور جنم مجھے نظر بھی آجائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں ان کی الہیہ سے منقول ہے ”ابو بکرؓ کو لوگوں پر فضیلت نماز اور روزہ کی کثرت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ دل کے یقین (معرفت) کی وجہ سے تھی“ اسی یقین و معرفت کا نام علم حل (تصوف) ہے۔ یہ علم کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ خواہشات نفسانی کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصریؓ فرمایا کرتے تھے ”ہم نے تصوف کا علم قیل و قل کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں کے ترک کرنے سے حاصل کیا ہے۔“ پس ثابت ہوا کہ علم قیل اور علم حل کی ندیاں سرچشمہ علوم نبوت ہی سے نکلی ہیں۔

ولیل نمبر 2:- صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بھگ سے (دین کی باتیں) پوچھا کرو“ لیکن حضرات صحابہ کرامؓ بیت نبویؓ کے غلبہ کی وجہ سے سوال نہ کر سکے۔ چنانچہ ایک ابھی آری مجلس میں آئے، بینہ گئے اور پوچھا ”مالا یمان“ [ایمان کیا ہے؟] ”مالا اسلام“ [اسلام کیا ہے؟] ”مالا حسان“ [احسان کیا ہے؟]

یہ سوالات و جوابات حدیث جبریلؓ میں معروف ہیں۔ مطلب یہ کہ غلبہ بیت کی وجہ سے

حضرات صحابہ کرامؐ کو سوالات کرنے کی جرأت بنت کم ہوتی تھی۔ تعلیم حقائق دینیہ کے لئے حق تعالیٰ نے حضرت جبریلؐ کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ سوال کریں اور معلم کائنات اللہ ﷺ کو جواب میں گوہرانشانی فرمائیں اور اس انداز سے صحابہؐ کا دامن علیٰ جواہر پاروں سے بھرپور ہو۔ سوالات کے جوابات دینے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”فانه جبریلؐ آتا کم یعلمکم دینکم“ [یہ جبریلؐ آئے تھے تمیں تمدار دین سخنانے کے لئے] اس تعبیر میں یہ بات بتا دی گئی کہ علوم دینیہ کا خلاصہ ان جوابات میں موجود ہے۔ پس تمام احادیث کے علوم تین حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔

- ★ — وہ احادیث جن میں دین کے اصول اور نظریات کی تعلیم ہے۔
- ★ — وہ احادیث جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔
- ★ — وہ احادیث جو اصلاح باطن سے متعلق ہیں۔

حدیث جبریلؐ میں ان تینوں قسموں کا ذکر آکیا۔ ”ما الا یمان“ میں اصلاح عقائد کا مضمون آکیا۔ ”ما الا سلام“ میں اعمال ظاہرہ کی اصلاح کا مضمون آکیا اور ”ما الا حسان“ میں اصلاح اخلاق کا مضمون آکیا۔ چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ یا ان کو دینا پچھرنا اعجاز ہے لہذا یہ حدیث ”جو امعن الکلم“ میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت انتہائی جامیعت کی حالت تھی۔ آپؐ نے دین کے ان تینوں حصوں کی کماحت، تشریح اور اشاعت کی۔ صحابہ کرامؐ میں بھی جامیعت کی شان کافی حد تک تھی۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جامیعت میں کمی آتی گئی۔ اس لئے علماء امت نے دین کی حفاظت و خدمت کے لئے ان شعبوں کو تین مستقل علیحدہ علیحدہ علوم میں مدون کر دیا.....

- ★ — صحیح عقائد کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں جو بدایات دی گئیں ان کی حفاظت و خدمت کے لئے ”علم الکلام“ مدون ہوا۔
- ★ — اعمال ظاہرہ کے متعلق جو راجہ محلیٰ کتاب و سنت نے کی ہے اسکی تشریح کیلئے ”علم الفتن“ گومدون کیا۔

★ — اصلاح باطن کے متعلق جو باقی کتاب و سنت نے بتائی ہیں ان کی تفصیلات کے لئے علم

الاحسان، علم الاخلاق، علم التصوف مدون ہوا۔

★ — ان علوم مثلاً میں کامل دسترس رکھنے والا یہ محقق اور کامل عالم دین کمالانے کا حقدار ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گی کہ یہ تینوں علوم "تیسیر علی الامة" کے لئے مدون کئے گئے۔ یہ علوم قرآن و سنت سے کوئی الگ چیز یا ان کے خلاف کوئی خاذ نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روح اور ان کے ثمرات ہیں۔ شیخ زروق "اپنی کتاب "ایقاظ الہم" میں لکھتے ہیں۔ "لنسبة التصوف من الدين نسبة الروح الى الجسد" [تصوف کی نسبت دین کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے روح کی نسبت جسم کے ساتھ]

★ — حضرت مجدد الف ثانی "اپنے ایک مکتب میں ملا حاجی محمد لاہوری" کو تحریر فرماتے ہیں۔ "شریعت کے تین حصے ہیں علم، عمل، اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی۔ جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ تمام نیا وی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے طریقت و حقیقت جس سے کہ صوفیاء متاز ہوئے ہیں وہ دونوں (شریعت کے تیرے حصے) یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں پس ان کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لئے کی جاتی ہے۔

اخوال و مواجهہ اور علوم و معارف جو اثناء راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچا جائے۔ جو کہ سلوک کا آخری مقام ہے اس لئے طریقت و حقیقت کی منزلوں کو طے کرنے کا مقصد تحصیل اخلاص (احسان) کے سوا کچھ نہیں ہے۔" (جلد اول مکتب سہ و ششم)

★ — حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "فرماتے ہیں۔.....

"مقصود صوفیہ کے طریقہ عالیہ کا مشاہدہ حق کا حصول ہے "کانگٹ تراہ" اور اس

حضور کا نام انہوں نے "مشابدہ بالقلب" رکھا ہے"

(انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ص(39)

دلیل نمبر 3:- حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی الثبوت ہونے کی دلیل میں اہل

اصول لکھتے ہیں:

”الخبر المتواتر ما یکون له طریق بلا عدد معین۔ تکون العادة قد احالت تو اطوئهم علی الکذب“ (نحوۃ الفکر)

حدیث متواتر ہے کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو مانتے کے لئے تیار نہ ہوں کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور افشاء پر دعازی پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔

چنانچہ قرن ثالثی سے لے کر اس وقت تک بلا انتظام اور بلا استثناء ہر دور اور ہر ملک کے کثیر التعداد مخلص بندوں نے علم تصوف کو حاصل کیا۔ خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو پہنچایا۔ یہی دلیل علم تصوف کی حقانیت کو اجاگر کرنے کیلئے کافی ہے۔

ع مدی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تمی

— حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”فرماتے ہیں۔

”صحبتنا وتعلمنا آداب الطریقة والسلوک متصلة الى رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالسند الصحيح المستفيض المتصل“

[بھاری صحبت اور بھاری تعلیم جو آداب تصوف و سلوک سے تعلق رکھتی ہے یہ ضرور

[اللہ تعالیٰ سے سند متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے]

خلاصہ کلامہ۔ صحابہ کرامؓ نے علم ظاہری و علم باطنی یعنی علم قال و علم حال رسول اللہ ﷺ سے سیکھا اور اس وقت سے امت میں ان علوم کی اشاعت و ترویج جاری و ساری ہے آج کے دور میں علم قال کو فقہ یا شریعت اور علم حال کو تصوف یا طریقت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے یہ دونوں علوم انسان کی ایمانی تحریک کے لئے ضروری ہیں۔ جس طرح کنز و حدا یہ اور شرح و تلقیہ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح ابو نصر سراج کی ”كتاب الملمع“ ابو طالب کی کی ”وقت القلوب“ امام غزالی کی ”اربعین“ شیخ سروردی کے ”عوارف المعارف“ اور حضرت مجدد کے

”مکتوبات“ پڑھنا ضروری ہیں۔ اگر روایت میں کمال حاصل کرنے کے لئے عستلانی اور قسطلانی سے استقلالہ ضروری ہے تو روایت میں کمال حاصل کرنے کے لئے جنید و بایزید سے فیضیب ہونا ناگزیر ہے۔

تصوف مشاہیر امت کی نظر میں:

★ — شیخ ابو طالب کی ”وقت القلوب میں لکھتے ہیں۔“ ہما علمان اصلیان لا یستغنى احد هما عن الاخر بمنزلة الاسلام والایمان مرتبط کل منهم ما بالآخر كالجسم والقلب لا ينفك احد من صاحبه“
 [دونوں علوم اصلی ہیں جو ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہیں بمنزلہ اسلام اور ایمان کے۔ ہر ایک دوسرے کے ساتھ بدھا ہوا ہے، جیسے جسم اور قلب کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا]

★ — شیخ الاسلام رکریا انصاری ”لکھتے ہیں۔“ الشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة وهم املا زستان لا يتم احد هما الا بالآخر“
 [شریعت حقیقت کا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت کا باطن۔ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی]

★ — حضرت امام مالک بن انس ”فرباتے ہیں۔“ من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق“
 [جس نے (علم) فقة حاصل کیا مگر (علم) تصوف حاصل نہ کیا اس نے فرق کیا۔ جس نے (علم) تصوف حاصل کیا مگر (علم) فقة حاصل نہ کیا وہ زندق ہوا۔ جس نے ان دونوں (علوم) کو جمع کیا ہے وہ متحقق ہوا]

★ — علامہ شائی ”فرباتے ہیں۔“ الطريقة والشريعة متلا زستان“
 [طريقۃ و شریعۃ دونوں لازم و ملزم ہیں]

★ — اکبرالہ آبادی مرخوم نے شریعت و طریقت کے حوالے سے چند خوبصورت اشعار پیش کئے ہیں۔

سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز
 شریعت وضو ہے طریقت نماز
 شریعت در حفلِ مصطفیٰ ﷺ
 طریقت عروج دل مصطفیٰ ﷺ
 شریعت میں ہے صورت فتح بدر
 طریقت میں ہے معنی شق صدر
 شریعت میں ہے قتل و قل جیب
 طریقت میں حسن و حمال جیب
 نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ
 عبث ہے یہ صوفیٰ ولاد کی جنگ
 پس ثابت ہوا کہ علم تصوف کوئی عجمی چیز نہیں بلکہ خالص کی اور منی چیز ہے۔ البتہ جاہل
 صوفیاء کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں ہمیشہ رد کی جائیں گی۔

● — امام ابو القاسم قشیریؒ فرماتے ہیں۔ ”کل شریعة غیر موددة بالحقيقة
 فغير مقبول و كل حقيقة غير مقيدة بالشریعة فغير ممحول“

[”شریعت کی ہر وہ بات جس کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور حقیقت کی

ہر وہ بات جو شریعت کی قیود میں نہ ہو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔]

★ — حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں۔ ”کل طریقة ردته الشریعة فهو
 زندقة والحاد“

[”طریقت کی ہر وہ بات جسے شریعت رد کرے زندقا اور کفر ہے۔]

● — حضرت امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتبات میں فرماتے ہیں۔

"ہمارے مشائخ شرع شریف کے نصیں موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جزو موریز کے بدلتے نہیں دیتے۔ نص سے نص کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ فتوحاتِ دنیا سے فتوحاتِ مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے۔" ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

"وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو تقلید سنت سے الگ ہو کر اختیار کئے جائیں معتبر نہیں ہیں، اس لئے کہ جوگی اور ہندوستان کے یہاں اور یونان کے فلاسفہ بھی ان کو اختیار کرتے ہیں اور یہ ریاضتیں ان کی گمراہی میں اضافہ کے سوا اور کچھ نہیں کرتی ہیں۔"

(جلد اول مکتبہ دو صد و بست و کیم)

★ — حضرت حاجی امداد اللہ مساجد رکمی "تحریر فرماتے ہیں۔

"بعض جملاء جو کہ دیتے ہیں شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے محض ان کی کم فہمی ہے۔ طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں۔ صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ قلب کا حال مثل آئینہ کے ہے۔ آئینہ زنگ آلوہ ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے لیکن فرق نجاست و طمارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچانے کے لئے اتباع سنت کسوٹی ہے۔ جو قبیع سنت ہے وہ اللہ کا درست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے۔ خرق عادات تو دجال سے بھی ہوں گے"

(رجوم المذنبین ص 129)

لہذا سالک کو چاہئے کہ علم حضور ان حضرات سے سیکھے جن کا علم و عمل اور قابل و حال کتاب و سنت کے عین مطابق ہو۔ جاہل و بے عمل صوفیاء کی بے ہودہ بالوں پر ہرگز ہرگز فریفۃ نہ ہو۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے۔ "خذ ما صفا و دع ما کدر" [جو صاف ہو وہ لے لو اور جو میلا ہو وہ چھوڑو]



باب 2

تصوف کیا ہے؟

مشائخ نے اس سوال کے کئی جوابات دیئے ہیں ابراہیم بن مولدرقیؑ نے اپنی کتاب میں اس کے ایک سو سے زائد جوابات جمع کئے ہیں۔ انحصاراً چند ایک نقل کئے جاتے ہیں۔

(1) — حضرت جنید بغدادیؓ کے استاد حضرت محمد بن علی التسابؓ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف ان کریمانہ اخلاق کا نام ہے جو کسی کشم زمانہ میں کسی کشم شخص سے شریف لوگوں کے سامنے ظہور پذیر ہوں۔

(2) — حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ تو مخلوق سے منہ موڑ لے، اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔

(3) — حضرت رومؓ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس طرح چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔

(4) — حضرت سنونؓ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ نہ تو کسی چیز کا مالک ہو، اور نہ کوئی چیز تمہاری مالک ہو۔

(5) — حضرت ابو محمد جریریؓ نے فرمایا:

تصوف نام ہے ہر قسم کے ابھے اخلاق کے اندر داخل ہونے کا اور ہر قسم کے کینے اخلاق کے باہر نکل جانے کا۔

(6) — حضرت عمرو بن عثمانؓ کیؓ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ ایسے عمل میں مشغول ہو جو اس لمحہ کیلئے زیادہ مناسب ہو۔

(7) — حضرت محمد بن علی بن الحسین بن علیؑ بن ابی طالب نے فرمایا:

تصوف ایچھے اخلاق کا دروس راتا ہے جو ایچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں زیادہ ہے۔

(8) — حضرت مرتعشؓ نے فرمایا:

تصوف ایچھے اخلاق کا مجموعہ ہے۔

(9) — حضرت ابو علی قزوینیؓ نے فرمایا:

تصوف ایسے اخلاق کو کہتے ہیں جن سے رب راضی ہو۔

(10) — حضرت ابو الحسن نوریؓ نے فرمایا:

تصوف علم و فن کا نام نہیں مجموعہ اخلاق کا نام ہے۔

(11) — حضرت احمد خضرویؓ نے فرمایا:

تصوف باطن کی گندگی اور کدروں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا نام ہے۔

(12) — حضرت محمد بن احمد المکریؓ نے فرمایا:

تصوف اپنے احوال کوچ پر قائم رکھنے کا نام ہے۔

(13) — حضرت ابو حفص نیشاپوریؓ نے فرمایا:

تصوف آداب ہی آداب ہے ہر وقت کا ادب، ہر جگہ کا ادب، ہر حال کا ادب۔

(14) — حضرت معروف کرفٹیؓ نے فرمایا:

تصوف ہر چیز کی حقیقت جانے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہونے کا نام ہے۔

(15) — حضرت ابو الحسن شعبہؓ نے فرمایا:

ایک وقت تھا کہ تصوف حقیقت تھی بے نام آج نام ہے بے حقیقت۔

(16) — حضرت ابو حمزہ بغدادیؓ نے فرمایا:

تصوف درگزرو انتیار کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور جالموں سے اعراض کرنا ہے۔

(17) — حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاریؒ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ اچھی معلمانہ تفصیل ہو جائے اور استدلالی معاملہ کشفی ہو جائے۔

(18) — حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا:

تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا ہم ہے۔

(19) — حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا:

تصوف اپنے کو منادر یعنی کام ہے۔

(20) — حضرت شیخ الحدیث محمد زکریاؒ نے فرمایا:

تصوف کی ابتداء ہے "انسما الاعمال بالنیات" [پہک اعمال کا دارود اور نیت پر ہے] اور تصوف کی انتتا "ان تعبدالله کانک تراہ" ہے۔ [یہ کہ اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے]


(21) — حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ نے فرمایا:

تصوف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ ﷺ کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔

خلاصہ کلام:- انسانی زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراث انسان کا اپنا کام ہے۔ رب کائنات نے حضرت انسان کو کیسی "جاعل فی الارض خلیفۃ" سے خطاب کیا۔ کیسی "ولقد کرممنا" کا تاج پہنایا اور کیسی "فضلنا" کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افرائی کی۔ انسان کو چاہئے کہ "الست بربکم" کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے "وتبتل الیه تبتیلا" کے راستے پر چلے اور "الی ربک منهها" کی منزل پر پہنچ کر دم لے۔

کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچنے کیلئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو سڑک نیک ہو، دوسرا گاڑی میں پڑوں بھرا ہوا ہو، اگر سڑک نیک نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اگر پڑوں نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ دونوں چیزوں لازم و ملزم ہیں پس انسان کی مثل گاڑی

کی سی ہے شریعت کی مثال راستے کی سی اور طریقت کی مثال پڑوں کی سی ہے۔ انسان اگر وصول الی اللہ کی منزل پر پہنچنا چاہے تو اسے شریعت کے راستے اور طریقت کے پڑوں کی ضرورت پڑی گی لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک چیز کے بھی مسکر ہیں وہ اپنی گاڑی کو راستے سی میں رکا ہوا پائیں گے۔ کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان "فَفِرُّوا إلَى اللَّهِ" کے حکم پر بلیک کتنے ہوئے "تَحْلِقُوا بِالْخَلَاقِ اللَّهِ" کے مطابق اخلاق خداوندی سے متعلق اور اوصاف محمدی سے متعلق ہو کر زندگی گزارے تاکہ "إِنَّابُوا إلَى اللَّهِ" کی جما سعت میں شامل ہو کر "لَهُمَا الْبَشَرِي" کی بشارت اور "وَرَضُوا مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ" کی منزل پر پہنچے۔ اسی کا نام تصوف ہے۔



باب 3

لقط "صوفی" کی تحقیق

— قرآن و حدیث میں مومنین کو مخاطب کرنے کے لئے کئی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ شلاذ اکریں، صابرین، خاشعن، صادقین، فاتحین، مو قین، مخلصین، محسین، غافین، ملین، عابدین، متوكلین، مستقین، مقرین، ابرار، فقراء، عباد، اولیاء سلف صالحین ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لئے ان میں سے مختلف الفاظ و تفاوت ان استعمال کیا کرتے تھے تاہم دو الفاظ (فقراء، عباد) نے زیادہ قبولیت پائی۔ دونوں کی ایک ایک مثال درج ذیل ہے۔

1) ایک موقع پر حضرت حسن بصریؓ نے ارشاد فرمایا۔

"يَا مُعْشِرَ الْفُقَرَاءِ إِنَّكُمْ تَعْرَفُونَ بِاللَّهِ وَتَكْرَمُونَ اللَّهَ فَانظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ وَامِعُ اللَّهَ اذَا خَلُوتُمْ بِهِ"

[اے فقراء کی جماعت! بے شک تم اللہ کو پہچانتے ہو اور اللہ کی تعظیم کرتے ہو، پس رکھو کہ جب تم خلوت میں ہو تو اللہ کے ساتھ کیسے ہو]

2) علامہ ابن الجوزیؓ نے سیرت عمر بن الخطاب میں (صفحہ 216 پر) لکھا ہے۔

"قَالَتِ الشَّفَاءُ رَأَتِي فِتِيَانًا يَقْصِدُونَ فِي الْمَشِى وَيَتَكَلَّمُونَ رُوِيدًا قَالَتِ مَا هُوَ لَاءُ قَالُوا نَسَاكَ" (یعنی عباد)

[شفاء (بنت عبد اللہ) نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ ان کی رفتار اور گفتار میں آہنگی پائی۔

جاری تھی۔ دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں، بتایا گیا کہ یہ عباد ہیں]

★ — فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن میں فقر ہو اور عبادان لوگوں کو کہتے ہیں جو عبادت گزار ہوں۔ چونکہ یہ دونوں لفظ اپنے موصوف کی صفت کی طرف اشارہ کرتے تھے لذا سلف صالحین اپنی باطنی صفات و مقالات پر نام پکارے جانے میں ریا کاری سے ڈرتے تھے طبیعت کا اشراحت اور ادب کا تقاضائی تھا کہ عادات ظاہرہ پر نام پکارا جائے۔ ظاہراً ان حضرات میں قدر مشترک صوف کا لباس تھا جسے یہ سنت سمجھ کر پہنچتے تھے دو احادیث درج ذیل ہیں۔

1) — شیخ ابو زرعہ طاہر بن محمد بن ظاہر نے اپنے مشائخ کی اسناد کے حوالے سے حضرت انس بن مالکؓ کی حدیث بیان کی ہے۔

”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف ویركب الحمار“ [نبی اکرم ﷺ اون کا لباس پہنچنے اور گدھے کی سواری کرتے تھے]
 2) — حضرت علی ہجوریؓ نے کشف الجوب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”علیکم بلبس الصوف تجدون حلاوة فی قلوبکم“

[تم اون کا لباس پہنوا کیاں کی حلاوت اپنے دلوں میں پاؤ گے]

★ — چونکہ صوف کا لباس (پشمیہ) پہننا انبیاء علیهم السلام کی عادت اور اولیاء و اصفیاء کا شعار تھا لہذا انہیں ظاہری لباس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ پس صوفی ایک بھل اور عام نام ہوا جو ان کے تمام علوم، اعمال، اخلاق اور تمام شریف اور قابل ستائش احوال کی خبر رکھتا ہے۔

حضرت ابو نصر سراج طویؓ لکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص اصحاب کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو

انہیں ان کے ظاہری لباس کی طرف منسوب کیا۔ ”اذقال الحواریون“ [جب حواریوں نے کہا] یہ لوگ سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی طرف منسوب کر دیا اور جن علوم و احوال سے یہ موسوم تھے ان میں سے کسی نوع کی

” طرف منسوب نہیں کیا۔ میرے نزدیک صوفیہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔“

(کتاب المدعی فی التصوف ص 55)

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صوفی کا لفظ صوف سے مشتق ہے یہی قول اقویٰ ہے۔ شیخ ابو بکر ابراہیم بخاری القلا بازی نے اپنی کتاب "التعارف المذهب التصوف" میں نفوی تحقیق کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(1) بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ "مَفْنَى" سے ہتا ہے وجد یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفی کا مقصود صفائی باطن کا حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لفظ "مَفْنَى" ہونا چاہئے تھا۔

(2) بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ "صف" سے ہتا ہے وجد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن انکلی صفوں میں ہوں گے اگر ایسا ہوتا تو یہ لفظ "صفیٰ" ہونا چاہئے تھا۔

(3) بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ "صف" سے ہتا ہے وجد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب صوف کی یادگار ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ لفظ "صفیٰ" ہونا چاہئے تھا۔

(4) بعض حضرات کہتے ہیں کہ "صوفی" کا لفظ "مُوْف" سے ہتا ہے وجد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ صوف کا لباس پہنتے تھے اگر ایسا ہے تو یہ لفظ صوفی ہی ہونا چاہئے تھا معلوم ہوا کہ صوفی کا لفظ مشتق "صوف" سے ہے مقصود اس کا "مَفْنَى" ہے نسبت اسے اصحاب "صف" سے ہے اور قیامت کے دن اس کا مقام "صف" اول ہو گا۔

❸ — صوفی کے لفظ کی نسبت صوف (پشیدہ) سے ہونے میں کمی ملکتیں بھی ہیں۔

(1) — پشیدہ زرم ہوتا ہے پس صوفی وہ شخص ہے جو دل کو زرم بٹانے کے لئے محنت کر رہا ہو۔

(2) — پشیدہ سفید ہوتا ہے پس صوفی وہ شخص ہے جو اپنے دل کو صوف کی طرح سفید کرنے کے لئے محنت کر رہا ہو۔

(3) — پشیدہ کی رنگ کو جلدی قول نہیں کرتا۔ پس صوفی وہ شخص ہے جو "صِبَّةُ اللَّهِ" اللہ کے رنگ میں ایسا رنگا جا پکا ہو کہ اب ماواکار رنگ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

صوفی کے عنوان سے متعلقہ چند مشہور سوالات کے جوابات قلمبند کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبر ۱: — صوفی کا لفظ جن الفاظ سے ماخوذ ہے کیا ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں ملتا ہے؟

جواب :- جی ہاں، صوفی کا لفظ جن الفاظ سے ماخوذ ہے ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) ایک قول کے مطابق صوفی کا لفظ صفات سے ماخوذ ہے تو قرآن پاک میں ہے۔
 ”ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنیان مرصوص“

[بیک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے راست میں میں باندھ کر جاد کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ سیسے پلائی ہوئی دیوار ہیں]۔

(۲) دوسرے قول کے مطابق صوفی کا لفظ صفات سے ماخوذ ہے تو حدیث پاک میں ہے۔
 ”عن ابى جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متغير اللون فقال ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها فالموت اليوم تحفة لكل مسلم“ (رسالة ثغیریہ)
 [حضرت ابو محیفہ رواحت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم پر لٹکے آپ کارگی حنیرت آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثالی چلی گئی اور میں کچیل رہ گئی ہیں آج تو موت ہر مسلمان کیلئے تحضی ہے]

(۳) تیسرا قول کے مطابق صوفی کا لفظ صفات سے ماخوذ ہے تو حدیث پاک میں ہے۔
 ”عن ابن عباس وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحاب الصفة فرأى فقرهم وجدهم وطيب قلوبهم فقال أبشروا يا اصحاب الصفة فمن بقى من امتى على النعم الذى انتم عليه راضيا بما فيه فانه من رفقاء في الجنة“ (کشف المجبوب)

[حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ اصحاب صفات پر تشریف لائے۔ آپ نے ائمہ فرقہ اور مشقت کو محسوں کیا تو فرمایا خوش ہو جاؤ اہل صفات

پس جو شخص میری امت سے تہاری روشن پر رہنا پسند کریگا وہ بہت میں میرا ساتھی ہو گا۔

4) — چوتھے قول کے مطابق صوفی کا لفظ صوف سے ماخوذ ہے تو حدیث پاک ہے۔

”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف و یبرکب الحمار“ [نبی اکرم صوف کالباس پہننے اور گدھے کی سواری کرتے تھے]

سوال نمبر 2: — لفظ صوفی کی کوئی اہمیت ہوتی تو قرآن و حدیث میں من و عن موجود ہوتے۔

جواب: — کسی لفظ کا من و عن قرآن و حدیث میں موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ لفظ غیر اہم یا غیر اسلامی ہے۔ مثال کے طور پر متکلمین کا لفظ قرآن و حدیث میں من و عن کہیں موجود نہیں تو کیا علم کلام غیر اسلامی ہو گیا۔ اس کے بغیر تو اسلامی عقائد بھی ثابت نہیں کئے جاسکتے۔ اسی طرح خود کا لفظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو کیا علم الخوضوں اور غیر اہم ہے اس کے بغیر تو قرآن و حدیث کو سمجھنا بھی ممکن نہیں۔

سوال نمبر 3: — صحابہ کرام کے دور میں تو کسی کو صوفی نہیں کہا جاتا تھا۔

جواب: — رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہنے کی ایک خاص عظمت اور خصوصیت تھی۔ یہ نعمت نصیب ہو گئی اس پر کوئی اور نام چپاں کرنا گستاخی تھی صحابہ کرام تو نسبت اور صحبت کی وجہ سے زاہدوں، عابدوں، متکلوں، صابریوں، اطاعت گزاروں اور فقراء کے پیشواء ہیں تمام احوال میں سے بہترن اور بزرگ ترین حال ان کو نصیب تھا۔ اب انہیں کسی اور فضیلت کی وجہ سے فضیلت دینا ناروا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”خیر الاقرءون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“

[بہترن زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ اسی طرح

بہترن لوگوں کا جوان کے بعد آئیں گے]

پس ساری دنیا کی سلوتوں اور بھلائیاں مل کر بھی صحبت رسول "کاظم البدل نہیں ہو سکتیں۔ امام شافعی" سے پوچھا گیا کہ سیدنا امیر معلویہ "افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز؟" "قمام شافعی" نے جواب دیا کہ سیدنا امیر معلویہ "جب نبی علیہ السلام کی سمعیت میں جہاد پر نکلے تو ان کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے اس لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے اقتیاء، اصنیعاء اور اولیاء مل کر بھی کسی اونیٰ صحابی "کے دوستے کو نہیں پہنچ سکتے۔

پس جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت پائی وہ خوش نصیب حضرات صحابی کملائے، جنہوں نے صحابہ "کی صحبت پائی وہ تابعین کملائے اور جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی وہ تابع تابعین کملائے یہ تینوں شبیثیں مندرجہ بالا فرمان نبوی ﷺ کی بنابر خبر کی غمازی کرتی تھیں۔ لہذا ہر شخص اس نسبت کے ساتھ پکارا جانا اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ پس صحابہ، تابعین اور تابع تابعین کے بعد امت کے مشائخ صوفیا کے نام سے مشور ہوئے حضرت امام قشیری "کی تحقیق کے مطابق یہ لفظ دوسری صدی ہجری سے پہلے زبان زد عالم تھا۔

سوال نمبر 4:- صوفی کا لفظ سب سے پہلے کب استعمال ہوا؟ سناؤ ہے کہ یہ اہل بغداد کی ایجاد ہے؟

جواب:- حضرت ابو نصر سراج طوی "نے تاریخ کمک کے حوالے سے محمد بن اسحاق بن یسیار" اور دیگر لوگوں کی روایت سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ "اسلام سے پہلے ایک بار مکہ خالی ہو گیا تھا یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہ تھا درور دراز سے ایک صوفی آتا اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلا جاتا۔"

تاریخ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اہل عرب کو اسلام سے پہلے بھی معلوم تھا صاحب فضیلت اور صالح نوگ ای نام سے موصوف ہوتے تھے "والله اعلم"

حضرت حسن بصری "جنہوں نے اخبارہ بدتری صحابہ "کی صحبت کا شرف حاصل کیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے باطنی فیضان پالیا۔ ان کے وقت میں صوفی کے لفظ کا مستعمل ہونا تو یقینی امر

ہے۔ حضرت ابو نصر سراج طویٰ فرماتے ہیں۔

”لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نام بغدادیوں نے مگر لیا ہے غلط ہے۔ چونکہ یہ نام تو جس بھری“
کے عمد میں بھی مستعمل تھا۔ حضرت حسن بھری“ سے روایت ہے کہ میں نے طواف کے
دوران ایک صوفی کو دیکھا اور اسے کچھ دیا۔ اس نے نہیں لیا اور کہنے لگا۔ میرے پاس چار دافن
پڑے ہیں اور کافی ہیں“ (کتاب اللہ فی التصوف ص 65)

معلوم ہوا کہ صوفی کا لفظ تابعین کے دور میں احیاناً استعمال ہوتا تھا تابعین کے دور میں
سبتاً زیادہ استعمال ہونے لگا اور ان کے بعد دوسری صدی ہجری سے پہلے زبانِ زد عام ہو گیا۔ امام
مقیمان ثوری“ اپنے وقت کے ایک شیخ کو ابو ہاشم صوفی کہا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل“ اپنے
وقت کے ایک شیخ ابو حمزہ بغدادی“ کو صوفی کہتے تھے۔

صوفی کون ہوتا ہے...؟

★ — حضرت حسن بھری“ کے شاگرد عبد الواحد بن زید“ سے پوچھا گیا صوفیاء کون ہوتے ہیں؟
فرمایا جو اپنی عقولوں کے ذریعے اپنے ارادوں پر قائم ہوتے ہیں اور اپنے دلوں سے اس پر ڈٹے
رہتے ہیں اور اپنے شر سے بچنے کی خاطر اپنے آقا کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں۔

★ — حضرت زوالون مصری“ سے پوچھا گیا تو فرمایا:
”صوفی وہ ہے جسے جتو تھکانہ لے کے اور محرومیت کی وجہ سے بے چین نہ ہو۔“

★ — حضرت ابو محمد رومی“ سے پوچھا گیا تو فرمایا:
”جس کا کروار اس کی گفتار کے موافق ہو۔“

★ — کسی عارف نے اسی سوال کا جواب دیا:


صوفی آں باشد کہ صافی شود از کدر پر شود از فکر
در قرب خدا منقطع شود از بشر۔ یکساں شود در چشم او خاک وزر

”صوفی وہ ہوتا ہے، جو میں سے صاف ہو، فکر سے پر ہو، خدا کے قرب میں خلوق سے
ذور ہو اور اس کی نگاہ میں سوتا اور مٹی پر ابر ہو۔“

★ — حضرت شبلیؒ نے فرمایا:

”صوفی وہ ہے جو مخلوق سے کئے اور اللہ سے جڑے۔“

پس صوفی وہ ہوتا ہے جس کو جانوروں کی آواز، ہر ایک سوزوساز، چڑیوں کی خلاصہ کلام:- چمک، پھولوں کی منک، بزرے کی لمک، جواہرات کی دمک، سورج کی چمک، سماں و سمک، درختوں کے رنگ، شیشہ و سنگ، پتھر کی سختی، خوشحالی و بد بختی، زمین کی نرمی، آتش کی گری، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، پہاڑوں کے ابھار، بیان و مرغزار، خزان و بمار، غرض ہر چیز ایک نادیدہ ہستی کی یاد دلائے۔ اللہ اللہ اللہ



باب 4

بیعت طریقت کا شرعی ثبوت

آج امت مسلمہ کی زبوں حالی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ بھی سے اور کھوٹا کھرے سے بالکل بیوست نظر آتا ہے۔

م ناطقہ سرگردان ہے اسے کیا کہیے
جس طرح علم ظاہر کے حامل علمائے حق کی صفوں میں علمائے سوء داخل ہو چکے ہیں اسی طرح علم باطن کے حامل مشائخ حق پرست کے بھیں میں نفس پرست لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ عوام الناس کی روحانی اور باطنی تنزیل کی انتہا یہاں تک ہو چکی کہ ایک طبقے نے بیعت طریقت کو لازم قرار دے کر فرائض کے ترک کرنے اور شریعت و طریقت کو الگ الگ ثابت کرنے کا بہانہ بنالیا۔ ”صلوا فاضلوا“ [خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا] دوسرے طبقے نے بیعت طریقت کو بدعت و گراہی سمجھ کر اسکی خلافت کا بیدار اٹھایا۔ ”ویا اسفی“

ان حالات میں اہل حق کیلئے افراط و تفریط کے شکار ان دونوں طبقوں سے چوکھی لڑائی لڑنے کے سوا چارہ نہیں۔ تاکہ احکام شریعت کو نکھار کر پیش کیا جائے اور حق و باطل کی حد فاصل کو واضح کیا جائے و درج ذیل میں بیعت طریقت کی شرعی حیثیت کو پیش کیا جاتا ہے۔

بیعت کی تعریف :- شریعت کی کسی بات کیلئے لوگوں سے عمد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سرانجام دیں گے۔ خواہ پوری شریعت کا عمد لیا جائے یا کسی خاص بات کا عمد لیا جائے۔ اس کو بیعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس امر کو بہت سے موقع پر

مرانجام دیا۔ صحابہ کرامؓ نے نبی اکرم ﷺ سے چار طرح کی بیعت کی جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

1) بیعت اسلام:- جب کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہتا تو نبی اکرم ﷺ اس سے بیعت لیتے تھے۔ روایات سے ثابت ہے کہ بھرت سے قمل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہوئے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیٰ کا تذکرہ حدیث کی معتبر کتب میں موجود ہے۔

2) بیعت جہاد:- رسول اللہ ﷺ نے حدیثیہ کی لائی کے وقت صحابہ کرامؓ سے عمد لیا تھا کہ اگر دشمن سے مقابلے کی نوبت آئی تو بھائیں گے نہیں بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”لَقَدْ رضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“ (الفتح آیت 18)

[بِالْتَّعْمِلِ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ مُسْلِمَوْنَ سَعَى خُوشْ هُوَ جَبَدَ يَهُ لَوْگُ آپُ سَعَى درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے]

★ حضرت سلمہ بن اکوع اس بیعت میں شریک تھے ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے درخت (سمروہ) کے نیچے کس پات پر بیعت کی تھی فرمایا ”عَلَى الْمَوْتِ“ یعنی ہم مر جائیں گے بھائیں گے نہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ارشاد ہوا۔

”أَنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ أَنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ (الفتح آیت 10)

[جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے]

★ غزوہ احزاب میں خدق کھوتے ہوئے صحابہ کرامؓ نے اشعار پڑھے۔

”نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِيَنَا إِبْدَا“

[ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ سے بیعت کی ہے جاد کرنے پر جب تک زندہ رہیں گے] مندرجہ بالا شعر میں اس بیعت جہاد کی طرف اشارہ ہے۔

(3) — بیعت ہجرت :— حارث بن زیاد سالمیؑ فرماتے ہیں کہ میں یوم خدق میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپؐ لوگوں سے ہجرت پر بیعت لے رہے تھے۔ میرا مگن ہوا کہ یہ لوگ بیعت کیلئے بلاسے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس سے بھی ہجرت پر بیعت لے لجھئے۔ آپؐ نے فرمایا! یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے چھپرے بھائی حوط بن یزید ہیں یا یزید بن حوط۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! میں تم لوگوں سے بیعت نہیں لیتا۔ لوگ تو تمہاری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں تم لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نہ جاؤ گے..... الی آخرہ۔ اس کو احمد، ابو قیم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

(4) — بیعت توبہ (بیعت طریقت) :— امت کی تعلیم کیلئے رسول اللہ ﷺ نے بعض اوقات محبہ کرامؓ سے بعض گناہوں کے نہ کرنے پر بیعت لی۔
امام بخاری و مسلم نے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت کی ہے۔

”عن عبادۃ بن صامت“ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحوله عصابة من اصحابه بابیعونی على ان لا تبشر کو بالله شيئا
ولا تسرقو ولا تزنووا ولا تقتلوا ولا دكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه
بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم
فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فاعوقب به في الدنيا فهو
كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله
ان شاء عفأعنه وان شاء عاقبه فبایعنانه على ذلك“

(تفق علیہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو۔ ”وحوله عصابة من اصحابه“ [اور ان کے گرد محلہ کی ایک جماعت تھی] یہاں اصحابہ کا لفظ اس بات کی نشان دہی

کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیعت اسلام سے پسلے ہی مشرف ہو چکے تھے ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ رحمتہ للعالیین کی نظر رحمت نے ان کو روحانیت کی ان بلندیوں تک پہنچایا تھا کہ امت کے اولیاء ان کے مرتبہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ کرام سے بیعت توبہ لی گئی۔ یہاں پر ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جوابات قلبند کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبر 1: - صحابہ کرامؐ کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟

جواب: - ایک تو یہ امت کی تعلیم کے لئے تھی اور دوسرا گناہوں سے بچنے کے لئے (بیعت توبہ) تھی روایت کے الفاظ میں "و لا تسرقو و لا تزنوا و لا تقتلوا او لا د کم" [ن چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے] پس ثابت ہوا کہ کہاڑ سے اعتناب کے لئے بیعت تھی۔

سوال نمبر 2: - صحابہ کرامؐ کو اس بیعت کا کیا فائدہ تھا؟

جواب: - اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا امیدوار بنتا تھا۔ چنانچہ روایت کے الفاظ میں "فمن و فی منکم فاجرہ علی اللہ" [جو کوئی تم میں سے اس عمد پر قائم رہا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے]

سوال نمبر 3: - کہاڑ سے بچنا تو ایمان والوں کے لئے کلمہ بڑھ لینے کے بعد دیسے ہی ضروری تھا تو بیعت کے ذریعے اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ان گناہوں سے بچنے کا عمد ایک فال تو عمل نظر آتا ہے؟

جواب: - قرآن پاک میں سورۃ المحتذہ میں صحابیاتؓ سے بھی اس طرح کی بیعت کا تذکرہ ہے وہاں نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ "فبَايَهُنْ وَاسْتَغْفِرُلَهُنَّ اللَّهُ" [آپ انہیں بیعت کر لیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے] معلوم ہوا کہ ان گناہوں سے توبہ تو وہ لوگ گھر بیٹھ کر تمہائی میں بھی کر سکتے تھے۔ مگر نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے میں ایک بے بدال فائدہ یہ تھا

کہ نبی اکرم ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے بھی ان حضرات کے بارے میں استغفار کے کلمات ادا ہوتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ”والله غفور رحیم“ [اور اللہ غفور اور رحیم ہے] پس مغفرت اور رحمت کی بارش ہو جاتی۔

قرآن پاک میں بھی اسی عنوان سے متعلقہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءو کہ فاستغفروالله

واستغفرلہم الرسول لوجودواالله توابا رحیما“

اس آیت کیسے میں ”فاستغفروا الله“ [وہ اللہ سے استغفار کرتے] کے ساتھ ”واستغفرلہم الرسول“ [ان کے لئے رسول اللہ ﷺ بھی استغفار کرتے] بھی ہے اور آخر میں فرمایا گیا ”لوجودواالله توابا رحیما“ [یہ پاتے اللہ کو توبہ قول کرنے والا اور رحمت کرنے والا] نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ نبی رحمت ﷺ بھی ان کی مغفرت کے لئے استغفار کریں اور اسی کو بہانہ بنانا کران کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے۔ اسی بیعت توبہ کا نام آج بیعت طریقت ہے۔

سوال نمبر 4:- اس بیعت توبہ کے بارے میں اور بھی روایات ہیں یا نہیں؟

جواب:- اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عوف بن مالک ابھی سے ایک روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے چند غریب مهاجرین سے بیعت لی کہ وہ کسی سے سوال نہ کریں گے۔ ایک روایت میں حضرت جریر بن عبد اللہ سے بیعت لی کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ ایک روایت میں انصاری عورتوں سے بیعت لی کہ وہ میت پر بین نہیں کیا کریں گی۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ ہم لوگ حضور اکرم ﷺ سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے۔

سوال نمبر 5:- اگرچہ نبی اکرم ﷺ سے کئی طرح کی مسجیبی ثابت ہیں مگر صحابہ کرامؓ کے زمانے میں بیعت خلافت اور بیعت جہاد کے سوا اور کسی بیعت کا ثبوت نہیں ملتا؟

جواب:- اس کا ازالی جواب تو بہت آسان ہے کہ جب ایک فل رسل اللہ ﷺ سے ثابت ہے تو کسی اور سے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے تاہم تحقیق جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبرؑ اور حضرت سیدنا علیؓ سے ثابت ہے اسی لئے تمام اہل طریقت حضرات کے پاس مستند شجرہ سلسلہ موجود ہے خلفائے راشدین جب بیعت خلافت لیتے تھے۔ تو اسی میں بیعت توبہ شامل ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت کے علاوہ دوسرے صحابہ کرامؓ اس لئے بیعت نہ لیتے تھے کہ کہیں بیعت خلافت میں شبہ نہ پڑ جائے اور فتنہ نہ کرو ہو جائے۔ فقط صحبت پر اتفاق ہوتا تھا جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا اور خلافت کا معاملہ امورِ مملکت کے انتظام و اصرام اور نظم و نسق تک سست کر رہ گیا تو سلف صالحین نے بیعت توبہ (بیعت طریقت) والی سنت کو زندہ کیا۔ الحمد للہ آج بھی یہ سنت امت میں جاری و ساری ہے۔

سوال نمبر 6:- بیعت توبہ کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے یا واجب ہے؟

جواب:- نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت عمل ہے یہ الگ بات ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے فرانص زندہ ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 7:- اگر کوئی آدمی یہ بیعت نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب:- اس سنت کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔

”من تمسک بستی عند فساد امتی فله اجرماۃ

”شهید“

[جس نے فرادت کے وقت میں میری ایک سنت پر عمل کیا اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہو گا]

سوال نمبر 8:- کیا ہر عالم اور صوفی یہ بیعت لے سکتا ہے؟

جواب:- جس طرح بنی اکرم اللہ علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبرؑ کو خلافت پر فرمائی۔ اور باطنی نعمت بھی منتقل فرمائی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

”ما صب الله فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابی بکرؓ“

[اللہ نے میرے پیٹے میں جو کچھ ڈالا میں نے اسے ابو بکرؓ کے پیٹے میں ڈال دیا]

اس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ سے یہ سلسلہ آگے چلا اور آج تک اولیائے امت میں یہ نعمت ہے۔ یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے پس بیعت صرف وہ شخص لے سکتا ہے جس نے کسی ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر نعمت بالطفی حاصل کی ہو اور ان بزرگوں نے انہیں اس کام پر مأمور کیا ہو۔ جو آدمی از خود بیعت لیتا شروع کر دے اس کی مثال ”پیچے کے آم“ کی ہے جس کے نسب کا پتہ نہیں ہوتا۔ پس ایسے شخص سے بیعت نہ کرنی چاہئے۔

سوال نمبر 9:- کیا کوئی عورت بھی یہ بیعت لے سکتی ہے؟

جواب:- اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عورت ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچ سکتی ہے مگر شریعت نے رشد و ہدایت کے منصب کی زندگی داریاں اس کے نازک کندھوں پر نہیں ڈالیں اس لئے کبھی کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ مگر اسے نبیوں کی ماں ہونے کا شرف نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کا بوجھ مروؤں کے کندھوں پر رکھا اس لئے انبیاءؐ کی دراثت بھی مروؤں ہی کے پر دی کی گئی۔ پس کوئی بھی عورت بیعت نہیں لے سکتی۔

سوال نمبر 10:- کیا بیعت کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دیکر کلمات پڑھنا ضروری ہے؟

جواب:- ہاتھ میں ہاتھ دیکر کلمات پڑھنا سنت ہے اس پر ضرور عمل کرنا چاہئے۔ اگر لوگ بست زیادہ ہوں تو چادر پھیلا کر سب اسے پکڑ لیں۔ یہ بھی عمل نبوی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پتھر چھوٹا تھا۔ اخوانے کی سعادت حاصل کرنے والے زیادہ تھے تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنی چادر میں رکھ دیا اور سب لوگوں نے چادر پکڑ کر جگر اسود کو اخhalb کیا۔ اگر جمع اس سے بھی زیادہ ہو تو فقط کلمات پڑھا کر نیت کر کے بیعت لی جاسکتی ہے۔ محلہ کرامؓ نے مجاہدین سے اسی طرح جماد پر بیعت لی۔

سوال نمبر 11:- کیا عورتیں بھی ہاتھ میں ہاتھ دیکر بیعت کریں؟

جواب:- ہرگز نہیں، نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ عورتوں کو پردے میں بغیر ہاتھ مس کے بیعت فرماتے تھے ایک روایت میں ہے۔

”عن عائشة“ قالت مامس رسول الله صلی اللہ علیہ

و سلم يد امراء قط الا ان يأخذ عليها فاذا اخذ عليها
فأعطته قال اذهبى فقد بایعتك"

[حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ بوقت بیعت رسول اکرمؐ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں کپڑا بلکہ ایک کپڑا کپڑوادیتے اور (دعظ و تلقین کے بعد) ارشاد فرماتے کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی]

سوال نمبر 12: - پچوں کی بیعت کا کیا جواز ہے؟

جواب: - مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت زینؑ کو بیعت کے لئے لا یا گیا۔ عمر سات آٹھ سال ہو گی۔ پس نبی اکرم ﷺ ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکرائے اور پھر بیعت کی۔

سوال نمبر 13: - کیا غالباً بھی بیعت کی جاسکتی ہے؟

جوب: - جی ہاں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے صحابہ کرامؐ سے بیعت لی۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنیؓ کو بھی غالباً بیعت میں شامل کیا۔ حالانکہ وہ تو اس وقت مکرمہ میں تھے۔ لہذا غالباً بیعت کا ثبوت ملتا ہے۔

سوال نمبر 14: - کیا خط کے ذریعے یا میلی فون پر بیعت کی جاسکتی ہے؟

جواب: - جی ہاں۔ جب غالباً بیعت ثابت ہے تو خط کے ذریعے بیعت اسی میں شامل ہے میلی فون کے ذریعے بیعت توبدرجہ اولی جائز ہے۔

سوال نمبر 15: - کیا ایک وقت میں کئی حضرات سے بیعت کی جاسکتی ہے؟

جواب: - نہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہئے۔ جگہ جگہ بیعت کرنے والے کی مثال چیچے کی مانند ہے۔ جو طرح طرح کے لکھاؤں میں ڈوبارتا ہے۔ گرذائت سے محروم رہتا ہے۔

م یک دست گیر حکم گیر

سوال نمبر 16: - کیا ایک شیخ کی وفات کے بعد کسی دوسرے شیخ سے بیعت کرنا ضروری ہے؟

جواب: - جی ہاں، اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا حصول نہیں ہوا تو تجدید بیعت ضروری

ہے۔ مثلاً ایک طالب علم کسی قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ قاری صاحب فوت ہو جائیں تو طالب علم قرآن پاک پڑھنا بند نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے استاد سے پڑھنا اور قرآن پاک مکمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ البتہ جن حضرات کو نسبت کے حصول کی بشارت مل چکی ہو انہیں تجدید بیعت کرنا ضروری نہیں۔

سوال نمبر 17: جو لوگ بیعت کے خلاف ہیں کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھیں؟

جواب: پڑھی تو یقیناً ہوں گی مگر سمجھی یقیناً نہیں۔ ورنہ اتنے واضح مسنون عمل پر یوں اعتراض نہ کرتے۔ بیعت طریقت کی مخالفت کرنے والوں کا حال چند الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ”وَ كَذِبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ“ (یونس آیت 39) [ایسے کلام کو جھلانے کے جس کے علم کا ابھی تک انہوں نے احاطہ بھی نہیں کیا]

سوال نمبر 18: بیعت طریقت کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟

جواب: بیعت کے اغراض و مقاصد وضاحت سے بیان کئے جاتے ہیں۔

(1) نہ اس میں کشف و کرامات کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

(2) نہ قیامت میں بخشوائے کی زندہ داری ہے۔

(3) نہ دنیاوی کاموں میں کامیابی مثلاً غلبہ ہو، مقدرات فتح ہوں وغیرہ ضروری ہے۔

(4) نہ تصرفات لازم ہیں کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔

(5) نہ ایسی محیت کا حاصل ہو نالازمی کہ اپنے پرائے کی خبرنہ ہو۔

(6) نہ ہی رنگوں اور انوار کا نظر آنا ضروری ہے۔

(7) نہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا ضروری ہے۔

بلکہ اصل مقصد تشریعت کے احکام پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔

سوال نمبر 19: بیعت کی افادت کے لئے عقلی دلائل پیش کریں؟

جواب: تین دلائل سے یہ بات واضح کی جاتی ہے۔

★ — جس طرح ایک نوجوان فوج میں ملازمت اختیار کرے اور وردی پھن کر کسی جگہ ڈیونی سر انعام دے رہا ہو تو ہر آدمی اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ اس کی عزت فوج کی عزت اور اس کی ذلت فوج کی ذلت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس قبیلے یا خاندان سے ہو؟ فوج کی نسبت اور وردی کی عزت کام آتی ہے۔ اسی طرح جو شخص مشائخ طریقت سے بیعت ہو جاتا ہے اس کو سلسلہ کے بزرگوں سے روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العوت کے ہاں اس نسبت کی وجہ سے اس کی عزت و قدر بڑھ جاتی ہے۔

★ — دو اینیشن ایک ہی جگہ بن کر تیار ہوئیں۔ ایک کو مسجد کے فرش میں لگادیا گیا۔ دوسری کو بیت الخلاء میں لگادیا گیا۔ ایک کا مرتبہ اتنا بڑھا کر ہاں پیشانی شکنے پھرتے ہیں اور دوسری کا مرتبہ اتنا گرا کہ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں جانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نسبت تھی، اچھی نسبت نے عزت بخشی اور بُری نسبت ذلت کا سبب بنی۔ اسی طرح جو شخص مشائخ طریقت سے بیعت ہو جاتا ہے اسے اچھی نسبت مل جاتی ہے۔ اللہ رب العوت کے ہاں اس کا اکرام ہوتا ہے۔

★ — قرآن پاک پر اگر ایک سادہ گتہ جلد کی شکل میں چڑھادیا جائے تو اگرچہ اس پر کوئی آیت یا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ اس کے باوجود فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس طرح آیات لکھے ہوئے صفحات کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی طرح اس گتے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے۔ کہنے کو وہ گتہ ہے مگر قرآن پاک کے ساتھ یہک جان ہونے سے اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص مشائخ طریقت سے بیعت کے زریعے جڑ جاتا ہے اسے بھی ان اہل اللہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ انشاء اللہ اسی نسبت کی وجہ سے رحمت و کرم کا معاملہ ہو گا۔ بقول شیخ

۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے

رہے سلامت تماری نسبت مرا تو میں آسرا یکی ہے

سوال نمبر 20: — ایک آدمی بیعت کے کلمات تو پڑھ لیتا ہے مگر زندگی نہیں بدلتا تو کیا فائدہ؟

جواب: — گواہیے شخص نے بیعت سے پورا فائدہ تو حاصل نہ کیا مگر بالکل خالی بھی نہ رہا کم از کم

دوفاائدے ضرور طے۔ ایک تو یہ کہ بیعت کے وقت جو توبہ کے کلمات پڑھے اس کی برکت سے اشاء اللہ مجھے گئہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلاً طریقت نے احادیث کی روشنی میں کہا ہے کہ جو آدمی پچھے دل سے بیعت کے کلمات پڑھ لیتا ہے، سو سال کا کافر اور مشرک کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سر سے اتنے بڑے بوجھ کا دور ہو جانا معمولی بات تو نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ موت کے وقت جب دنیا کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے آخرت کے احوال سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں اس وقت یہ نسبت کام آتی ہے گنگار سی مگر موت ایمان اور اسلام پر آتی ہے علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اکشاف آخرت کے ساتھ دنیا کا ہوش جمع ہو سکتا ہے۔ فرعون نے آخرت کی جھکلی دیکھی مگر اسے نبی اسرائیل کے حالات یاد تھے کہ نہ کام "آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل" ممکن ہے اسی لئے حضرت خواجہ فضل علی قریشی نے فرمایا کہ جس قلب پر یہ انقلی لگی (یعنی اللہ کی نسبت مل گئی) اسے ذکر کے سوا موت نہیں آسکتی۔

خلاصہ کلام:- بیعت طریقت کرنے سے انسان کو اپنے مشائخ سلسلہ کے واسطے نبی اکرم ﷺ کے قلب مبارک سے ایک روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ وضاحت کے لئے دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(1) — ایک آدمی نیا گھر بنائے خوب سجائے واڑنگ کروائے فاؤس لگوائے گمراں کے فاؤس میں اس وقت تک روشنی نہیں آسکتی جب تک کہ وہ واڑنگ کا سکھش پاور ہاؤس سے نہ جوڑے اسی طرح انسان جب دل کے فاؤس کا سکھش سلسلہ کے مشائخ کی واڑنگ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جوڑتا ہے جو رحمتوں کا خزینہ ہے تو پھر سالک کے دل میں روشنی آتی ہے انوار در برکات نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے مشائخ کے قلوب سے ہوتے ہوئے سالک کے قلب میں آتے ہیں۔


(2) — ایک ٹرین کی ڈبوں پر مشتمل ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ ایک اور ڈبہ جوڑ دیا جائے تو جمال ٹرین پہنچے گی، وہ ڈبہ بھی پہنچ جائے گا یوں سوچنے کہ سلسلہ کے مشائخ ٹرین کی ماہند نبی اکرم ﷺ اس ٹرین کے انجن کی ماہند اور سالک اس سے جڑنے والے ڈبے کی ماہند، یہ ٹرین اللہ

کی رضاۓ اسیش پر جاری ہے اگر یہ ذہب جزار ہے گا تو جہاں انہیں منزل پر پہنچے گا اس تھڑہ
کلاس ذبے کو بھی منزل پر پہنچا نصیب ہو گا۔

ع لذیز بود حکایت دراز تر گفتہم

آدم بر سر مطلب وہ حضرات جواب تک بیعت کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار رہے
ہیں انہیں چاہئے کہ اس سعادت عظیمی کے حصول میں دیر نہ لگائیں بلکہ کسی جامع الشریعت
والفریقت ہستی سے اپنے باطنی رشته کو جوڑیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کے پر فتن دور میں کسی
شیخ کامل کے ذریعے سلسلے میں داخل ہونے والے کی مثال "ومن دخله کان آمنا" [اور
جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا] کا مصدقہ ہے۔

ع شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات



باب 5

ضرورت مرشد

ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور رجال اللہ کو ذریعہ بنایا۔ کئی مرتبہ ایسا تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بعوث فرمایا مگر کتاب نہیں بھیجی۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کتاب بھیج دی ہو مگر نبی "کونہ بھیجا گیا ہو۔ اس سے رجال اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مزید براں کبھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا جب تک کہ اتمام جنت کے لئے نبی کو نہ بھیجا گیا ہو۔ فرمان الہی ہے۔

"وَمَا كُنَّا مُعذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا" (بنی اسرائیل: آیت 15)

[اور ہم (کبھی) سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے۔]

یہ اس لئے کہ ہر انسان کو اپنی تربیت کے لئے ملی اور تذکیرہ کے لئے مرکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ درج ذیل میں اس کے لاکل پیش کئے جاتے ہیں۔

قرآن مجید سے ولاائل:

وَمَلِئَ نُبُرًا:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

"وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مِنْ أَنَابِ الِى" (لقمان: آیت 15)

تفسیر جلالین میں ہے "وَاتَّبِعُ سَبِيلَ" (طريق) "مِنْ أَنَابِ" (رجع) الِى بالطاعة" (جلالین صفحہ 347)

تفسیر عثمانی میں اس آیت کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے [یعنی پیغمبروں اور علم بندوں کی راہ پر چل]۔

(تفسیر عثمانی صفحہ 548)

تفسیر مawahib الرحمن میں اس آیت کے تحت فرمایا گیا "اور تو ایسے شخص کی راہ چل جو ہمہ تن میری جانب جھکا ہے۔ یعنی وہ اولاً تفسیر الله تعالیٰ ہیں اور ثانیاً آپ کے صاحبین ام است ہیں۔ (مواهب الرحمن صفحہ 83)

دلیل نمبر 2:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

بِاِيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لِعِلْكُمْ تَفْلِحُونَ (المائدۃ: آیت 35)

[اے ایمان والو! اللہ سے ذر و اور اس کا تقرب ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماڑ کیا

کرو، امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے]

"وابتغوا اليه الوسيلة" کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں "الوسيلة هي التي یتوصل بها الى تحصیل المقصود" (تفسیر ابن کثیر عربی صفحہ 54) وابتغوا اليه الوسيلة کے تحت تفسیر جلالین میں ہے۔ "ما یقریبکم اليه من طاعته" (جلالین صفحہ 99)

لہذا محققین تفسیر کا فریلن ہے کہ الوسیلے سے مرشد مراد ہے جو سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور انسان کی اصلاح کا جب کہ "وجاهدوا فی سبیلہ" میں نفس کے خلاف مجاہد ہے (اشغال تصوف) کی طرف اشارہ ہے حدیث پاک میں ہے۔ "المجاهد من جاهد نفسه فی طاعة الله" (مشکوہ شریف)

[مجاہد ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جماڑ کرے]

مرشد عالم حضرت خواجہ غلام جبیب "اپنے بیانات میں اس آیت کے تحت فرماتے تھے۔ آسمان سے بارش کون بر ساتا ہے؟ اللہ، مگر بادل و سیلہ بن جاتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر ماں باپ و سیلہ بن جاتے ہیں۔ دل میں انوارات کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر پیر و مرشد اس کا و سیلہ بن جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "وابتغوا اليه الوسيلة" [اور اس کی طرف و سیلہ ڈھونڈو]

ویل نمبر 3:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ الصَّادِقِينَ“

(التوہ: آیت نمبر 119)

[اے ایمان والو! اللہ سے ذرداً اور پھوں کے ساتھ رہو]

علامہ ابن کثیر صادقین کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”قَالَ الصَّحَاكُ هُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَصْحَابَهُمَا“ (تفسیر ابن کثیر عربی صفحہ 407)

یہ بات ذہن نشیں رہے کہ مشائخ طریقت کے سلاسل اربعہ واسطہ بہ واسطہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ و بھہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبرؑ سے ملتے ہیں حضرت مفتی محمد شفیعؒ فرماتے ہیں ”اس جگہ قرآن کرم نے علماء و صلحاء کی بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرمایا کہ عالم و صالح کی پہچان ہتلادی کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو۔ عمل کا بھی سچا ہو۔ (معارف القرآن)

صفاف ظاہر ہے کہ آج کے دور میں صادقین کا مصدقان مشائخ عظام ہی ہیں۔

ویل نمبر 4:- امام رازی ”انی تفسیر کبیر میں ”انعمت علیہم“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”لَمْ يَكْتُفِ عَلَيْهِ (اَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) بِلْ قَالَ صِرَاطُ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرِيدَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْوَصْولِ إِلَى مَقَامَاتِ الْهَدَايَةِ الْمَكَاشِفَةِ إِلَّا إِذَا افْتَدَى بِشِيخٍ يَهْدِيهِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ وَيَجْنِبَهُ عَنِ مَوْاقِعِ الْأَغْالِبَطِ وَالْأَضَالِيلِ وَذَلِكَ لَأَنَّ النَّقْصَ غَالِبٌ عَنِ الْخُلُقِ وَعَقْوَلِهِمْ غَيْرُ وَافِيةٍ بِإِدْرَاكِ الْحَقِّ وَتَمْيِيزِ الصَّوَابِ عَنِ الْفَلْطِ فَلَا بَدْمَنْ كَامِلٌ يَقْتَدِي بِهِ النَّاقِصُ حَتَّى يَتَقَوَّى عَقْلُ ذَلِكَ النَّاقِصِ بِنُورِ عَقْلٍ إِلَى مَدَارِجِ السَّعَادَاتِ وَمَعَارِجِ الْكَمَالَاتِ“ (تفسیر کبیر)

[اللہ تعالیٰ نے صرف "اہدنا الصراط المستقیم" کے الفاظ پر کفایت نہیں کی۔ بلکہ "صراط الذین انعمت علیہم" بھی ساختہ فرمایا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرید کے مقالات ہدایت اور مکافہ تک پہنچنے کی سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ وہ ایسے شیخ و رہنمائی اقتدا کرے جو اسے سیدھے راستے پر چلائے اور گمراہیوں اور غلطیوں کے موقع سے پچائے اور یہ اس بات پر ضروری ہے کہ اکثر مخلوق پر نقص اور کوئی نالب ہے اور ان کے عقول و اذہان کے حق تک پہنچنے اور صواب کو غلط سے تیز کرنے میں پورے نہیں اترنے تو چرا یہ کامل کی اقتدا ضروری ہے جو ناقص کی رہنمائی کرے۔ تاکہ ناقص کی عقل کامل کے نور سے قوت پکڑے۔ ایسا یہ کرنے سے ناقص (انسان) سعادتوں کے مدارج اور کملات کی سیر ہمیوں کو عبور کر سکتا ہے] پس مرشد و منی کی ضرورت کیلئے یہ دلیل اعتماد جبت کا درجہ رکھتی ہے۔

دلیل نمبر 5:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءه و كث (النساء: آیت 65)

علامہ سید امیر علی مبلغ آبادی اس آیت کے تحت ارجام فرماتے ہیں:

"اس آیت میں دلالت ہے کہ بندہ گنگار اگر کسی بندہ صالح و پر ہیرگار سے دعا کروے تو قابل قبولیت ہوتی ہے اور جو لوگ اس زمانہ میں پیروں کے مرید ہوتے ہیں وہ بھی یہی توبہ ہے۔" (تفہیم مواہب الرحمن صفحہ 109)

آیات بالا سے یہ ثابت ہوا کہ آج کے دور میں بھی جو بندہ گنگار کسی شیخ کامل تبع شریعت و سنت کو تلاش کرے گا۔ وہ "وابستفو الیہ الوسیلة" پر عمل کرے گا۔ اگر اس شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت توبہ کرے گا تو "اذ ظلموا انفسهم جاءه و كث" پر عمل کرے گا۔ اگر شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے گا تو کونو ام مع الصادقین کا ثواب پائے گا۔ اگر شیخ کامل کے پہدو نصائح پر عمل کرے گا تو "واتیع سبیل من اناب الی" پر عمل کرنے والوں میں شمار ہو گی۔ یہی راستہ "صراط الذین انعمت علیہم" کا مصدق ہے جس پر چلتے کی ہر چھوٹا بڑا صبح و شام دعائیں کرتا ہے۔ رہی یہ بات کہ آج کے دور میں صاحب شریعت مشائخ کم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ٹلاش ہی چھوڑ دے یا ان کی ضرورت ہی کا انکار کر دے۔

★ — حضرت سفیان ثوری "کافر بان ہے۔"

"اَسْلُكُوا سَبِيلَ الْحَقِّ وَلَا تُسْتَرِحُوا مِنْ قَلْهَ اَهْلَهُ"

[اہل حق کے راستے کو اختیار کرو اور اہل حق کی قلت سے مت گہراو۔]

★ — اسی بارے میں نام شاطبی "کا قول ہے۔"

"ابْعِ طَرِيقَ الْهَدِيِّ وَلَا يَضْرِكَ قَلْهَ السَّالِكِينَ وَابْعِ طَرِيقَ الْضَّلَالِهِ
وَلَا تُغْرِبْ كِثْرَهَ السَّالِكِينَ"

[ہدایت کے راستوں کی ابتعاد کرو اور سالکین کی قلت تجھے نقصان دہ نہ ہو، گمراہی کے راستوں پر نہ ہل
اور سالکین کی کثرت سے دوکن نہ کھل۔]

★ — حضرت شیخ عبداللہ خفیف "کافر بان ہے۔"

"اقْتَدُوا نِجْمَةً مِنْ شَيْوَنَالاَنْهَمِ جَمِيعَابِينَ الْعِلْمَ وَالْحَقَائِقِ"

[ہمارے شیوخ کی جماعت کی ابتعاد کرو کیونکہ یہ حضرات علم اور اسرار کے جامع ہیں۔]

احادیث سے ولائل: — فطرت انسانی ہے کہ وہ نفوس سے جتنا اثر لیتی ہے نتوش سے اتنا
اثر نہیں لیتی۔ گو کہ حضرات صحابہ کرامؓ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تازل ہوتی تھیں مگر اس
کے باوجود ان پر خشیت و حضوری کی جو کیفیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتی تھی وہ غیبت
میں نہیں ہوتی تھی۔ چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

دلیل نمبر ۱: — حضرت انسؓ روایت فرماتے ہیں۔

"عَنْ أَنْسٍ قَالَ لَمَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ اضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَمْسٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي
مَاتَ فِيهِ أَظْلَمُ مِنْهَا كُلُّ شَمْسٍ وَمَا تَفَضَّلَ إِذْ دِيَنَا عَنِ التَّرَابِ وَإِنَّ الْفَى
دُفْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْكَرَنَا قَلْوَبِنَا"

[حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے

محمدؐ کی ہر چیز منور ہو گئی تھی اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک

ہو گئی تھی اور ہم آپ ﷺ کے دفن کے بعد ہاتھ سے مٹی بھی نہ جمازنے پائے تھے
کہ ہم نے اپنے قلوب میں [تمہیرا تھا]

پس صحابہ کرامؓ جیسی مقدس ہستیوں نے بھی تسلیم لیا کہ ان کی جو کیفیت نبی علیہ السلام کی
صحبت میں ہوتی تھی وہ بغیر صحبت کے نہیں ہوتی تھی جس طرح صحابہ کرامؓ ملکوۃ نبوت سے
اکتاب فیض کیا کرتے تھے آج بھی مریدان باصفا اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان سے اکتاب
فیض کرتے ہیں۔

دلیل نمبر 2:- مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلهؓ گھر سے یہ کہتے
ہوئے نکلے ”ناافق حنظله“ [حنظله تو مافق ہو گیا] راستے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے
ملاقات ہوئی۔ وہ یہ سن کر فرمائے لگے کہ سجان اللہ کیا کہہ رہے ہو، ہرگز نہیں۔ حضرت
حنظلهؓ نے صور تحال بیان کی کہ جب ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور
حضور دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے
ہیں۔ جب حضور ﷺ کے پاس سے گھروں اپنی آجائتے ہیں تو یوں بچوں اور جانشیدا وغیرہ کے
وہندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا، یہ کیفیت تو ہمیں
بھی پیش آتی ہے۔ میں دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صور تحال
بیان کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر
تم سارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں
میں مصافحہ کرنے لگیں“ لیکن بات یہ ہے کہ حنظلهؓ ”گاہے گاہے“ (یعنی گاہے حضوری کی
کیفیت عروج پر ہوتی ہے اور گاہے اس میں کمی آجائی ہے تاکہ معاشی و معاشرتی نظام درست
رہے) فیضان صحبت کی اس سے زیادہ واضح مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔

دلیل نمبر 3:- حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک صحابیؓ کو نظر لگ گئی تو نبی علیہ السلام نے
”العین حق“ [نظر اڑ کرنی ہے] [ترمذی کتاب الاداب]
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نظر میں عداوت ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، وہ

نظر اپنا اثر دھا سکتی ہے تو جس نظر میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو، اخلاص ہو، وہ نظر کیوں اثر نہیں دکھائی۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہی تو ہوتی ہے جو گناہوں میں لٹھڑے ہوئے انسان میں احسان نداشت پیدا کرتی ہے اور رب کے دربار میں رب کا سوال بنا کر کھڑا کر دیتی ہے

۔ نگاہ ولی میں وہ تائیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

لیل نمبر 4: - حدیث پاک میں وارد ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے وقت عبد اللہ بن ارقات کو کافر ہونے کے باوجود ظاہری سفر کارہبر بنا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج کے آج کے دور میں کوئی سالک اگر وصول الی اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے کسی مومن کامل کو رہبر مقرر کرے گا تو اسے سفر کارہبر مقرر کرنے والی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔
مولانا روم ”نے اسی کیفیت کے بارے میں فرمایا ہے۔

گر ہوائے ایں سفرداری والا دامن رہبر گیر دیں یا
بے رفیقے ہر کہ شد از راہ عشق عمر بلذشت ونشد آگہ عشق
[اے دل! اگر تو اس سفر کی خواہش رکھتا ہے تو رہبر کا دامن پکو اور یہچہ چل کیونکہ بغیر ساتھی کے جو شخص
راہ عشق پر چلا، تمام عمر بے کار گذری اور عشق سے آگاہی نہ ہوئی]

عقلی ولائل: - نفس و شیطان انسان کے کھلਮ کھلا دشمن ہیں اور انسان کے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں حتیٰ کہ گمراہی کے باوجود انسان اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ ”وَيَحْسُونَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ“ (الاعراف آیت 30) [اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں] جس طرح درخت کو اپنے پھل وزن دار معلوم نہیں ہوتے اسی طرح انسان کو اپنے عیوب وزن دار محسوس نہیں ہوتے۔ لہذا اصلاح و تربیت کے لئے کسی ملبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چند عقلی ولائل درج ذیل ہیں۔

لیل نمبر 1: - ایک طالب علم کرہ امتحان میں بیٹھا پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گمان میں ہر سوال کو نجیک نجیک حل کرتا ہے۔ (اگر اسے پتہ ہو کہ میں فلاں غلطی کر رہا ہوں تو وہ کرے ہی

کیوں؟) جب طالب علم کا پرچہ استاد کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بعض جوابات کو ٹھیک قرار دیتا ہے اور بعض کو غلط، تب طالب علم بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس سے ٹھلٹی ہوئی۔ اسی طرح سالک اپنے زعم میں تحدیث نعمت سمجھ کر کسی بات کا انعامار کرتا ہے۔ مگر شیخ کامل بچاتا ہے کہ یہ عجب کی وجہ سے ہے۔ سالک اپنے خیال میں سخاوت کی وجہ سے مال خرچ کرتا ہے۔ مگر شیخ بتاتا ہے کہ یہ اسراف ہے پیر و مرشد کے بغیر گمراہی کے گزھے میں گرنے کا خطروہ ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مرشد کے سایہ میں زندگی گزاری جائے۔

دلیل نمبر 2: امور دنیا میں ہر چھوٹا بڑا کام یکھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ کرتے پر بہن لگانے کا طریقہ بھی بغیر سمجھے نہیں آتا۔ تو کیا دین کو سمجھنے کی ضرورت نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا "انما بعثت معلمًا" [میں معلم بن کر مبیوث ہوا ہوں] رسول اللہ نے صحابہ کرام "کو دین سکھایا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام" نے فرمایا۔ "تعلمنا الا یمان ثم تعلمنا القرآن" [ہم نے پہلے ایمان سکھا پھر قرآن سیکھا] آج ظلمت و گمراہی کے دور میں ہمیں بغیر سمجھے دین کیسے آئے گا۔ پس ثابت ہوا کہ ہمیں پیر و مرشد سے دین یکھنا پڑے گا۔

دلیل نمبر 3: کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علم طب خود بخود سیکھ لوں گا یا انجینئرنگ کافن خود حاصل کرلوں گا۔ اسی طرح کوئی آدمی دین بھی خود بخود نہیں سیکھ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے "انما العلم بالتعلم" [علم سمجھنے ہی سے آتا ہے]

دلیل نمبر 4: اگر کوئی پودا کسی مال کے ہاتھوں میں پروان چڑھے تو وہ سیدھا بھی ہوتا ہے۔ دیدہ زیب اور جاذب نظر بھی۔ جب کہ خود روپوادا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے شانہیں فالتو پھیلی ہوئی اور بے سلیقہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح جو انسان کسی شیخ کامل سے تربیت پائے اس کی شخصیت حسن اخلاق کی وجہ سے دیدہ زیب ہوتی ہے۔ شریعت نے تربیت پانے کو اتنی اہمیت دی کہ سکھائے ہوئے کتے کے شکار کو بھی کچھ شرائط کے ساتھ حلال جانا گیا۔ پس سالک کو بھی شیخ کامل کے زیر تربیت رہ کر دین یکھنا ضروری ہے۔

چوں تو کمر وی ذات مرشد را قبول ہم خدا آمد نہ ذاتش ہم رسول

نفس توں کشت لالا ذات پیر دامن آں نفس شش محکم بگیر

[تو نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا۔ اس سے تجھے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول بھی۔

اس نافرمان نفس کو پیر کی ذات کے سوائے کوئی نہیں مار سکتا۔ تو اس نفس کو مارنے والے

پیر کا دامن مضبوط پکڑ]

دلیل نمبر 5:- اللہ نے حکایت مورچہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک چیونٹی بیت اللہ

شریف کی زیارت کرنا چاہتی تھی مگر راستے میں دریا، پہاڑ اور صحراء تھے۔ اس چیونٹی نے ایک دن

بیت اللہ میں رہنے والے ایک کبوتر کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ کبوتر اڑ کر غانہ

کعبہ پہنچا تو چیونٹی نے بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی۔

مور سکین ہو سے واشت کہ در کعبہ رسد

دست برپائے کبوتر داد و ناگاہ رسید

[ایک مسکین چیونٹی کے دل میں خواہش تھی کہ کعب پہنچے۔ اس نے کبوتر کے پاؤں پکڑ

لئے اور منزل پر پہنچ گئی]

دلیل نمبر 6:- اصحاب کھف کے کتے نے چند دن صلحاء کی صحبت اختیار کی تو اس کے ساتھ

جنت کا وعدہ ہوا۔

سگ اصحاب کھف روزے چند

پئے نیکاں گرفت و مردم شد

[اصحاب کھف کے کتے نے چند دن نیکوں کی پیروی کی اور آدمی کے حکم میں ہو گیا]

دلیل نمبر 7:- ایک شخص ہوائی جہاز پر سفر کرنا چاہے تو وہ اچھی کمپنی کا ٹکٹ خریدتا ہے۔ پھر

پاٹکٹ پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو پاٹکٹ سواری کو منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ سالک اسی

طرح شیخ کامل پر اعتماد کرتے ہوئے باطنی سفر کے لئے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرتا ہے تو شیخ

اپنے مرید کو راہ سلوک پر چلاتا ہوا اللہ تعالیٰ سے وصال کر دیتا ہے۔

اخوال الصالحین سے دلائل:- سلف الصالحین کی زندگیوں سے چند دلائل پیش کئے جاتے

دلیل نمبر 1: حضرت وحشیؓ کو بنی علیہ السلام کی چند لمحے کی صحبت سے وہ مقام مل گیا کہ اگر پوری دنیا اولیس قرنیؓ جیسے حضرات سے بھر جائے تو بھی ان کی گرد راہ کو نہیں پاسکتی۔ حضرت امام شافعیؓ سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہؓ کے دور میں بد امنی رہی جب کہ عمر بن عبد العزیزؓ کے ذور میں امن و امان رہا تو دونوں میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا سیدنا امیر معاویہؓ جب گھوڑے پر سوار ہو کر بنی علیہ السلام کے ہمراہ جماد پر نکلتے تھے تو اس گھوڑے کے تنہوں میں جو مٹی جاتی تھی عمر بن عبد العزیزؓ اس کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم ہوا کہ صحبت کا نعم البدل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی عارف نے کہا ہے کہ

۔ یک زمانہ صحیتے با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

[اولیاء کے ساتھ تھوڑی دری کی صحبت، سو سال کی بے ریا طاعت سے افضل ہے]

دلیل نمبر 2: حضرت حسن بصریؓ نے اخخارہ بد ری صحابہؓ سے علم ظاہری حاصل کیا تاہم علم باطن حضرت علیؓ سے حاصل کیا اور انوار ولایت کا اکتاب کیا۔

دلیل نمبر 3: حضرت سفیان ثوریؓ فرمایا کرتے تھے اگر ابوہاشم الصوفیؑ نہ ہوتے تو میں ریا کاری کی وقیق باتوں سے واقف نہ ہوتا۔

دلیل نمبر 4: امام اعظم ابوحنیفہؓ اور امام مالکؓ نے حضرت جعفر صادقؑ سے فیض پایا۔ امام اعظمؓ نے دو سال کے رابطہ کے بعد فرمایا۔ "لولا السنستان لهلك النعمان" [اور وہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان بلاک ہو جاتا]

دلیل نمبر 5: ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اوہمؓ حضرت امام اعظمؓ سے ملنے کے لئے تشریف لائے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ "سیدنا ابراہیم آگئے" طلباء نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا، "ہم جسموں کی خدمت کرنے میں مشغول اور یہ خدا کی خدمت کرنے میں مشغول۔" پس ایک باندرا ہستی کو ہی مرشد کہا جاتا ہے۔

دلیل نمبر 6: حضرت امام اعظمؑ نے امام ابو یوسفؓ کو دعیت فرمائی۔

”وَاكْشِرْذُ كَرَاللَّهِ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَعْلَمُوا مِنْكَ ذَلِكَ“

[لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کردہ لوگ تم سے ذکر یکھیں]

دلیل نمبر 7: امام شافعیؓ نے حضرت امام محمد بن حسن الشیابیؓ سے نیچ پایا۔ آپ کام مشور قول ہے۔

”میں نے صوفیا کی صحبت اختیار کی اور ان کی دو باتوں سے بدانفع پایا۔ ایک یہ کہ وقت ایک تکوار ہے اگر تم اس کونہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔“ (مدارج السالکین)

دلیل نمبر 8: امام احمد بن حبیلؓ اپنے وقت کے ولی کامل (حضرت بشر حنفیؓ) کی خدمت میں جلا کرتے تھے۔ ایک دن طلباء نے پوچھا، حضرت! آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو عالم نہیں ہے۔ امام احمد بن حبیلؓ نے تاریخی جواب دیا ”میں عالم بکتاب اللہ ہوں۔ بشر حنفیؓ عالم باللہ ہیں اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت نصیب ہے“ اللہ اکبر کبیرا۔

دلیل نمبر 9: ایک شخص نے امام احمد بن حبیلؓ سے پوچھا ”ما الاخلاص“ [اخلاص کیا ہے؟] فرمایا ”الاخلاص هو الخلاص من آفات الاعمال“ [اعمال کے معافی سے چھکارے کام] اس نے پوچھا ”ما التوكل“ [توکل کیا ہے؟] فرمایا ”الثقة بالله“ [الله پر اعتماد کرنا] اس نے پوچھا ”ما الرضاة“ [رضا کیا ہے؟] فرمایا ”تسليم الامور الى الله“ [تمام امور اللہ کے پرداز کرنا] پوچھا ”ما المحبة“ [محبت کیا ہے؟] امام احمد بن حبیلؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ سوال بشر حنفیؓ سے پوچھو۔ جب تک وہ زندہ ہیں میں جواب نہیں دے سکتا۔

دلیل نمبر 10: امام غزالیؓ کے ظاہری اور باطنی علوم کے مرنی خواجہ یو علی فارمدیؓ تھے جو مسلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت شیخ تھے۔

امام غزالی "اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں۔

"انی اخذت الطریقة من ابی علی فارمدي" وانتصلت ما کان یشير
الیه من وظائف العبادات واستدامة الذکر الی ان جزت العقبات و
تکاف تلک المشاق وحصلت ما کنت اطلبه" (مکافحة القلوب ص 35)
[میں نے طریقہ تصوف شیخ بوعلی فارمدي] سے اخذ کیا ہے عبادت اور ذکر میں ان کے دستور کو اپنایا
ہے۔ اس طرح مجھے تکالیف سے نجات ملی اور مشقوں سے چھکارا ملا۔ اور جو کچھ میں نے پانچاہوہ پالیا]
دلیل نمبر 11: امام رازی کی بیعت حضرت بجم الدین کبریٰ سے تھی۔

دلیل نمبر 12: عارف کامل مولانا روم کی بیعت شش تبریز سے تھی۔ آپ نے فرمایا۔
بے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شش تبریز نہ شد
[مولوی روم والوں کا مولا اس وقت تک نہ بن سکا۔ جب تک شش تبریزی "کاغلام نہ بن گیا"]
دلیل نمبر 13: مولانا جائی "جیسی شہر آفاق کی حامل شخصیت کی بیعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ
کے شیخ حضرت خواجہ عبد اللہ احرار سرقندی سے تھی۔

دلیل نمبر 14: حضرت علامہ سید محمد شریف جرجانی کی بیعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ
حضرت خواجہ علاء الدین عطار سے تھی۔ علامہ جرجانی "اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں۔
والله ما عرفت الحق سبحانہ و تعالیٰ مالیں اصل فی خدمۃ العطار"
[اللہ کی قسم! میں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بچپانا جب تک کہ میں شیخ عطار کی خدمت میں حاضر نہ ہوا]
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "اپنے حالات زندگی کے بارے میں "الجزء اللطیف فی
ترجمة العبد الضعیف" میں لکھتے ہیں۔

پدرہ برس کی عمر میں والد بزرگوار سے بیعت کر کے اشغال صوفیہ خصوصاً مشائخ نقشبندیہ
کے اشغال میں مصروف ہو گیا اور ان کی توجہ و تلقین سے بہرومند ہوتے ہوئے ان کے آداب
طریقت کی تعلیم اور خرا: صوفیہ حاصل کر کے اپنے روحلانی سلسلے کو درست کر لیا۔

(جمیع اللہ البالغ صفحہ 10 اردو نسخہ)

دلیل نمبر 15: - حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی "جیسی شخصیت کا باطنی تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ بانی باللہ" سے تھا۔

دلیل نمبر 16: - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "فرماتے ہیں کہ پلاک زمین کے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنی بارش بر سے کہ گندگی کو بھالے جائے۔ دوسرے اتنا سورج پچکے کہ نجاست کو جلا دے اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اسی طرح قلب کی زمین کے لئے دو جیزیں ہیں ایک ذکر الہی جس کی مثال بارش کی ہی ہے۔ دوسرا شیخ کامل جس کی مثال سورج کی ہی ہے۔ ذکر سے بھی دل صاف ہوتا ہے اور شیخ کامل کی توجہات سے بھی۔

دلیل نمبر 17: - حضرت قاضی شاء اللہ پانی پتی "جیسے محدث و منصر کا باطنی تعلق سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ مرزا مظہر جان جاتان" سے تھا۔ اسی لئے انہوں نے اپنی تغیر کا نام تغیر مظہری رکھا۔

دلیل نمبر 18: - حضرت مولانا قاسم ناؤتوی "اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی" اگرچہ علم کے آفتاب مہتاب تھے تاہم ان کی بیعت کا تعلق حضرت حاجی ابراد اللہ مہاجر کی " سے تھا۔ جب کہ حاجی صاحبؒ نقطہ کافیہ تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔

دلیل نمبر 19: - بعض حضرات نے ایک وقت میں کئی کئی مشائخ سے فیض پایا۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابوسعید " نے مقام رجاء حضرت رازی" سے مقام غیرت شاہ شجاع کمانی " سے اور مقام شفقت ابو حفص حداد" سے پایا۔

دلیل نمبر 20: - حضرت ابو علی روبداری "فرمایا کرتے تھے۔

"تصوف میں میرے استاد حضرت جنید بغدادی "علم فقه میں حضرت ابوالعباس ابن شریع" نبوی میں شلب" اور حدیث شریف میں ابراہیم "اور نفس کی اصلاح کے لئے بس یہی علوم ضروری ہیں" ممندرجہ بالا حکائی سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کہ مشاہیر امت کو بھی کسی شیخ کامل کے ذیر سایہ اور زیر تربیت رہ کر اکتساب فیض کرنے سے بلند مقامات نصیب ہوئے۔ آج بھی کوئی ساکن اس محل پر پہنچنا چاہے تو اسے انہیں راستوں پر چلانا پڑے گا۔ جن پر سلف صالحین نے چل کر وصول الی اللہ کی نعمت عظمی کو حاصل کیا۔

علامات شیخ کامل :-

مند ارشاد پر بیٹھنے والوں میں چند صفات کا پیام جانا لازمی ہے۔

۔ در کنے جام شریعت در کنے سندانِ عشق

ہر ہوشانکے ندانے جام و سندان باختن

[ایک ہاتھ میں جام شریعت اور دوسرے ہاتھ میں صراحتِ عشق۔ ہر خواہش پرست دونوں سے کمیلا نہیں جانتا]

بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیخ کامل میں درج ذیل حدیث کی صفات بدرجہ اتم موجود ہوئی چاہئیں۔ "التجافی عن دار الغرور والاناببة الی دار الخلود والاستعداد للسموت قبل نزوله"

[دوسرے کے گھر سے دوری اختیار کرنا اور بیش کے گھر کی طرف متوجہ ہونا اور موت کے آئے سے پہلے اس کی تیاری کرنا]

بھی بات ہے کہ کمینی دنیا کا طلب گار شیخ طریقت بننے کا اعلیٰ نہیں ہوتا۔

۔ لما کہ شیخ وقت ہو بیڑ حدی بھی ہو

پر یہ مجھے تباہ کہ تم باخدا بھی ہو

بعض علماء نے شیخ کامل کی درج ذیل علامات بیان کی ہیں۔

(1) — صاحب نسبت ہو (کسی بزرگ سے اجازت یافتہ ہو۔ سلسلہ کے کام کے لئے مامور ہو۔)

(2) — صاحب علم ہو (جالی کی مثال اندر ھے کی سی ہے۔ جوان ھے کو رہبر بنائے گا۔ گز ھے میں گرے گا۔)

(3) — صاحب تصرف ہو (گیواہ "الذین اذا ذکر الله" کا مصدقہ ہو۔)

(4) — صاحب ارشاد ہو (یہ صفت لازمی نہیں مگر باہر ہے۔)

اگر یہ چار صفات نہ پائی جائیں تو ایسے شخص کو پیر نہ سمجھا جائے۔

۔ ہزار نکتہ باریک تر زمتو انبساط نہ ہر کہ سرتراشد قلندری داند

[میں ہزار کئے بال سے بھی زیادہ بار یک ہیں جو شخص بھی سرمندا لے وہ قلندری نہیں جانتا]
علامہ ابن عین "نے شیخ کامل کی تین صفات قلب بند فرمائی ہیں۔

(1) — دین انبیاء کا ساہبو۔

(2) — تدبیر اطیاء کی ہی۔

(3) — سیاست پادشاہوں کی ہی۔

بقول شیخ

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر موجود سے ہزار کرے
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے
دے کے احسان زیاب تیرا لو گرا دے
قر کی سان چڑھا کر تجھے تکوار کرے

شیخ کامل ظاہر میں تو عام انسانوں کی ماں ہوتا ہے مگر باطن میں عام انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے جیسے تیخ اور پیٹھے پالی کی صورت ایک مگر سیرت مختلف، فاقہن و نیک نے ایک روٹی کھائی ایک میں شوٹ پیدا ہوئی دسرے میں عشق الٰہی، زین نے دو کانے اگائے ایک پانی بنا دو سرا گناہنا۔ دو ہر ہنوں نے ایک گھاس کھلایا اور ایک میں بینگنیاں بیٹھیں دسرے میں کستوری بی۔ بھر اور مگس نے ایک پھول چوسا ایک میں زہر بنا دوسرے میں شہد بنت۔ شیخ کامل بھی ظاہر میں تو عام انسان کی طرح مگر حقیقت میں مختلف ہوتا ہے۔

الفاظ و معانی میں نقاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضائیں کرگس کا جہاں اور ہے شاپیں کا جہاں اور اگر کسی سالک کو ان صفات کا حامل کامل شیخ مل جائے تو چاہئے کہ اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے۔ اس کی محبت کو کیمیاء احریکی مانند سمجھے۔

— اگر کوئی شعیب آئے میر شبانی سے کلیسی دو قدم ہے

باب 6

آداب مرشد

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ "لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

(اجمادات: آیت 1)

[اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو]

دوسری جگہ فرمایا۔ "لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ" (اجمادات: آیت 2)

[ایسی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو]

ان آیات بینات کا مقصود مومنین کو آداب کی تعلیم دینا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ "اَدْبُنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَادِيبِي" [میرے رب نے مجھے ادب سکھایا پس یہ سب ہی اچھا ادب سکھایا] اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سالک کے لئے آداب کی رعایت لازمی ہے۔ بقول شفیع

خوش اے دل بھری محفل میں چلاتا نہیں اچھا
ادب پلا قریبہ ہے محبت کے قربوں میں

حضرت ابو حفص نیشاپوری "کا قول ہے۔ "التصوف کلمہ ادب" [تصوف سراسرا ادب ہے]
کسی شاعرنے کیا ہے۔

"ادبوا النفس ایها الاصحاب طرق العشق کلہا آداب

[اے دوستو! اپنے نفس کو ادب سکھاؤ۔ کیونکہ عشق کے سب راستے آداب ہیں]

درج ذیل میں چند آداب بیان کئے جاتے ہیں جن کی پابندی ہر سالک کے لئے ازحد ضروری ہے جو سالک جتنا زیادہ آداب کا خیال رکھے گا اتنا جلدی ترقی پائے گا۔ اگر آداب کو پڑھ

کر غفلت بر تے گا تو باطنی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا۔ یہ آداب حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقیؒ سے منقول ہیں۔ شجرہ طیبہ سے انہیں من و عن نقل کیا گیا ہے۔ اور تشریح کے لئے ”فائدہ“ کے عنوان سے کچھ اضافہ کر دیا ہے تاکہ سالکین کو آسانی سے بات سمجھے آسکے۔ گویا پامر بجوری قائلین کو ناث کا پوند لگادیا گیا ہے۔

ادب ۱: - مرشد کی ظاہری حیثیت، قومیت، حشمت و شوکت اور پیشہ وغیرہ پر نظر نہ کرے اور اسے تقریر نہ جانے۔ بلکہ اس نعمت اور فیضان کو جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو عنایت کیا ہے نگاہ میں رکھ کر اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ سمجھے اور کمال صدق و یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائے۔

فائدة:- جس طرح کوئی مریض اپنے طبیب کی طبی مهارت کو سامنے رکھ کر علاج کرواتا ہے۔ اس کی ظاہری حیثیت اور قومیت کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طرح سالک کو بھی مرشد کی باطنی نعمت پر نظر رکھنی چاہئے، ظاہری حشمت و شوکت پر نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ صحابہؓ کی محل میں تشریف فرماتے۔ سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا۔ ”آپ لوگ اس کے متعلق کیارائے رکھتے ہیں۔“

عرض کیا گیا۔ یہ امیر آدمی انتہائی خوش لباس ہے اگر یہ کسی سے بات کرے تو توجہ سے بات سنی جائے۔ اگر کسی طرف رشتے کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے۔ ”تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صاحب گزرے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا۔ ”آپ لوگ اس شخص کے متعلق کیارائے رکھتے ہیں۔“ عرض کیا گیا۔ ”غیریب آدمی مغلس و نثار نظر آتا ہے۔ اگر بات کرے تو لوگ توجہ سے نہ سین۔ کمیں رشتے کا پیغام بھیجے تو قبول نہ ہو۔“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر پہلے جیسے لوگوں سے ساری دنیا بھر جائے تو سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس غیریب نیک شخص کے برادر نہیں ہو سکتے۔“ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ تھمارے چہوں کو اور مال پیسے کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت بلالؓ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا ”سیدنا بلال آگئے“ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری حشمت و شوکت کی کوئی تدری ویقت نہیں ہے۔ پس سالک کو چاہئے کہ ظاہری حالات پر نظر نہ

رکھے بلکہ شیخ کی باطنی دولت کو پیش نظر رکھے۔ حقیقت یہی ہے کہ پیاسے آدمی کو ٹھنڈا اپانی پینے سے غرض ہوتی ہے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ پانی مٹی کے پیالے میں ہے کہ سونے چاندی کے چمکتے برتن میں ہے۔

رہی بات قومیت کی، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَجَعْلُنَّكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ

لَتَعْلَمُوْا۔ ان اکرم مکم عن داللہ اتفکم“ (الجڑات آیت 13)

[ہم نے تمیں شاخصیں اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پچان سکو۔ اللہ کے ہاں عزت والا تھی پر یہی گار

] ہے

روایت ہے کہ حضرت پیر مولیٰ شاہ صاحب ”نے جب حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی“ سے بیعت کی تو ایک صاحب نے کہا ”شاہ صاحب! آپ نے سید ہو کر ایک جاث سے بیعت کی ہے“ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ”میں جست دا بیٹا ساوا ڈھھا اے“ ”میں نے زمیندار کی کھیتی سربراہ و شاداب دیکھی ہے، لہذا بیعت کی ہے۔“

اوب 2:- ”شیخ کو اپنے حق میں سب سے انجع (زیادہ نفع پہنچنے کا ذریعہ) سمجھے اور یہ اعتماد رکھ کہ میرا اصلاح باطن اور حصول معرفت کا مطلب اسی مرشد سے با آسانی حاصل ہو گا۔ ہر جائی نہ بنے اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو فیض و برکات سے محروم رہے گا۔“

فائدہ:- ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ“ (یوسف آیت 76)

[اور ہر علم والے پر ہر علم والا ہے]

لہذا شیخ اگرچہ اعلم ”سب سے زیادہ علم والا“ نہ بھی ہو ساک کے حق میں انجع ”سب سے زیادہ نفع پہنچانے کا باعث“ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو جو پیار و محبت اور شفقت اپنی ماں سے مل سکتی ہے وہ کسی دوسری عورت سے نہیں مل سکتی۔ حالانکہ دوسری عورتیں عقل و شکل اور اخلاق وغیرہ میں اس کی ماں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً مشحور ہے کہ ماں کی محبت وہ ہمایہ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ ماں کی محبت وہ گمراہ سند رہے جس کی گمراہیوں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ ماں کی مامتا وہ سدا بہار پھول ہے جس پر خزان و بہار اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ساک کو جو نفع اپنے شیخ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور

سے نہیں۔ سالک شیخ کے بارے میں جتنا حسن ظن رکھے گا اتنا ہی فیض کا دروازہ کھلے گا۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللهؒ بہت زیادہ کم گو اور خاموش

طبع تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت کچھ وعظ و نصیحت فرمائیں تاکہ ساکھیں کو فائدہ ہو۔

حضرت خواجہ صاحبؒ نے فرمایا۔ ”جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے

بھی کچھ نہیں پائے گا۔“

حضرت مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں کہ ”ہم تین چیزوں بھائی تھے اور ہم تینوں کا اپنے شیخ کے

بارے میں مختلف گمان تھا ایک تو یہ گمان رکھتا تھا کہ میرے شیخ خود تو کامل ہیں دوسروں کو کامل

نہیں بنا سکتے۔ دوسرے کامل گمان تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر صاحب ارشاد نہیں ہیں جبکہ میرا یہ

گمان تھا کہ اس امت میں کسی کو کامل شیخ ملے ہیں تو صدیق اکبرؒ کو نبی علیہ السلام ملے یا پھر اس

کے بعد مجھے کامل شیخ ملے ہیں۔ میرے اس حسن ظن کی وجہ سے مجھے تجدیدی کام کے لئے اللہ

تعالیٰ نے چن لیا۔“ پس آپ حضرت مجدد الف ثانیؒ بنے۔ سالک کو چاہیے کہ ہر جائی نہ بنے اور

حصول فیض کیلئے اپنے مرشد کے علاوہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو اس کی اصل ”و حرمانا

علیہ المراضع من قبل“ بن سکتی ہے۔

اوب 3:- ہر طرح سے مرشد کا مطیع و فرمانبردار رہے۔ کیونکہ پیر کی عقیدت اور محبت کے بغیر

فیض کا در نہیں کھلتا۔ اور محبت کا تقاضا اطاعت و خدمت ہے۔

فائدہ:- صوفیاء کے نزدیک سیدنا صدیق اکبرؒ کا سفر بھرت مرشد کی اطاعت و خدمت اور محبت

و عقیدت کی فقید الشال داستان ہے۔ چنانچہ بھرت کی رات نبی اکرم ﷺ جب حضرت صدیق

اکبرؒ کے گھر تشریف لائے تو انہیں جا گئے ہوئے پیا۔ پوچھا ”ابو بکر آپ کیوں جا گ رہے تھے۔“

عرض کیا ”اے اللہ کے نبی ملکیتؒ ! مجھے اندازہ تھا کہ عقریب بھرت کا حکم ہو گا۔ یہ بھی میرا دل

گوانی دیتا تھا کہ آپ مجھے رفیق سفر بنا کیں گے۔ جس وقت سے یہ خیال آیا میں نے رات کو

سو ناچھوڑ دیا۔ مبدأ کہ آپ تشریف لا کیں اور مجھے حاضر باش نہ پائیں۔“ سبحان اللہ

حضرت خواجہ دوست محمد قندھاریؒ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت خواجہ محمد عثمان دامانیؒ

کئی دن متواتر موئی زمی شریف سے پیدل چل کر تقریباً تیس کلو میٹر دور ایک شردر ابن جاتے

اور دوائی لیکر واپس آتے پھر ساری رات تمارداری میں مشغول رہتے۔ حضرت خواجہ محمد عبداللہک (چوک قریشی والے) نے تقریباً بارہ سال حضرت خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ پر رہ کر بکریاں چڑائیں حتیٰ کہ بکریاں (بکریاں چرانے والا) کے نام سے مشهور ہوئے۔

حضرت مرشد عالمؒ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبداللہک صدیقؒ نے ایک خوبصورت بیش قیمت نفیس ہینڈ بیگ (پرس) خریدا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اس میں اپنے پیر و مرشد کے استعمال کے لئے مٹی کے دھیلے رکھا کروں گا۔ عربی کا مقولہ ہے "ان المحب لمن يحب مطیع" [محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے] یعنی محبت و خدمت حصول نیضان کا سبب بنتی ہے۔

اوب 4:- حسب استطاعت جان و مال سے شیخ کی خدمت کرے اور اس پر احسان نہ جلتائے بلکہ شیخ کا احسان سمجھے کہ اس نے خدمت کو شرف قبولت بخشنا۔ شیخ سے کسی قسم کی طمع یا مطالبہ نہ رکھے جتنی بھی خدمت کرے خلوص وللیت سے کرے تاکہ کمال ایمان سے بہرہ مند ہو۔

فائدہ:- غزوہ تبوک میں سیدنا صدیق اکبرؒ نے نبی علیہ السلام کے اشارے پر اپنا سارا مال قدموں پر پنجاہور کر دیا۔ ایک مرتبہ ثاث کالباس پہنے حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ "ابو بکرؒ! تمہیں مکہ کی تجارت والی آسودگی یاد ہے، دیکھو آج تمہارا کیا حال ہو گیا۔" صدیق اکبرؒ نے تزپ کر عرض کیا۔

"اما لى عشت ان اعمر الدنیا واعذب به جمیعاً اشد العذاب لا یفرجنی فرج الملیح"

[یہ چند سالوں کی زندگی ہے اگر ساری کی ساری زندگی شدید ترین مکالیف میں گزر جائے حتیٰ کہ محدثی ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے تو آقاؒ تمہی خاطری سب کچھ آسان ہے۔ میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آجائا میرے لئے نعمت عظیٰ ہے]

نہ خیال و خواب کی محفلیں نہ میں بزم شوق سے جا سکا
تمہری اک نگاہ بدلتے ہی میرے سب ارادے بدل گئے

جو فتا ہوئے غم عشق میں انسین زندگی کا نہ غم ہوا
 ترا ہاتھ ہاتھ میں آیا تو چراغ "راہ کے جل گئے
 حضرت صدیق اکبر "اس قدر جانی والی قربانی پیش کرنے کے باوجود ایک مرتبہ گوشہ ثنائی
 میں بیٹھے زار و قطار رو ہے تھے اور دعا مانگتے ہوئے کہ رہے تھے کہ یا اللہ! میں اپنا مال نبی
 اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مگر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپنچا ہوتا
 ہے مجھے اپنے آقا کی اتنی بے ادبی بھی گوارا نہیں۔ یا اللہ! میرے آقا مولانا کے دل میں القافرما
 کہ وہ میرے مال کو اپنے ذاتی مال کی طرح خرچ کریں۔ یہ ہے مزہ کہ خدمت بھی کرے احسان
 مند بھی شیخ کا ہو۔ یقول مجھے

منت منه کہ خدمت سلطان ہی کنی
 منت ازو شناس کہ در خدمت گزارشہ

[اے مخاطب! تو بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ چڑھا۔ (بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو لاکھوں ہیں) یہ
 بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لئے قبول کریا]

اوب 5:- مرشد کے فرمان کو فوراً بجالائے۔ اس کے فعل کی اقتداء اس کی اجازت کے بغیر نہ
 کرے۔ کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کی مناسبت سے کام کرتا ہے۔ جو مرید کے لئے
 اس کی استعداد سے عالی ہونے کی وجہ سے مضر ہوتا ہے البتہ قول متابعت اختیار کرتا ہے تاکہ پیر
 سے محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے۔

فائدہ:- اس ادب کی اصل وہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دن میں متواتر
 روزے رکھنے شروع کر دیئے اور رات قیام و سہود کی حالت میں بر کرنے لگے۔ بعض صحابہ کرام
 کو اسکا پتہ چلا تو انہوں نے بغیر اجازت طلب کئے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اتنی ریاضت اتنا
 مجہدہ کہ چند دنوں میں نقابت و بے آرائی کی وجہ سے حالت غیر ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے
 ارشاد فرمایا۔ "ایکم مثلی یطعمنی رسی و یسقینی" [تم میں سے کون میری طرح
 ہو سکتا ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پاتا ہے]

سالک کو چاہئے کہ مرشد کے حکم کو نور آ جالائے۔ البتہ اگر مرشد کو کوئی خاص عمل کرتا دیکھے تو اجازت طلب کرے۔ اجازت ملنے پر عمل کو اپنائے۔ نہ ملنے پر اپنے آپ کو کم طرف کم ہمت سمجھے۔ زبان سے مرشد کے عمل ہی کو اقویٰ کئے تاکہ پیر سے محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے۔

ادب 6:- مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اس کی طرف متوجہ رہے یہاں تک کہ فرض و سنت کے سوا نفل نماز یا کوئی اور وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے بلکہ اس کی صحبت کیما اثر کو غنیمت سمجھے تاکہ شیخ کی نگاہ شفقت حاصل ہو۔ اور اس کے فیض باطن سے حصہ ملے۔ مشائخ نقشبندیہ رحمم اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی موجودگی میں وقوف قلبی کی بجائے رابطہ قلبی (شیخ کے قلب سے مریوط رہنا) زیادہ مفید ہے۔

فائدہ:- شیخ کے سامنے نفل نماز اور وظیفہ وغیرہ سے اس لئے منع کیا گیا کہ یہ کام تو سالک شیخ کی عدم موجودگی میں بھی کر سکتا ہے لہذا شیخ کی صحبت سے تو باطنی فائدہ اٹھانا چاہئے ہمہ تن گوش و ہوش سے متوجہ رہنا چاہئے۔

یک چشم زدن غافل از آں شاہ نہ باشی
شاید کہ نہ ہے کد آگاہ نہ باشی

[ایک لمحہ بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہو۔ ممکن ہے وہ نگاہ کرے اور تو آگاہ نہ ہو۔]

وقوف قلبی کہتے ہیں دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے کو۔ رابطہ قلبی کہتے ہیں سالک اپنے آپ کو غالی سمجھے اپنے قلب کو شیخ کے قلب سے مریوط رکھے۔ اور یہ خیال کرے کہ شیخ کے قلب سے فیضان میرے دل میں آ رہا ہے۔

سالک کی روحانی ترقی ذکر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور مرشد کی توجہات سے بھی۔ تاہم ذکر کرنے سے جو راستہ سالوں میں طے ہوتا ہے وہ مرشد کی توجہات سے لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا

یک زمانہ صحبت بالولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
حضرت خواجہ محمد مقصوم ”فرماتے ہیں:

ع م سلیمہ رہبر بتر است از ذکر حق

[رہبر کا سالیہ بھی ذکر حق سے ہتر ہے۔]

کسی عارف نے کہا کہ علماء کی مغل میں بیٹھو، تو زبان سنبھال کر بیٹھو۔ ملوک و سلاطین کی مغل میں بیٹھو تو نگاہ کو سنبھال کر بیٹھو اور اہل اللہ کی مغل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو۔ صحابہ کرامؐ کو نبیؐ کی چند لمحوں کی صحبت سے وہ کچھ نصیب ہوا جو غیر صحابہ کو ہزاروں سال کے مجہودہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہؐ کی ایک توجہ نے تان بائی کو کمان سے کمال پکنچا دیا۔

ادب 7:- شیخ کی صحبت میں با ادب ہو کر نہایت عابزی سے خاموش بیٹھا رہے۔ اور اس کے کلام قدسی کو نہایت غور سے سنتا رہے اور ہرا ہر نہ دیکھے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے بوقت ضرورت غافر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے۔ گفتگو آہنگی اور نزی سے کرے نیز اپنی آواز مرشد کی آواز سے بلند نہ کرے۔ کوئی بات ایسی نہ کئے جو پیر کی سکلی اور گرانی کا سبب بنے۔

فائدہ:- سالک جب طالب صادق بن کر گوش ہوش سے نصیحت نے۔ تو دل پر یقینی اثر ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید" (سورۃ ق: آیت 37)

[اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کیلئے جس کے پاس عقل ہو یا کم از کم دوسرے کی بات توجہ سے نہیں۔ مرشد کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے شیخ کسی خاص علمی نکتہ پر غور و فکر کر رہے ہوں یا کسی کے دل پر باطنی توجہات ڈال رہے ہوں یا ان پر الام کی کیفیت ہو یا کسی اہم کام یا مضمون کی طرف طبیعت متوجہ ہو۔ ایسی صورت میں کسی کا بدون اجازت کلام کرنا طبیعت پر انتباہ کا باعث نہتا ہے۔ منیزہ بر آں دوران گفتگو اپنی آواز کو مرشد کی آواز سے بلند نہ کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"بِاِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

ولاتجھروالہ بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم
وانتم لا تشعرون" (ال مجرات آیت 2)

[اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلاۃ و السلام کی آواز سے اوچانہ کرو اور ان کے سامنے بات زیادہ اوچی آواز سے نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اوچا بول لیتے ہو ورنہ اندازہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمیں محسوس بھی نہ ہو]

مرشد کی بات نہایت غور سے سنی چاہئے۔ بعض مشائخ کا قول ہے مرشد کو زبان بننا چاہئے اور مرید کو کان بننا چاہئے۔

اوب 8:- پیر کی مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کرے اور اپنے تین "حقیر، نیاز مند،
شکلی، اور طلب سے بھرا ہوا ظاہر کرے۔

فائدہ:- مرشد کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے حاضرین پر علمی تفویق ظاہر ہو۔ نہ ہی دنیاوی جادہ و حشمت کا ظاہرہ کرے۔ نہ ہی کسی عمل سے یہ ظاہر کرے کہ میں شیخ کا مشیر اور ہرماز ہوں اور نہ ہی یہ جلانے کے مرشد بھجو پر بست مہماں ہے۔ یہ تمام باتیں نفس کو موٹا کرتی ہیں۔ اور اہانتی کی دلیل ہیں۔ حتی الوضع نیاز مندی اور عاجزی کو اپنانے۔

زمیں کی طرح جس نے عاجزی واکساری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسال ہو کر

اوب 9:- مرشد کی نشست گاہ پر نہ بیٹھے اس کے مصلی پر پاؤں نہ رکھے۔

فائدہ:- اس کی اصل حضرت سیدنا صدیق اکبرؑ کا عمل ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب خطبہ دینے کے لئے منبر جلوہ افروز ہوتے تو تیرے درجے پر کھڑے ہوتے تھے۔ جبکہ حضرت صدیق اکبرؑ اپنے دور خلافت میں خطبہ دینے کے لئے دوسرے درجے پر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ از راہ ادب تھا مرشد کے مطلع پر نماز پڑھنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ ظاہراً اس سے "سدادات" کا دعویٰ ظاہر ہوتا ہے۔

اوب 10:- بلا اجازت اس کے سامنے کھانا نہ کھائے نہ پانی پئے نہ وضو کرے نہ اس کے برتن

استعمال کرے۔ اس کی طہارت اور وضو کی جگہ طہارت یا وضو نہ کرے۔ جو آداب شن کے رو برو بجالاتا ہے وہی پیچھے بھی بجالائے تاکہ اخلاص نصیب ہو۔

فائدہ:- مرشد کے سامنے بلا اجازت کھانے پینے میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔ حتیٰ کہ مرشد اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت دے تو بیٹھ جائے ورنہ بخوبی پیچھے ہٹ جائے۔ مرشد کی نظر وہ کچھ دیکھ سکتی ہے جو سالک کی نظر نہیں دیکھ سکتی۔ سلسلہ عالیہ شاذیہ کے مشائخ کا دستور ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء میں توجہ شامل کر کے سالک کو کھلاتے ہیں ان کے ہاں بعض مشائخ تو خلافت و اجازت سلسلہ دیتے ہوئے اس بات پر عدلیتے ہیں کہ تم اپنی باطنی توجہات کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کر کے ساکھن کو پیش کیا کرو گے۔ تصوف کی کتب معبرہ میں منقول ہے کہ بعض مشائخ نے خلافت دیتے وقت اپنے ہاتھ سے کوئی چیز سالک کو کھلانی۔ حضرت مرشد عالم ”دسترخوان پر جمع ہونے والے تمام ساکھن کا گھری نظر سے جائزہ لیتے رہتے تھے۔ تربیت کے لئے ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کو دیکھا ہے دسترخوان پر انکا اس قدر کشوں ہوتا تھا کہ جو سالک چند مرتبہ ان کے سامنے کھانے میں شریک ہو جاتا اس کے کئی کس بل نکل جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مساجد کی ”کے لئے نہایت پر ٹکلف کھانوں پر مشتمل دسترخوان چنگیل۔ حضرت مولانا شید احمد گنگوہی ”بھی حاضرِ خدمت تھے حضرت حاجی صاحب“ نے ایک چپائی انھائی ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ڈال اور حضرت گنگوہی ”کے ہاتھ میں پکڑا کر فرمایا ”مولانا! اس دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کر یہ کھانا کھا لو۔“ حضرت گنگوہی ”برضاو رغبت کھانے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حاجی صاحب“ نے نہایت سخت لمحے میں کہا ”رشید احمد! جی تو چاہتا تھا کہ تمیں جو توں والی جگہ پر بٹھانا مگر رعایت کر لی کہ دسترخوان پر بٹھالیا۔“ یہ کہتے ہی حضرت حاجی صاحب“ نے مولانا کے چرے کے تاثرات کو دیکھا۔ حضرت گنگوہی ” نے نہایت ادب سے عرض کیا ”حضرت! آپ نے مج فرمایا میں اسی قبل تھا کہ جو توں میں بٹھایا جاتا۔ آپ کا احسان ہے جو بیساں بیٹھنے دیا۔“ حضرت حاجی صاحب“ نے جب ملاحظہ کیا کہ لوگوں کے سامنے اتنی کڑوی کسلی سن کر بھی مولانا کا نفس نہیں بھڑکا تو فرمایا ”الحمد لله“ ذکر کے

اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔"

اوہب 11: جس جگہ مرشد بیٹھا ہوا ہو اس طرف پاؤں نہ پھیلائے اس کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے اگرچہ سامنے نہ ہو۔

فائدہ: فقہائے کرام نے بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانا یا تھوکنا کرو کھا ہے۔ اگرچہ بیت اللہ سامنے نہ ہو۔ جس طرح بیت اللہ مرکز انوار و تجلیات ہے اسی طرح مرشد کا قلب بھی تجلیات ذاتیہ کا مورد ہوتا ہے لہذا مرشد کے لئے بھی انہی آداب کی رعایت ضروری ہے۔ اب ماجد کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ طوف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت اللہ! تیری حرمت بھی بست زیادہ ہے مگر "حرمة المؤمن ارجح من حرمة الكعبة" [موسیٰ کی عزت اللہ

کی عزت سے بھی زیادہ ہے]

اوہب 12: شیخ کے سایہ پر قدم نہ رکھے اور حتی الامکان ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سایہ پر یا اس کے کپڑے پر پڑے۔

فائدہ: کسی چیز کو پاؤں تلے روندا اس کی تحقیر کی علامت ہوتی ہے۔ سالک کو چاہئے کہ مرشد کے سایہ پر بھی قدم نہ رکھے۔ تاکہ بے حرمتی کا شانہ تک نہ ہو۔ اسی طرح اپنا سایہ مرشد پر نہ پڑنے دے کہ بسا اوقات روشنی کا رک جانا طبعی الجھن کا سبب بنتا ہے۔ سالک ان آداب کو معمولی نہ سمجھے کیونکہ چھوٹے چھوٹے زرات مل کر ہی ریت کے ٹیلے بن جانتے ہیں۔ مثل مشور ہے کہ ایک دانہ خرمن کو تو نہیں بھرتا مگر ان دانوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو خرمن کو بھر دیا کرتے ہیں۔

حافظ ابن قیم "کا قول ہے "گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے" اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ادب کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ مرشد کی ذات کو سامنے رکھو جو مالک حقیقی سے واصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مرشد عالم" نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک طالب صادق حضرت خواجہ فضل علی قریشیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا "حضرت کچھ دنوں سے لٹائنے بند ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے۔" حضرت

نے فرمایا "غور کو آپ سے کوئی نہ کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہے جس کی یہ سزا ہے" وہ سالک کافی دیر غور کرتا رہا۔ بالآخر اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے مرشد کا عصا پڑا ہوا تھا۔ اور وہ اس کے اوپر سے گزر گیا تھا چنانچہ توبہ استغفار کرنے سے لٹائن و دوبارہ جاری ہو گئے۔

ادب 13:- شجاع کے آگے نہ چلنے اور پیچھے چلنے میں شرم نہ کرے بلکہ سعادت کجھے۔

فائدہ:- مرشد کے آگے نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ دن کے اوقات میں چلتے ہوئے بلا ضرورت ان سے آگے نہ ہو ہے۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آگے چلانا پڑے تو مضائقہ نہیں، بلکہ با اوقات آگے چلانا بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً رات کے وقت اس نیت سے آگے چلانا کہ کوئی موزی جاندار راستے میں نہ ہو یا گڑھارستے میں نہ ہو یا کوئی ایسا پتھر نہ پڑا ہو کہ کوئی ٹھوکر کھا کر گرے یا خود مرشد ہی کسی وجہ سے آگے چلنے کا حکم دیں تو پھر آگے چلانا ہی عین ادب ہے۔ "الامر فوق الادب" [حکم ادب پر فائق ہے]

ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم "حرم شریف سے نکلے تو کسی کے ہاں جانا تھا۔ حضرت" نے میزبان سے کہا کہ آگے چلیں ہمیں راستے کا پتہ نہیں، وہ کہنے لگے "نہیں نہیں حضرت آپ ہی آگے چلیں میں راستے بتا دوں گا" اب چلتے چلتے جب کوئی موڑ آتا تو حضرت" کو پیچھے مڑ کر پوچھنا پڑتا کہ کس طرف جانا ہے چنانچہ تھوڑی دیر بعد حضرت" نے دوبارہ میزبان سے کہا کہ آپ آگے چلیں وہ پھر مذدرت کرنے لگے کہ نہیں حضرت" بن میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ جب تیرسی مرتبہ کہنے پر بھی انہوں نے وہی جواب دیا تو حضرت" نے غصے میں اکر عصارہ لیا اور کہا "تو میڈا پیر ایں یا میں تیڈا پیر ہاں" [تو میرا پیر ہے یا میں تیرا پیر ہوں] تب ان صاحب کو حقیقت سمجھ آئی اور وہ آگے چلنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ جب سفر ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ چلنے تو کچھ دیر پیچھے چلنے پھر آگے چلنے لگے پھر کبھی دائیں چلتے اور کبھی باسیں چلتے۔ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا کہ یار رسول اللہ ﷺ ہیں جب پیچھے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے دشمن آگے سے نہ حملہ کر دے۔ جب آگے چلتا ہوں تو دائیں باسیں سے حملے کا ذرہ ہوتا ہے اس لئے پھر دائیں یا باسیں چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ عشق و محبت کی داستان

تمی۔ پورے سفر میں ہی معاملہ رہا۔ جیسے پروانہ کسی شمع کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے۔ ”ہنسیا لاریاب النعیم نعیمہا“ [اہل نعمت کو اپنی نعمت مبارک ہو] عام اصول یہی ہے کہ مرید بلا ضرورت مرشد کے آگے نہ چلے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھی اپنے باپ کا نام لیکر نہ پکارنا اور راستہ چلتے ہوئے آگے نہ چلان۔ عيون الاخبار میں ہے کہ حضرت عمر بن زیدؓ سے ان کے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور حسن ادب کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”میں دن میں نہیں چلا گروہ میرے پیچے تھا، میں رات میں نہیں چلا گروہ آگے تھا، اور وہ کسی ایسی چھست پر نہیں چڑھا۔ جس کے میں نیچے تھا۔“ حضرت مرشد عالمؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے مرشد کے پیچے را کھویں لیلے (پا تو مینڈھے) کی طرح چلتا تھا۔

اوب 14:- جب شمع کھرا ہو تو مرید بھی کھرا ہو جائے اور اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے۔
فاائدہ:- یہ اکرام میں داخل ہے کہ جب شمع کھرا ہو تو مرید بھی کھرا ہو جائے اور جب شمع بیٹھے تو مرید بھی بیٹھ جائے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرامؐ کو کھرا ہونے سے منع کیا تو پھر مشائخؐ کی جالس میں لوگ کسی کے اکرام کے لئے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ حضرات ایسے موقع پر نہ تو خود کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کھرا ہونے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کم علمی کے سوا کچھ نہیں۔ شریعت محمدیہؐ کا یہ صن ہے کہ جمال کسی معاملہ میں دو فریق ہوں تو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں۔ دونوں میں محبت و پیار اور اکرام و تکریم کا رشتہ استوار رہے۔

شریعت نے ایک طرف تو مرید کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تاکہ استاد کی عزت افزاںی ہو اور ”انزلوا الناس منازلهم“ پر عمل ہو۔ دوسری طرف مرشد کو حکم دیا کہ لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند نہ کرے تاکہ عجب و تکبر سے بچ سکے۔ پس مرید کھڑے ہونے کو فرض منعی سمجھے اور مرشد محبت و پیار سے بیٹھنے کی تلقین کرتا رہے تاکہ محبت و عقیدت کا بندھن سلامت رہے۔ کھرا نہ ہونے کی احادیث تو معروف ہیں ہی کسی بیان کھڑے ہونے کے بارے میں دو احادیث

پیش کی جاتی ہیں۔ امام نسائی "اور امام ابو داؤد" حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہم سے گفتگو کرتے پھر آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔

امام بخاری "وام مسلم" روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذؓ تشریف لارہے تھے جب قریب آگئے تو نبی اکرم ﷺ نے انصار سے اکما "قوموا السید کم" [اپنے سروار کے لئے کھڑے ہو جاؤ] پس صحابہؓ کرام ان کے اکرام کے لئے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے اسی حکم کے پیش نظر مرید اپنے سید و مرشد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

اوہب 15:- شیخ کے روپ و اور پس پشت یکساں رہے۔ اپنا ظاہر و باطن ایک طرح پر رکھے یعنی دل اور زبان کے درمیان کسی فرق نہ رکھے۔

فائدہ 5:- جو مرید اپنے شیخ کے روپ و اور پس پشت یکساں نہ رہے اس کی مثال اس مریض کی سی ہے جو طبیب سے اپنا مرض چھپائے۔ یقیناً ایسے مریض کو شفاء نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت مرشد عالمؓ فرمایا کرتے تھے کہ مرید اپنے سب کچھ مرشد کے سامنے اس طرح کھول دے جس طرح یعنی اپنا سب کچھ مال کے سامنے کھول دیتی ہے۔ شریعت نے جس طرح علاج کی خاطر طبیب کے سامنے ستر کھونے کی اجازت دی ہے اسی طرح روحانی علاج کی خاطر مرشد کے سامنے اپنا کیا کرایا کھونے کی اجازت نہیں دی بلکہ اسے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر مرید اپنے مرشد سے عیوب چھپائے گا تو تقصیان بھی خود ہی اٹھائے گا۔ بقول شمعی

"اگر تم اپنا عیوب چھپانے کے لئے دروازے بند کر لو گے تو سچائی بھی باہر رہ جائے گی" ایسی صورت میں تو ذکر بھی فائدہ نہیں رہتا۔

رام رام بچدیاں میری بھیما گھس گھنی
رام نہ دل وچ ویسا انسہ کی دھاڑ پئی

گل وچ ملا کاٹھ دی تے منکے لے پو

دل وچ گھنڈی پاپ دی رام چیل کی ہو

[رام رام کرتے میری زبان گھنی مگر رام دل میں نہ بنا یہ کیا مسیبت پڑ گئی گلے میں کاٹھ کی ملا اور منکے

پرولے مگر دل میں گردہ پاپ کی ہے تو رام چنپے سے کیا ہو۔

لوب 16:- مرشد کے تمام اقوال و افعال کو راست جانے اعتراض نہ کرے دل میں شک و شبہ نہ لائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو حضرت موسیٰ "اور حضرت خضر" کا قصہ یاد کرے۔

فائدہ:- مرید اور مرشد کا تعلق شاگرد اور استاد کی بجائے مریض و طبیب کی باندھوتا ہے جس طرح مریض کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ طبیب کی کسی بات پر چون وچرا کرے اسی طرح مرید کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مرشد کی کسی بات پر اعتراض کرے۔

حضرت مولانا تقاضی ثناء اللہ پانی پتی "ارشاد الطالبین" میں لکھتے ہیں۔

"مرشد اگر پر ہیز گاری اور استقامت والا ہے تو "احیان" اس سے کوئی خلاف شرع بات سرزد ہونے پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہئے بلکہ تاویل کرنی چاہئے، اور کسی مجبوری، حالت استغراق یا اپنے واقف نہ ہونے پر محول کرنا چاہئے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں شیخ کا کل کے اوصاف نہیں ہیں اور اس کی عادت اور طریقہ ہی فاسقانہ ہے تو ایسا شخص ہرگز ولی نہیں ہے ایسے شخص کے کاموں اور باتوں کی تاویل ہرگز جائز نہیں۔"

حضرت شبلیؒ کے مرشد حضرت عبداللہ انڈلیؒ حافظ القرآن والدین تھے۔ لاکھوں سا لکھیں ان سے وابستہ تھے۔ اور سیکھوں خلقا ہیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ ایک مرتبہ جماعت کے ہمراہ عیسائیوں کی بستی سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی پر نظر پڑی تو باطنی نعمت چمن گئی۔ شیخ نے سا لکھیں کو واپس رخصت کیا اور لڑکی کے والد سے نکاح کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ ناواقف ہیں ایک صورت ہے کہ آپ سال دو سال یہاں رہ کر ہمارے سورج ایسیں تو بات آگے بڑھے گی۔ شیخ تیار ہو گئے مج سویرے سوروں کا رویوڑ چرانے لئے اور رات گئے واپس لوٹھے۔ پورا ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلیؒ کے دل میں شیخ کی سچی محبت جاگزیں تھیں وہ جانتے تھے کہ شیخ کا کل ہیں مگر کسی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔ ایک سال بعد حضرت شبلیؒ اپنے شیخ سے ملنے اسی بستی پہنچے، دیکھا کہ شیخ وہی خطبہ جمعہ والا جبہ پہنے وہی عمامہ باندھے وہی عصا ہاتھ میں لئے کھڑے ہیں اور رویوڑ کی گمراہی کر رہے ہیں۔ حضرت شبلیؒ قریب آئے۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا "حضرت آپ کو قرآن پاک اب بھی یاد ہے" شیخ نے تھوڑی دیر خاموش رہ

کر فرمایا بس ایک آئیت یاد ہے "وَمَنْ يَهْنَ اللَّهَ فِمَا لَهُ مِنْ مَكْرُومٍ" [جیسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی نہیں عزت دینے والا] پھر پوچھا کہ حضرت احادیث یاد ہیں۔ فرمایا صرف ایک یاد ہے۔ "مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" [جو انہارین بدلتے اسے قتل کرو]

یہ کہنے کے بعد شیخ زار و قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا "یا اللہ! میں آپ سے ایسا لگان تو نہیں رکھتا تھا" حضرت شیخ بھی دھاڑیں مار مار کر روئے کافی دریکے بعد شیخ بھی واپس وطن چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ اندر لی ترتوذہ مسکرا تا چھو طبیعت میں بشاشت سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت شیخ کی خوشی کی انتہاء رہی۔ پوچھا کہ حضرت! یہ کیا معنہ تھا۔ فرمایا کہ جس وقت میں سا لکھن کی جماعت کے ہمراہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا "یہ بیسالی کیسے یوں قوف لوگ چیز کے حضرت میسی" کو اللہ کا بیٹا بنا لیا" فوراً گرفت ہوئی ایک آواز آئی "اگر تم اسلام پر ہو تو یہ تمara اکمل ہے یا ہمارا اکمل ہے" اس کے ساتھ ہی باطنی نعمت چھن گئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ (یہ کہتے قائل غور ہے کہ وہ بات جو عامتہ الناس کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی، اس کے کرنے پر بھی مقربین کی کپڑا ہو جاتی ہے) حضرت شیخ اپنے شیخ سے خلاف شرع بات صادر ہو چکے ہی پھر یہ لوٹ آئیں۔ اس واقعہ میں سا لکھن کے لئے کمی نیچیں ہیں ایک تو یہ کہ کمالات کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کریں دوسرا یہ کہ استقامت والے شیخ سے خلاف شرع بات صادر ہو چکے ہی پھر یہ کمیں کہ کوئی آزمائش ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی کیفیات حالات و واردات پر فرقہ نہ ہوں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کسی حالت میں بھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت شیخ کی اپنے شیخ سے عقیدت و محبت سا لکھن کے لئے روشنی کا میثار ہے۔

اوہ 17:- شیخ کی تختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے دل بچک نہ ہو اور بدگلنی کو راہ میں نہ آنے دے کیونکہ شیخ کی تختی طالب کے لئے میقل کا کام کرتی ہے۔

فائدہ:- جس طرح ایک مال کسی پودے کے فاضل حصوں کو کلاتا ہے تو پودے کی نشوونما بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ دیکھنے میں بھی دیدہ زیب نظر آتا ہے یا جس طرح ایک طبیب کسی مريض کے زخم پر کبھی نشرت لگاتا ہے کبھی اس میں سے گندامواد لگاتا ہے اور کبھی اس پر مریم لگاتا ہے حتیٰ

کہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل مرید کی تربیت کے لئے کبھی شفقت و محبت سے پیش آتا ہے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تاکہ مرید میں اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ مرشد کی ڈانٹ ڈپٹ مرید کی باطنی بیماریوں کے لئے تربیق کا کام دیتی ہے۔ مرشد چونکہ اخلاص کے ساتھ تربیت کی خاطر رُوك نُوك کرتے ہیں لذا مریدین اس زجر و توبج کو بھی نمکین غلاف میں پوشیدہ شکرپارے سمجھتے ہیں اور پسلے سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم "فرمایا کرتے تھے "پیر کو چپ شاہ نہیں ہونا چاہئے" اگر مرشد اپنے مریدین کی کوتایوں پر خاموش رہے گا، نہ موقع پر سمجھائے گا نہ ہی تھلائی میں تو مریدین کی اصلاح کیسے ہوگی۔ مریدین کی غلطیوں اور کوتایوں کو دیکھ کر اصلاح کی کوششیں نہ کرنا سراسر مدد ہے۔ اس سے پیری مریدی تو چک جاتی ہے مگر مریدین کی تربیت نہیں ہوتی۔ حضرت مرشد عالم "فرمایا کرتے تھے "حلوہ، پیر اور مولوی کے لئے سیست کا کام کرتا ہے" یعنی حلوہ کھائیتے سے منہ بند ہو جاتا ہے۔ امراء کو تو بالخصوص استغفار کی چھری سے ذبح کرنا چاہئے۔ حضرت مرشد عالم "یہ فرمایا کرتے تھے "جب تک "دب" نہ ہو ادب نہیں ہوتا" یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ "مرشد اگر بلاوجہ کسی چورا ہے پر کھڑا کر کے مرید کو جوستے مارے تو بھی مرید کو چاہئے کہ وہ جوتا اٹھا کر دے۔" مرشد کی بلاوجہ ڈانٹ میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ مرید کافی بھرہ تا ہے یا نہیں؟ مرشد اگر مرید کی کسی بھی پر اسے ڈانٹتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ جیسے کسی حسینے نے چرے پر سیاہی لگائی ہے ابھی سیاہی دھوئے گی تو چاند سا چرو نکل آئے کاپ مزید برآل ڈانٹ ڈپٹ اور روک نُوك کا مقصد اصلاح احوال ہوتی ہے۔ کوئی دل میں غبار رکھنا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرشد مریدین کی غلطیوں کا غصہ عارضی ہوتا ہے اگر مرید اپنی اصلاح کر لے تو غصہ شفقت و محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مرشد جب کسی مرید کو ڈانٹتا ہے تو نہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور نہ ہی مرید کو گھٹیا سمجھتا ہے مرید کو ڈانٹتے وقت مرشد کی کیفیت اس جلاڈ کی سی ہوتی ہے جسے بادشاہ حکم دے کہ شہزادے کی فلاں غلطی کی وجہ سے شہزادے کو کوڑے لگاؤ۔ جلاڈ قیل حکم کی وجہ سے شہزادے کو کوڑے بھی لگائے گا مگر دل میں شہزادے کی حقارت کی بھائے محبت ہوگی۔ ہیں مرشد ڈانٹ بھی رہا ہوتا

ہے دل سے توجہات بھی ڈال رہا ہوتا ہے اور یہم شب کی تھائیوں میں مرید کے لئے ہاتھ پھیلا کر دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی کو تنیسرہ کرتے تھے تو اس کے لئے دعائیں بھی کرتے تھے۔

مرشد اگر کسی مرید پر زیادہ توجہ دے اور کسی پر کم توجہ دے تو مرید دل تک نہ ہو بلکہ یوں سمجھے کہ جس طرح کوئی طبیب بعض مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھتا ہے اور بعض مریضوں کو عام و ارڈ میں رکھتا ہے اسی طرح مریدین کو شیخ کی توجہ میں ظاہری تقاضوں محسوس ہوتا ہے حیقۂ دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

اوہ 18: دل میں کوئی شبہ گزرنے کی صورت میں فوراً مناسب طریقے سے عرض کر دے اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی فہم کا قصور سمجھے۔ اگر مرشد کوئی جواب نہ دے تو جان لے کہ میں جواب کے لاائق نہ تھا۔

فائدہ: جو ساکھن اپنے مرشد سے محبت و عقیدت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط رہا لیتے ہیں اول تو انہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہوتی اگر دل میں کوئی سوال پیدا ہمی ہو تو عموماً مرشد کی توجہات کی برکت سے خود ہی جواب بھی دل میں القا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مرشد کی زبان سے دوران گفتگو اسکا جواب دلوادیتے ہیں۔ ساکھن حیران ہو کر کہتے ہیں۔

اے لقاء تو جواب ہر سوال
با تو مشکل حل شود بے نیل و قال

[اے کہ تمی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے اور آپ سے بغیر کے سے مشکل حل ہو جاتی ہے]
ساکھن طریقت کے لئے مرشد کے کسی قول و فعل پر دل میں شبہ کا پیدا ہونا سب سے بڑا شیطانی دھوکا ہے عموماً بتدری حضرات محبت و عقیدت اور رابطہ شیخ میں کسی کی وجہ سے اسکا شکار ہو جاتے ہیں ایک اصولی بات سمجھ لئی چاہئے کہ جب بیعت سے پلے مرشد میں وہ تمام شرائط نشانیاں اور صفات دیکھ لی گئیں جو ایک شیخ کامل میں ہوئی چاہئیں تو پھر بیعت کے بعد شیطان کو کوئی بھی غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہئے۔ ہر بات میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے مرشد کو ناقدانہ نظر سے دیکھتے اور پر کہتے رہنا فیض سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ ابو جمل

ساری عمر بی علیہ السلام کو محمد بن عبد اللہ کی نظر سے دیکھتا رہا کاش کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا تو پیرا پار ہوتا۔ بد گلائی اور شک کی نظر اس ہستی پر والانداخو اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کا ذریعہ ہے کتنا برا سم تھا ہے حق بات یہی ہے کہ ذہن اپنا پیار ہوتا ہے کوئی شیخ میں نظر آتی ہے مرشد کی حیثیت تو آئینے کی ماہنہ ہوتی ہے حدیث پاک "الْمُؤْمِنُ مَرَأَةُ الْمُؤْمِنِ" [مومن، مومن کا آئینہ ہے] کے مطابق مرید کو اپنی یعنی خاصیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ لذاذشہ پیدا ہونے کی صورت میں فوراً مناسب طریقے سے مرشد کو آکا کر دینا چاہئے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاتا کی خدمت میں ایک ہندو پنڈت حاضر ہوا۔ کہنے لگا کہ مجھے کئی سالوں سے کشف القلوب نصیب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دل بالکل سیاہ ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ تمیں یہ چیز کیسے ملی؟ کہنے لگا کہ ہر کام نفس کے خلاف کرنے سے۔ حضرت نے باقاعدہ باقاعدہ میں کما کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگا کہ یہی نہیں چاہتا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کام بھی تو نفس کے خلاف کروتا۔ ہندو پنڈت اسی وقت توبہ تائب ہو کر مسلمان ہوا۔ حضرت نے فرمایا اب میرے قلب پر نظر ڈالو۔ کہنے لگا کہ حضرت اب تو نور یعنی نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ پسلے تمہیں اپنے قلب کا عکس میرے اندر نظر آیا تھا۔

رہا عملی مسائل کا پوچھتا اور افکارات کا حل کرتا تو ایسی باقاعدہ مناسب طریقے اور مناسب موقع پر ضرور پوچھنی چاہیں۔ "فاسْأَلُوا أهْلَ الذِّكْرَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" [آل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے] کا یہی مقصود ہے۔ البتہ ہر وقت لم اور لا کے چکر میں پڑے رہنا غلط نہیں۔

اچھا ہے دل کے پاس رہے پہنچان عقل

لیکن کبھی کبھی اسے تھا بھی۔ چھوڑ دے ادب 19:- مبالغہ اور جھگڑے وغیرہ کی صورت نہ بھائے۔ مرشد کے کلام کو رد نہ کرے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو بلکہ یہ اعتقاد رکھئے کہ شیخ کی خطایمیرے صواب سے بہتر ہے۔ فاائدہ:- یہ ادب منتسب حضرات کے احوال سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ علمی معاملات میں اگر موقعہ آجائے کہ مرشد سے اختلاف رائے ہو تو بھی ادب کا امن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے سید احمد شہیدؒ کو تصور شیخ کا حکم دیا تو سید صاحبؒ نے نہایت اوب سے مhydrat کی۔ شاہ عبدالعزیزؒ نے یہ شعر پڑھا

بیسے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغل گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز رسم و راه منزلما

[مربی کامل کے کئے پر اپنے مصلی کو شراب سے رنگیں کرو کیونکہ راه حق پر چلنے والا منزل کے طور طریقوں سے بے خبر نہیں ہوتا]

سید صاحبؒ نے عرض کیا کہ حضرت! میں آپ کے حکم سے شراب پی لوں گا پھر تو ہے کروں گا مگر میرے نزدیک تصور شیخ شرک ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے انہ کو سید صاحبؒ کو سینے سے لگایا اور فرمایا "المحمد لله ثم پر توجید غالب ہے۔ اب ہم تمیس اور راستے سے لے چلیں گے۔"

مرید انتلاف رائے کی صورت میں مباہثے اور بحثے کی صورت نہ بنائے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو، غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کی رائے تھی کہ قیدیوں کو بعض شرائط پر رہا کر دیا جائے جبکہ حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ ان قیدیوں کی گرد نہیں ازادی جائیں۔ جب وہی اتری تو حضرت عمرؓ کی رائے وہی کے مطابق تھی۔

شرع شریف کا حکم ہے کہ مجتہد کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے دو ثواب ملتے ہیں اور اگر غلط ہو تو بھی اسے ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ شیخ کی خطاب بھی خطائے اجتہادی کا حکم رکھتی ہے۔ لذ اسالک کو یہی گمان رکھنا چاہئے کہ شیخ کی خطاب میرے صواب سے بہتر ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سواؤ چار رکعت نماز پڑھتے ہوئے دو پر سلام پھیر دیا۔ نبی رحمت مل ﷺ کا یہ سوامت کے لئے رحمت بن گیا اور سجدہ سو کے مسائل واضح ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اس سو پر وہ اجر ملا کہ ابو بکرؓ کی پوری زندگی کی نیکیاں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ آپ کا مشہور قول ہے۔ "یلیستنی کشت سہو محمد" [اے کاش میں

اوب 20: شیخ کے رو برو بیووہ باتمیں نہ کرے اور نہ ہی کسی کے عیوب بیان کرے۔

فائدہ: عیوب جوئی دوسروں پر تنقید اور تہرہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے قرب سے محروم ہوتے ہیں ورنہ دوست کو کب فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کی یاد چھوڑ کر لایتی باتوں میں وقت ضائع کرے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی "فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی" نے تصوف کو دو شعروں میں سمجھا دیا۔

مرا پیر داتائے مرشد شب

دو اندرنہ فرمود بر روتے آب

یکے آنکہ برخویں خود میں مباش

دوم آنکہ درکس تو بدین مباش

[میرے شیخ مرشد کاہل شیخ شاب الدین سرور دی] نے مجھے دو نصیحتیں دریا کے کنارہ کھڑے ہو کر فرمائیں۔

(1) اپنی نیکیوں پر نگاہ مت رکھو۔ (2) دوسرے کی نعلیبوں میں نگاہ مت ڈالو اور در گذر کو]

گویا تصوف کا نچوڑ دو لفظوں میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ سالک اپنے پر "خود میں" نہ ہو اور دوسرے پر "بدیں" نہ ہو۔ یعنی اپنی اچھائیوں پر نظر نہ جائے رکھے اور دوسروں کی براویوں پر نظر نہ لگائے رکھے۔

اوب 21: مرشد کے قرابت داروں اور عزیزوں سے محبت و مودت رکھے۔ اس کے دوستوں محبوبوں اور نیز پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے اس کی بدگوئی اور اس کے مخالفوں سے دور رہے تاکہ استقامت حاصل ہو۔

فائدة: مرشد سے محبت کی پچان یہی ہے کہ مرید اپنے مرشد کے قرابت داروں اور عزیزوں سے محبت و مودت رکھے۔ یہی تعلیم کتاب و سنت سے ملتی ہے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا:

"يَقُومُ لَا إِسْلَامَ كُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُودَةُ فِي الْقُرْبَى" (الشوری: آیت 23)

[اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگنا۔ سوائے اپنے قرابت داروں سے محبت کے]

طبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ادبوا اولاد کم علیٰ ثلات خصال۔ حب نبیکم و حب آل بیته و تلاوة القرآن“ [اپنی اولاد کو تمیں چیزوں کی تعلیم دو۔ مشیر کشم کی محبت آپ کے الٰہی بیت کی محبت اور تلاوة قرآن]

اوب 22:- اپنے احوال باطنی (اتجھے ہوں یا برے) مرشد کے سامنے عرض کرے کیونکہ مرشد طبیب روحانی ہے اطلاع کے بعد اصلاح کرے گا۔ مرشد کے کشف پر اعتدال کر کے سکوت نہ کرے۔

فائدہ:- جس طرح کوئی مریض اپنے حالات سے طبیب جسمانی کو باخبر رکھتا ہے اگر نہ رکھے گا تو موت کے منہ میں چلا جائے گا، اسی طرح سالک کو چاہئے کہ اپنے مرشد یعنی طبیب روحانی کو کیفیات و اورادات سے مطلع کرتا رہے ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں افراط و تفریط سے بچنا لازمی ہے۔ افراط یہ کہ سالک اپنی کیفیات شیخ کے علاوہ ہر کہ وہ کے سامنے بتاتا پھرے۔ حالانکہ اورادات و کیفیات تو عاریں باطنی ہوتی ہیں بھلا کوئی شخص غیر کو اپنی دلمن دکھاتا ہے۔ تفریط یہ ہے کہ اپنے حالات شیخ کے سامنے بھی نہ کرے اور یہ سوچتا رہے کہ مرشد صاحب کشف ہیں انہیں خود ہی پڑتے چل جائے گا۔ اعتدال کی راہ یہی ہے کہ اپنے حالات سے مرشد کو مطلع کرتا رہے۔ صوفیہ کا قول ہے کہ سالک اگر اطلاع اور اتباع کو اپنا دستور بنالے گا تو اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

اوب 23:- خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد کی خدمت میں عرض کرے اگر اس کی تعبیر زہن میں آئے تو وہ بھی بیان کرے۔

فائدہ:- بعض سالکین لطیف الطبع ہوتے ہیں انہیں بست خواب نظر آتے ہیں اور بعض کثیف الطبع ہوتے ہیں انہیں کم خواب نظر آتے ہیں۔ زیادہ خواب نظر آنا فضیلت کی بات نہیں اور کم خواب نظر آنا بھی گراوٹ کی دلیل نہیں۔ خواب تمیں طرح کے ہوتے ہیں۔

(۱) حدیث نفس، سالک جو کچھ دن میں کرتا سوچتا ہے یا اس کے لاشعور میں ہوتا ہے وہی کچھ خواب میں نظر آ جاتا ہے۔

(2) — اضفاث⁹ احلام۔ اوٹ پنگ خیالات خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

(3) — روایاء صالحہ۔ پے خواب جنہیں بوت کا مختیسوائی حصہ کہا گیا ہے۔

ان تینوں قسم کے خوابوں میں پہچان کرنا ایک مشکل امر ہے۔ باطنی بصیرت برکتے والا ہی یہ معہ حل کر سکتا ہے۔ سالک کو چاہئے کہ جو کچھ خواب میں دیکھے وہ اپنے شیخ کی خدمت میں بے کم و کاست عرض کر دے۔ مرشد اگر تعبیر بتادے تو فہما اگر خاموش رہیں تو سمجھ لے کہ تعبیر بتانا میرے لئے بہتر نہیں تھا۔ یا پھر یہ خواب قابل تعبیر نہ تھا۔ تعبیر الروایاء کے سلسلہ میں چند باقی بڑی اہمیت کی حالت ہیں۔

(1) — کئی خواب جس طرح نظر آئیں ان کی تعبیر من و عن اسی طرح ہوتی ہے۔

(2) — کئی خوابوں کی تعبیرات ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کو دیکھا کہ مر گیا مگر حقیقت میں لمبی زندگی پائی۔

(3) — کئی خوابوں کی تعبیر تمثیل پر منحصر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موئی گائے دیکھی تو تعبیر رزق کی فراوانی والا سال، پتلی گائے کی تعبیر قطع زده سال۔

(4) — ایک ہی خواب دو مختلف آدی دیکھیں تو دونوں کے لئے تعبیر مختلف ہوگی۔ نیک آدی نے خواب دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں تو "واذن فی الناس بالحج" کے تحت عزت ملی۔ کسی فاقہ شخص نے دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں۔ تو "لئم اذن موذن" کے تحت چوری کرتے پکڑا گیا، زلت ملی۔

(5) — ایک ہی خواب مختلف موسموں میں دیکھیں تو تعبیر مختلف۔ سردیوں میں آگ دیکھیں تو فائدہ پہنچے، گرمیوں میں آگ دیکھیں تو نقصان ہو۔

(6) — کئی مرتبہ خواب ظاہر میں اوٹ پنگ مگر روایاء صالحہ میں سے ہوتا ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے آپ کو برهنہ دیکھا پھر انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو دیکھا کہ اس سے زنا کر رہے ہیں۔ پریشان ہو کہ انہیں بیٹھی، ڈر گئی کہ کہیں رسوانہ ہو جاؤ۔ مگر تعبیریہ تھی کہ اس نے نسر بنوائی جس سے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور چندوں نے پانی پیا۔ زبیدہ خاتون کے لئے صدقہ جاریہ بنتا۔

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہو۔ بہت پریشان ہوا۔ مگر ماں سے مراد نہیں اور زنا سے مراد اس سے فائدہ لینا۔ چنانچہ اسے اپنی کھتی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔

ساکھیں کو ایک اصول ذہن نشین کر لیتا چاہئے کہ بالفرض صحیخ خواب بھی نظر آئے تو جب تک پورا نہ ہو کیا فائدہ۔ مثلاً خواب میں دیکھا کہ بادشاہ بن گیا ہوں تو کیا فائدہ جب تک حقیقت میں نہ ہے۔ حضرت یوسفؑ نے سورج، چاند، ستاروں کو سمجھہ کرتے دیکھا مگر کنوں میں گرنا پڑا۔ مصر میں بکنا پڑا۔ عزیز مصر کے گھر کی چاکری کرنی پڑی۔ آزمائش میں سے گزرنا پڑا، نوسال جیل کاٹنی پڑی پھر بادشاہت ملی اور خواب پورا ہوا۔ جب سچے خوابوں کا بھی یہ حال ہے تو پھر اوٹ پنگ خوابوں پر فریغتہ کیا ہوتا۔ بعض ساکھیں تو ہر وقت خواب ہی سناتے پھرتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوابوں کی دنیا کے شنزادے ہیں۔

درحقیقت شیطان خوابوں کے ذریعے بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے۔ خود پسندی اور عجب پیدا کر کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مرشد ہی کی ذات ہے جو ان شیطانی ہتھکنڈوں سے خود ادار کرتی ہے تاکہ ایمان نجی جائے۔ حضرت جنید بغدادیؓ کا ایک مرید روزانہ خواب میں جنت کی سیر کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر لوگوں میں تذکرے کرتا تھی کہ اس کے قصے زبان زد عالم ہو گئے ایک سال اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے دیکھا کہ خود پسندی اور خود فرمی کے جال میں پھنس چکا ہے فرمایا "اب جنت نظر آئے تو لا ح Howell ولا قوہ" پڑھنا۔ مرید سمجھا کہ شیخ مجھ سے حد کرنے لگے ہیں۔ اگلی رات خواب میں جنت کی سیر کرنے لگا تو خیال آیا کہ شیخ نے کما تھا (درحقیقت یہ شیخ کی توجہ اور برکت تھی) کہ لا ح Howell پڑھنا۔ جب پڑھا تو سب نقشے ختم چند ہڈیاں پڑی دیکھیں۔ تب احساس ہوا کہ شیطان تو میرے ایمان پر ذاکرہ ڈالنا چاہتا تھا۔

بعض ساکھیں کو خواب میں بزرگ نظر آتے ہیں سالک سمجھتا ہے کہ مجھے باطنی فائدہ ہو رہا ہے۔ حقیقت شیطان اس کا رابط شیخ سے کانا چاہتا ہے۔ بعض ساکھیں کو دیکھا کہ خواب ایک سے بڑھ کر ایک عجیب و غریب دیکھتے ہیں مگر پسندی شریعت میں ست ہوتے چلتے ہیں۔ یہ فتنہ

میں پڑنے کی واضح علامات ہیں۔

حدیث پاک میں ہے ”من رَأَنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ“ (بخاری کتاب الایمان)

[جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل ہرگز نہیں بن سکتا] اس حدیث پاک کے تحت حضرت مجدد الف ثانیؓ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ شیطان نبی اکرم ﷺ کی اس صورت مبارک میں جس میں آپ ﷺ مدینہ میں پرده فرمائیں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہر ایک صورت میں آگر دھوکہ دے سکتا ہے چاہے وہ اللہ کی صورت ہو یا آباو اجداد کی۔ اللہ اجو سا کہیں خوابوں پر اپنی روحانیت کی بیانار کھتے ہیں وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں بعض خاقانوں کے تو سجادہ نشین حضرات بات شروع کرتے ہیں خواب سے اور ختم کرتے ہیں تو خواب پر۔

”عَوْ شَاغِنَ زَكَرٍ پَّرْ آشِيهَ بَنَنَ گَلَپَانِيَارَ ہُوَگَا

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز میں سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس جگہ پہنچے ”افرءَ يَتَمَ اللَّتَ وَالْعَزِيزَ وَمَنَاهَا الشَّالِشَةُ الْأَخْرَى“

[بخلاف تم نے لات عزی اور تمیرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے] [النجم: آیت 20]

تو صحابہؓ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آپ نے اس سے آگے یہ کہا کہ ان کی بھی عبادت کرو اور اللہ کی بھی۔ صحابہ کرامؓ بت جیران ہوئے۔ نماز سے فراغت پر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ نبی آمیں اتری ہیں جو آپ ﷺ نے پڑھی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں پڑھیں چنانچہ چریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آیات اتریں۔ ”الْقَوْ الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّةِ“

(لج: آیت 52)

[شیطان نے اپنی گنگو (وقف کے دوران) حضورؐ کی قرات سے ملا دی تھی]

پھر پہنچا کہ شیطان نے اپنی آواز نبی علیہ السلام کی السلام کی آواز کی مانند بن کر یہ عبارت پڑھی تاکہ صحابہ کرامؓ کو دھوکہ دے سکے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی

موجودگی میں پھر حالت نماز کی یکسوئی میں صحابہ کرام "جیسے پاکیزہ حضرات کو دھوکہ دینے سے شیطان باز نہیں آیا تو پھر ہم کس کھیت کی گا جرموں پیں کہ بلند و بائگ دعویٰ کریں۔ آج کا سالک اتنی کمزور روحانیت، ملکوۃ نبوت سے اتنا بعد، فتنے والا دور پھر نبیند کی حالت میں تو شیطان کے لئے برکاتا کونا مشکل کام ہے۔ سالک کو یوں سوچنا چاہئے کہ ہمیں تو شیطان جیتے جائے تھائی ہوش و حواس برکات دیتا ہے تو خواب کی حالت میں برکاتا کونا مشکل کام ہے۔ پس خوابوں پر اعتناء ہرگز ہرگز نہ کرے جو کچھ دیکھے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کر دے اور دعا میں کرتا رہے۔ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ الْ
يَحْضُورَنَّ" [یا اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ شیطان مردوں کی چوکیوں سے اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے اعمال میں حاضر ہو کر دخل دیں]

اوہ 24: جو ورد وظیفہ مرشد تعلیم کرے اسی کو اپنا معمول بنائے اس کے علاوہ تمام وظیفے چھوڑ دے خواہ اپنی طرف سے شروع کئے ہوں یا کسی دوسرے نے بتائے ہوں۔ البتہ اعمال مسنونہ مستثنی ہیں۔

فائدہ: یہ بات عامۃ الناس میں بھی مشور ہے کہ مریض کو ایک وقت میں ایک طبیب کی دوا استعمال کرنی چاہئے اسی طرح سالک کو فقط اپنے ہی شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرنا چاہئے۔ اس کی اصل "و حرم منا علیہ المراضع" ہے۔ اپنی مرضی سے یا کسی اور کئنے پر مزید و ظالماً کو اپنائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ مبتدی کے لئے و ظالماً دوا کی مانند اور نتیجی کے لئے ندا کی مانند ہوتے ہیں۔ و ظالماً میں ٹوپ کی نیت کرنا برا نہیں ہے "و فی ذالک فلیتَنَا فِسْ الْمُتَنَافِسُونَ" [اور حرس کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہیے] اس کی دلیل ہے۔ سالک کو چاہئے کہ اپنے عمل کو اتنا کامل بھی نہ سمجھے کہ ناز پیدا ہو اور اتنا ناقص بھی نہ سمجھے کہ مایوسی ہو۔ "يَدْعُونَ رَبَّهِمْ خَوْفاً وَ طَمْعًا" (السجدہ: آیت 16)
[ایمان والے اپنے رب کی عبادت خوف اور اید کے درمیان کرتے ہیں] میں یہی راز پوشیدہ ہے۔ اور ادا و ظالماً صبح و شام کرنے کی قرآنی دلیل "يَسْبُحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدْرِ
وَالاَصْالِ" ہے۔

اوب 25:- شیخ کے پاس بیٹھ کو وظیفہ وغیرہ میں مشغول نہ ہو اگر کچھ پڑھنا لازمی ہو تو اس کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھے۔

فائدہ:- مرشد کی موجودگی میں سالک کو رابطہ قلبی میں جو فائدہ ملتا ہے وہ ذکر و وظائف سے نہیں ملتا۔ مرشد کی مثال سورج کی مانند اور مرید کی مثال پھول کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی حرارت سے پھولوں کا زائد تقدیر ہو جاتا ہے یا پھولوں کی رنگت میں خوشنامی آتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح مرشد کی توجہات سے سالک کے دل میں نورانیت آتی رہتی ہے۔ اگر مرید کوئی وظائف کرنا چاہے تو شیخ کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر کرے۔

اوب 26:- جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے اسے مرشد کا طفیل سمجھے اگرچہ خواب یا مرابتہ میں دیکھے کہ کسی دوسرا بزرگ سے فیض پہنچ رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ میرے مرشد کا کوئی لطیفہ اس بزرگ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔

فائدہ:- جس طرح ایک بلب تار سے جزا ہوا ہوتا ہے اسے جو بھی بھلی پکنچتی ہے اسی تار کے ذریعے سے پکنچتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھلی تریلاڈیم سے آری ہے یا منکلاڈیم سے، بھلی جس پاور اسٹیشن سے بھی آئے گی اسی تار سے ہو کر بلب کو ملے گی۔ اسی طرح مرید کو جو بھی باطنی فیض پکنچتا ہے وہ شیخ کے قلب سے ہو کر پکنچتا ہے اگرچہ وہ فیض پیچھے کسی بھی بزرگ کی طرف سے آرہا ہو۔ اسی لئے کوئی مرید ظاہر میں کسی دوسرا بزرگ سے فیض مل دیکھے تو بھی یہی گمان کرے کہ میرے شیخ کا کوئی لطیفہ اس شکل میں ظاہر ہو کر مجھے فیض پہنچا رہا ہے۔ مرید کی توجہ کا قبلہ ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہئے اس کو کہتے ہیں۔

ع یک گیر محکم مجید

[ایک ہی شیخ بنا لو اور ان کو ہی مضبوط پکڑو]

حضرت خواجہ محمد سید قریشی "ایک مرتبہ سرہند شریف حضرت مجدد الف ثانی" کے مزار القدس پر حاضر ہوئے۔ آپ کے خلقاء میں سے حضرت سید زوار حسین شاہ "حضرت مولانا محمد سید گوہا نوی" اور مریدین میں سے بھی چند حضرات رفیق سفر تھے۔ مزار مبارک پر کافی دری مرقبہ کرنے کے بعد حضرت مجدد الف ثانی "سے ہمکلامی نصیب ہوئی مختلف امور پر گفتگو کے بعد

حضرت مجدد" نے فرماش کی کہ اپنے خلفاء (سید زوار حسین شاہ" اور مولانا محمد سعید گوہانی" دیگر ہم) کو کچھ دن تیس میرے پاس چھوڑ جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب" نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ اب میں تو آگے سفر کے لئے روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ مولانا محمد سعید گوہانی" نے پوچھا "حضرت آپ کا حکم ہے کہ ہم یہاں ٹھریں یا ہماری مرضی پر ہے کہ یہاں ٹھریں یا ساتھ سفر پر جائیں" حضرت نے فرمایا "آپ حضرات کی مرضی پر ہے میں نے تو حضرت مجدد الف ثانی" کا پیغام پہنچایا ہے "مولانا گوہانی" نے کہا "حضرت! ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہمارے مجدد تو آپ ہیں۔"

سبحان اللہ۔ مرشد کے ساتھ واہنگی ہو تو ایسی۔ دعوت دی جا رہی ہے حضرت مجدد" کی طرف سے جو اپنے سلسلہ کے سرخیل بزرگ ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں اپنے پیرو مرشد، تو اس سب کے باوجود یہ کہنا کتنا عجیب ہے کہ حضرت! ہمارے مجدد تو آپ ہیں۔ اسی لئے ان حضرات کو ایسی ایسی کیفیات ملتی تھیں کہ آج کاسالک ان کی گرد را کو بھی نہیں پہنچ پاتا۔ "الا ما شاء الله"

حضرت خواجہ ابو سعید خزار" کے خاندان میں آباؤ اجداد سے ایک خرقہ چلا آرہا تھا مشور تھا کہ خاندان کے مشائخ نے اپنی توجہات کو اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ اس خرقہ کی برکات ظہور میں آئیں۔ حضرت خواجہ صاحب" کو ان کے پیرو مرشد نے جب اجازت و خلافت دی تو انہوں نے بھی ایک خرقہ عطا فرمایا۔ یہ دونوں خرقے حضرت" کے استعمال میں رہے۔ جب آپ پر مرض الموت کا غلبہ ہوا۔ تو آپ نے ایک خادم سے کہا کہ خرقہ لا کر میرے اوپر ڈال دو۔ مگر میں اس کے فیوضات سے مستفیض ہوں۔ خادم نے پوچھا، حضرت! کونسا خرقہ؟ حضرت" نے فرمایا کہ مجھے اپنے آباؤ اجداد کے خرقے کا بہت احترام ہے لیکن اس وقت میرے پیرو مرشد کا عطا کردہ خرقہ لا۔ میں آخری وقت میں اپنے پیرو مرشد کے انوارات میں مستقر ہو کر منا چاہتا ہوں۔

اوہب 27: - مرشد کا کلام دوسروں کے سامنے اس قدر بیان کرے جس قدر لوگ سمجھ سکیں جس بات کے بارے میں یہ لگان ہو کہ عام لوگوں کی سمجھ سے بلا ہے تو اسے ہرگز بیان نہ

کرے۔ کیونکہ بعض باتیں صرف خواص کے لئے ہوتی ہیں۔

فائدہ:- سالک کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مرشد کی صحبت میں سنی ہوئی معرفت کی باتیں ہر خاص و عام کو ساتا پھرے۔ کچھ باتیں سمجھنے کے لئے استعداد کی ضرورت ہوتی ہے اگر استعداد نہ ہو تو ایسی باتیں فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے ”کلموا

الناس علیٰ قدر عقولہم“ [لوگوں سے انکی عقولوں کے مطابق بات کرو]

اوب 28:- اگر کوئی مرتبہ یا منصب عنایت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قبول کرے، دل میں کوئی دینوی خیال نہ آئے۔

فائدہ:- اگر مرشد کوئی منصب یا مرتبہ عطا کریں تو نعمت غیر مترقہ سمجھتے ہوئے جان و دل سے قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کاشکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت شرط ہے۔

وہ چاہے تو خاک سے افلاک تک پہنچائے۔ کس کی محلہ ہے کے ”اھؤلاء من الله علیهم من بیننا“ حضرت قصیل بن عیاض ”کو رہزوں کے گروہ سے چنا“ ولیوں کا سردار بنا دیا۔ خالدؑ کو بت پرستی سے نکلا اور سیف اللہ کا تاج پہنادیا۔ وہ اگر مہماں کی نظر ڈالے تو سب

عیب ہنزہیں۔ مٹھی بھر خاک قدموں کے نیچے آنے والی سے کہا ”انی جاعل فی الارض خلیفة“ لطف اللہ کا جھونکا چلا ہے تو مرود کو مقبول بنئے اور خاک کو کیما بنتے دیر نہیں گئی۔ وہ چاہتا ہے تو کتنے کو ولیوں کی صفت میں بٹھا کر قرآن میں اس کے تذکرے کر دیتا ہے۔ اور

”کلبهم باسط“ کے الفاظ کہ کمرتبہ بوضاحتا ہے کہی مختار رحمت جوش میں آتا ہے تو مطلوب خود طالب کو کھینچتا ہے پھر محروم رہنے کا کیا سوال۔ پھر تو مٹھی بھی سونا بن جاتی ہے رہی

پلت یہ کہ سالک سوچے میں اس قابل نہیں قابل تو مرتبہ وقت تک نہیں ہوں گے۔ جس نے سوچا میں اب اس قابل ہو گیا ہوں یہی اس کی ناقابلیت کی دلیل ہے۔

اوب 29:- اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شیخ کی طرف بغرض بیعت رجوع نہ کرے تاکہ سعادت مندی کی دولت سے ملا مال ہو۔

فائدہ:- سالک کو اپنے مرشد کے علاوہ دوسرے مشائخ سے استفادہ کرنے کی درج ذیل صورتیں پیش آسکتی ہیں۔

1) — بیعت کا تعلق ایک شیخ سے تھا مگر روز گاریا تعلیم کے سلسلہ میں کسی دوسرے ملک جانا پڑا۔ وہاں کامائل انتہائی خراب، شیخ سے رابطہ مشکل مگر اپنے ہی سلسلہ کے کسی مقامی بزرگ کی صحبت میرا ہے تو ایسی صورت میں اپنے مرشد کی اجازت سے اس مقامی بزرگ کو پیر بنالے۔ پہلے والے شیخ پیر طریقت ہوں گے۔ دوسرے پیر تعلیم، ایک وقت میں دو شیوخ سے تعلق کتب میں منقول ہے۔

2) — مرشد سے بیعت کا تعلق تو بہت عرصے رہا مگر فائدہ نہیں ہوا تو ان کا ادب و احترام دل میں رکھتے ہوئے ان کی اجازت سے کسی دوسری جگہ بیعت کر لے، مقصود تو اصلاح ہے۔

3) — اپنے شیخ کے اکابرین میں سے کوئی بزرگ بیدار حیات ہوں اور دل ان سے بیعت برکت کیلئے آمادہ ہو۔ تو شیخ کی اجازت سے بیعت برکت کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدقیؒ نے حضرت مرشد عالمؒ کو اسماق طے کروائے۔ اور مزید توجہات کے لئے اپنے پیر خانے مسکین پور شریف بھیجا۔ حضرت سید فضل علی قریشیؒ نے کئی دن توجہات دیں پھر اجازت و خلافت دی اور بیعت کیا یہ بیعت مالی اپنے پیرو مرشد کی رضاخوشیوں سے ہوئی۔

ادب 30: — جب مرشد اس دارفانی سے رحلت فرماجائے۔ تو اسکے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کر کے تاکہ تعلق رو طالی باقی رہے۔

فائدة: — سالک کا انگ انگ اسی ہستی کے احسانات میں ڈوبا ہوتا ہے جو وصول الی اللہ کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ وفات پا جائے تو ایصال ثواب کو یوں سمجھیں جیسے روزانہ تحفہ بھیج رہے ہوں۔ قرآن مجید پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، صدقة و خیرات کر کے، ذکر و مرقبہ کر کے درود پاک واستغفار کر کے تسبیحات پڑھ کر، نفلی روزہ رکھ کے، مساجد و مدارس ہوا کر اپنے مرشد کو ثواب پہنچایا جاسکتا ہے۔ علامہ شاہیؒ نے لکھا ہے کہ فرض اور واجب کے علاوہ ہر نفل عبادت کا ثواب پہنچایا جاسکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لئے حج کا بدل ہو سکتا ہے ان کی روح کو آسمان میں خوشخبری دی جاتی ہے اور یہ کسی کی طرف سے حج کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک تابع فرمان شمار ہوتا ہے۔

باب 7

خانقاہوں کا قیام

انسان کی ظاہری آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور باطنی آنکھ کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں۔ خواہشات نفسی کی پیروی کرنے سے انسان کی بصیرت چھپ جاتی ہے اور دل اندر ہا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ“

[بیکل آنکھیں اندمی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں دل اندر ہے ہو جاتے ہیں]

امام نسفي اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”إِنَّمَا عَمِيتُ الْأَبْصَارُهُمْ عَنِ الْأَبْصَارِ بَلْ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْاعْتِبَارِ“
ولکل انسان اربع اعین۔ عینان فی الرءوس و عینان فی القلب۔ فاذًا
ابصر ما فی القلب و عمي ما فی الراس لم يضره۔ وان ابصر ما فی الراس
و عمي ما فی القلب لم ینفعه“

(تفسیر نسفي جلد دوم صفحہ 1079 آیت 46)

”بین ان کی آنکھیں دیکھنے سے اندمی نہیں ہو سیں بلکہ دل عبرت حاصل کرنے سے اندر ہے اور ہر انسان کی چار آنکھیں ہیں۔ دو سر میں اور دو دل میں۔ جب دل کی آنکھیں بینا ہوں تو سر کی آنکھوں کا اندر ہا پن نقصان دہ نہیں اور اگر سر کی آنکھیں بینا ہوں اور دل کی اندمی ہوں تو یہ نقصان دہ ہے۔“
جع ہے کہ دل اندر ہا ہو تو چکدار آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔ بقول شمسی
۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

ذکر اللہ ایسا تریاق ہے جو انہیں دلوں کو پینا بلکہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بیناکم الایات لعلکم تعقلون" (سورۃ الحدیث: آیت نمبر 17)

[جان لو کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے خلک ہونے کے بعد، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لئے ثانیاں ہاکہ تم سمجھو] اس آیت کی تفسیر میں اہم نسخی "لکھتے ہیں"۔

"فیل هذَا تَمْثِيل لَا تُرِكَ ذِكْرُ فِي الْقُلُوبِ وَإِنَّهُ يُحِيِّيهَا كَمَا يُحِيِّي الْأَرْضَ" (تفسیر نسفی جلد 3 صفحہ 1761)

[کما گیا ہے کہ اس آیت میں ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے کہ ذکر کا دل پر اثر ہوتا ہے اور ذکر سے دل اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح بارش کے پانی سے زمین زندہ ہو جاتی ہے] وہ جگہیں جہل خوابیدہ دلوں کو جگانے کے لئے یعنی انہیں دلوں کو پینا کرنے کے لئے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لئے ذکر اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خانقاہیں کملاتی ہیں، کتاب و سنت سے ان خانقاہوں کے قیام کے ولاءکل بیان کئے جاتے ہیں۔

قرآن مجید سے ولاءکل

دلیل نمبر 1:- ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"فِي بَيْوَتِ اذْنَ اللَّهِ اَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرْ فِيهَا اَسْمَهُ يَسْبِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدْوِ وَالاَصَالِ رِجَالٌ لَا تَلِهِمُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ"

(سورۃ نور آیت 37)

★ — اس آیت کا ارتباط ماقبل آیت سے بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد اوریں کاندھلوی لکھتے ہیں۔

"اب آگے یہ تلاتے ہیں کہ وہ اہل ہدایت کون لوگ ہیں اور نور ہدایت یعنی کہ وہ روشنی

کمال ملتی ہے؟ سوتلاتے ہیں کہ روشنی مسجدوں اور خانقاہوں میں ملتی ہے جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے" (معارف القرآن جلد 5۔ صفحہ 132) ★ — چند سطور کے بعد لکھتے ہیں۔

"وَيَذْكُرُ فِيهَا أَسْمَهُ" [ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے] اس میں تسبیح و تہلیل اور حلاوت قرآن پاک اور دیگر اذکار سب واضح ہیں۔ ان گھروں سے مسجدیں اور خانقاہیں مراد ہیں" (معارف القرآن جلد 5 صفحہ 132) ● دلیل نمبر 2: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِبَا فِي الْأَرْضِ" (سورۃ بقرۃ: آیت 273)

مفہرین اس آیت کی وضاحت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" هواذین احصرهم الجہاد فمنعهم من التصرف، لا یستطیعون، لاشتغالهم به، ضربا فی الارض، للكسب وقيل هم اصحاب الصفة" (تفیر نسفی جلد اول صفحہ 190) ● — شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ:

"احصرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" جیسا کہ آنحضرت سے تعلیم پانے اور شب و روز یادِ الہی میں بست سے صحابی گھر یا رچھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر رہتے، جن کے فیض نے آنحضرت کے بعد تمام عالم کو منور کیا۔ (تفیر تفانی جلد دوم صفحہ 18) ●

— حضرت مولانا محمد ادريس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ:

"احصرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" جو خدا کی راہ میں مقید اور پابند ہیں یعنی دین کی خدمت اور علوم ظاہری اور باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علم دین سکھتے ہیں اور ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جادیں لگھے ہوئے ہیں۔ ظاہری دشمن سے کفار مراد ہیں اور باطنی دشمن سے نفس امارہ مراد ہے۔ جس طرح کافروں کی گردن کشی کیلئے جہاد و قتل بزرگ ترین عبادت

ہے اسی طرح نفس کشی کیلئے مجاہدات اور ریاضات بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ حدیث میں ہے "المجاهد من جاحد نفسه" (معارف القرآن جلد اول صفحہ 412)
 ④ — حضرت قاضی شاء اللہ پالی پتیؒ لکھتے ہیں۔

"احصروا فی سبیل اللہ" (ان فقراء کے لئے جن کو راہ خدا میں روک دیا گیا ہے۔ یعنی ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل یا جہاد میں مشغول ہیں)۔ (تفہیر مطہری جلد دوم صفحہ 77)
 ⑤ — سید امیر علی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

"عراکس میں کما کہ "قوله للفقراء الذين احصروا فی سبیل سنه" اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ عزوجل کی مجلس مراقبہ میں اپنے نفوں کو روک رکھا ہے۔ "لا یستطیعون ضربا فی الارض" یعنی اپنی معاش و حوانج ضروری تلاش کرنے کے واسطے اپنی محاس مراقبہ سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس جست سے کہ ان پر حال کا ذرور ہے اور ذکر اللہ ان پر غالب ہے اور اپنے موٹی کے مشاہدہ میں مستفرق ہیں اور محبت ان پر شدت سے اور عشق کثرت سے طاری ہے کہ ان کو کلائی میں مشقت کی استطاعت نہیں رہی۔" (مواہب الرحمن جلد اول صفحہ 90)

دلیل نمبر 3:- ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالهدوة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريده زينة الحياة الدنيا ولا تطبع من اغفلنا قلبك عن ذكرنا واتبع هواه و كان امره فرطا" (سورۃ کافر: آیت 28)

[آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا بھیجھے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادات بخض اسکی رضا جوئی کیلئے کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی روشن کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے نہ پہنچے پائیں۔ اور آپ اس شخص کی الماعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اصحاب صفة جیسے درویشان اسلام اور اہل خرق یعنی گدڑی اور کمبل پوشوں کی مجالست، مارات اور خاطرداری کا حکم دیتے ہیں یہ درویشان اسلام صح و شام اللہ کے ذکر اور دعائیں مشغول ہیں اور ہمارے مخلص بندے ہیں اور اصحاب کاف کا نمونہ ہیں۔

★ — طبرانی شریف کی روایت ہے۔

”عن عبد الرحمن بن سهل ابن حنیف“ قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي - فخرج يلتئمهم فوجدهم قد قاتلوا الله فيهم ثائراً لواس وجاف الجلد وذوالثوب الواحد فلم يأهله جلس وقال الحمد لله الذي جعل في امتى من أمرني ان اصبر نفسى معهم“ (اندرجہ ابن جریر والبرانی وابن مردویہ کذافی الدر) [حضرت عبد الرحمن بن سل] سے روایت ہے کہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ ولت کدھ میں تھے کہ آیت ”و اصبر نفسك“ نازل ہوئی۔ حضور اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی ٹالاش میں لکھ۔ ایک جماعت کو دیکھا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خلک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں۔ جب حضور اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا تو اسکے پاس بینے گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے اسکے پاس بینے کا حکم ہے۔]

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا ”تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمارے ہی ساتھ مرتا ہے یعنی مرنے جیسے کے رفق اور ساتھی تم ہی لوگ ہو۔“ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی ”وغیرہ حضرات محلہ کرام“ کی جماعت ذکر اللہ میں مشغول تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا میں نے دیکھا کر رحمت اللہ تم لوگوں پر اتر بی ہے تو میرا بھی جی چہا کہ اُکر تمارے ساتھ شرکت کروں۔ ان ہی جیسے احکام سے صوفیہ نے استنباط کیا ہے کہ غلط قرائیں قائم کی جائیں جمل سا لکھن اسی طرح بیٹھ کر کر سکیں جس طرح اصحاب صفة کیا کرتے تھے حضرت بن عباس“ سے روایت ہے۔

"وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب الصفة فرائی فقرهم و جهدهم و طیب قلوبهم فقال ابشرؤا يا اصحاب الصفة فمن بقى من امتی علی النعمت الذي انتم علیہ راضیا بما فيه فانه من رفقائی فی الجنة" (کشف المحبوب)

[ایک مرتب رسول اکرم ﷺ اصحاب صفت پر تشریف لائے آپ نے ان کے فقر اور مشقت کو محسوس کیا تو فرمایا۔ اہل صفت خوش ہو جاؤ جو شخص میری امت میں سے تمہاری صفت پر رہنا پسند کرے گا وہ بہشت میں میرا ساتھی ہو گا]

خلقنا ہوں میں رہ کر اصحاب صفت کی طرز پر زندگی گزارنے والے "الذین يذکرون الله قياماً و قعوداً و علی جنوبهم" پر عمل پیرا ہونے والے اور "واذ کراسم رسک و تبتل اليه تبتلا" کا مصدق بنتے والے زاکرین کے لئے مبارک باد ہے۔ درحقیقت قلوب کے انتخاع کو اللہ جل جلالہ کی رحمت اور رافت کے متوجہ کرنے میں خاص دخل ہے اسی وجہ سے جماعت کی نماز مشروع ہوئی اور یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب محتاج یہک حل ایک میدان میں اللہ کی طرف متوجہ کئے جاتے ہیں اسی لئے محتاج کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسے طالبین کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی نہ کریں۔ حضرت کائد حلوی "آیت کریمہ "واسبرونفسک" کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

"علم شریعت اور شیخ طریقت پر لازم ہے کہ فقراء کی محبت اور مجالست کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے" (معارف القرآن جلد 4۔ صفحہ 412)

پس ثابت ہوا کہ خلقنا ہوں کے قیام کا مقصد اپنی احکام پر عمل پیرا ہونا ہے۔

۔ خوش مسجد و مدرس خلق ہے کہ در وے بود قلیل و قل مہر ۱

احادیث سے ولائل

ویل نمبر ۱: ایک حدیث پاک میں وارد ہے۔

"عن ابی هریرة و ابی سعید" انہما شهداء علی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم انه قال لا يقعد قوم يذکرون الله الا حفتهم الملائكة وغشیتهم الرحمة ونزلت عليهم السکينة وذکرهم الله فيمن عنده" (اخوجه احمد و مسلم و الترمذی)

[حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعیدؓ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ ہم نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ رحمت ان کو ڈھانپ لئی ہے اور سینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں (فاخر کے طور پر) فرماتے ہیں]

ولیل نمبر 2:- ایک حدیث پاک میں وارد ہے۔

"عن انس "عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال مامن قوم اجتمعوا يذکرون الله لا يریدون بذلك الا وجہه الانداهم مناد من السماء ان قوما مغفورالکم قد بدلتم سیاتکم حسنات"

(رواہ احمد والطبرانی)

[حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضاہ ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بد دی گئیں]

خلاقی ماحول میں رہنے والے لوگوں کے لئے یہ حدیث عظیم خوشخبری ہے۔

ولیل نمبر 3:- ایک حدیث پاک میں وارد ہے۔

"عن ابی الدرداء" قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليبعشن الله أقواما يوم القيمة في وجوههم النور على منابر اللولوء يغبطهم الناس ليسوا بانياء ولا شهداء فقال اعرابي حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتن ولاد شتنى يجتمعون على ذكر الله يذکرونہ" (اخوجه البرانی باشاد حسن)

[حضرت ابو درداءؓ] سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چڑوں پر نور چمکتا ہو گا۔ وہ متبویوں کے منبووں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شدائد نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہؐ؟ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو (دنیا میں) اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور خاندانوں سے آکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں ۝]

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریاؒ اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

”آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے ہر طرف سے فقرے کے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیں، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہو گی۔ کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ جب وہ ان متبویوں اور بالا خانوں پر ہوں گے۔“ (فھاٹک ڈکر صفحہ 34)

”فسوف تری اذا انکشف الغبار“


افروس تحت رجلک او حمار“

[عقریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہو گا کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر]
عقلی ولیل:— اگر دنیا میں طب جسمانی کی تعلیم نہ ہو اور نہ کوئی اس کی درسگاہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا جسمانی بیماریوں سے پر ہو جائے گی اور کوئی طبیب اور معالج نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر طب روحانی کی کوئی درسگاہ نہ ہو تو دنیا روحانی مرضیوں یعنی کفر، الحاد اور معصیت والے لوگوں سے بھر جائے گی۔ خانقاہیں ان ہی روحانی امراض کے شفاخانے ہیں۔ ان شفاغانوں سے دوائے دل ملتی ہے دل کی بیماریوں کا علاج ہی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔
 بقول شنھے۔

۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
 کہ یہی ہے امتوں کے مرض کمن کا چارہ
 رہی یہ بات کہ کوئی شخص کفر و معصیت کو بیماری ہی نہ سمجھتا ہو تو اس سے ہمارا خطاب
 نہیں۔ ایسے شخص کے لئے دفتروں کے دفتر بیکار ہیں۔

ان اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے جنوں نے آج کے ظلمت و معصیت کے دور میں بھی صحیح خانقاہی نظام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔
 ”اللهم ثبتنا علی طریقتہم و ارزقنا من برکتھم و احسننا فی زمرتھم“

[اے اللہ! ہمیں ان کے طریقہ پر ثابت قدم رکھیں۔ اور ان کی برکات سے ہمیں نوازیں۔ اور ان ہی کے ساتھ ہمارا حشر و تشر فرمائیے]



باب 8

اعقادات

اعقادات برائے مریدین

(۱) — مسئلہ: — اہل اللہ کی شان گھنٹا ان میں لقص نکالنا اور آداب نہ بجالانا حرام ہے۔

فائدہ: — جو حضرات تقویٰ و طہارت اور ذکر و عبادت کی ہا پر قرب کی منزیں طے کر کے مقبولین بارگاہ اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں وہ باضدا حضرات اولیاء اللہ یا اہل اللہ کملاتے ہیں۔ ان حضرات کو راحت پہنچانا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور ان حضرات کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے متراوف ہے۔ اہل اللہ کے آداب کی رعایت کرنا اور ان سے عقیدت و محبت سے پیش آنے کی تمنی دلیلیں دی جاتی ہیں۔

★ — مفسرین نے شعائر اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ، کلام اللہ، بیت اللہ جہاں شعائر اللہ میں شامل ہیں وہاں کاملین اولیاء اللہ بھی شعائر اللہ ہوتے ہیں بلکہ ان کاملین کے ہمراں قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہیں بھی شعائر اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اَن الصَّفَا وَالْمَرْءَةِ مِنْ شَعَّارِ اللَّهِ“ (ابترہ: آیت 157)

[جیف صحاوہ مروہ شعائر اللہ نہ سے ہیں]

حالانکہ سفا اور مروہ کی پیاریاں تو اس وقت سے موجود ہیں جب سے دنیا بی۔ مگر یہ شعائر اللہ میں تب شمار کی گئیں جب ایک نیک بندی ہاجرہ صابرہ کے قدومنمہ نہ روم ان پر لگے۔ معلوم ہوا کہ کاملین مقبولین کے جہاں قدم پڑ جائیں وہ جگہیں شعائر اللہ بن جاتی ہیں تو خود یہ

ہستیاں تو بدرجہ اولیٰ شعائر اللہ ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَمَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ (الج: آیت 32)

[اور جو شعائر اللہ کی تقویٰ کرے یہ اس کے دل کے تقویٰ کی ہا پر ہے]

اللہ اہل اللہ کی تنظیم کرنا اور آداب کی رعایت کرنا حکمِ الہی ہے

★ — حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے قربِ الہی حاصل کر لیتا ہے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ ”كُنْتَ سَمِعَهُ الذِّي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذِّي يَبْصِرُهُ وَرَجْلَهُ الذِّي يَمْشِي بِهَا“ [میں اس کے کلان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اسکے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پلتا ہے]

جن حضرات کی شان میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہوں ان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت کرنا ہے۔

★ — اہل اللہ کی شان میں نقشِ نکالنا پاپندیدہ فعل ہے اور ان کو ایذا پہنچانا قبیع عمل ہے۔ حدیث قدسی میں ہے۔

”مِنْ عَادِئِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ“

[جس نے میرے دلی سے دشمنی کی اسکے ساتھ میرا اعلان جگ ہے]

پس اولیاء اللہ کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ سے اعلان جگ کرنے کے مترادف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پگڑیاں سر سے اتر جاتی ہیں، دو پہے اچھل جاتے ہیں، انسان گھر بیٹھے بھائے ذیلیں و خوار ہو کر کسی کو منہ دکھانے کے قاتل نہیں رہتا۔ ”اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ“ وہ ملائیے خشک و ناہموار جو اہل اللہ کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں اور جنہیں بدگمانی اور بدزبانی سے فرست نہیں ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسی توحید کہ ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یا ایسا ادب کہ توحید کا دامن چھوٹ جائے، افراط و تفریط میں داخل ہے۔ مودود ہونے کے ساتھ ساتھ مودوب ہونا ہی مکمل کی دلیل ہے۔

(2) — مسئلہ: اہل اللہ کی شان حد سے بڑھانا بھی گناہ ہے۔

فائدہ: بعض لوگ مشائخ کے ادب و احترام میں اتنا غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو عظیمی سمجھدے کرتے ہیں یہ عمل حرام ہے اور شرک میں داخل ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے غلبہ محبت میں اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بینا بیالا تھا جس کی قبادت و شاعت پر قرآن پاک میں جام جما مر لکائی گئی ہے۔ بعض لوگ اپنے پیر کو چھوٹا سا خدا بنا لیتے ہیں اور اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے فرمایا۔

”بِاَغْلَامِ اُنِيْ اَعْلَمُكَ كَلْمَاتٍ۔ اَحْفَظُ اللَّهَ
يَحْفَظُكَ۔ اَحْفَظُ اللَّهَ تَجْدِهِ تَجَاهِكَ اِذَا سُئِلْتَ
فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ اِنَّ الْاَمَةَ
لَوْ اجْتَمَعْتَ عَلَى اِنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ
الْاَبْشَرَى قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَانْ اجْتَمَعُوا عَلَى اِنْ
يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ الْاَبْشَرَى قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ
عَلَيْكَ رَفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحْفُ“

[اے لڑکے! میں تمیں چند کلمات سخانتا ہوں۔ حق تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، حق تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ ہر دن میں دھیان رکھو پھر ہر وقت حق تعالیٰ کو ساخت پاہے گے، جب کوئی شہادگار تو اللہ سے ناگو، جب امداد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے، اور جان تو۔ اگر ساری حقوق تمیں نفع پہنچانے کے لئے جمع ہو جائے تو وہ صرف اسی نفع کا پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہے اور اگر وہ تمہارے نقصان پر مجتمع ہو جائیں تو تمیں تو تمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس قدر جتنا تمہارے لئے لکھا گیا ہے قلم لکھ کر خیک ہو پہنچا اور دفتر سیست دیئے گئے]

اہل اللہ کی شان حد سے بڑھانے سے متعلق ایک مثال سے وضاحت کرنا مناسب ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ اب وہ بیوی جس قدر والد صاحب کی خدمت کرے گی خاوند خوش ہو گا۔ لیکن بیوی خدمت کرتے کرتے اس سے وہی معاملہ کرنے لگے جو بیوی خاوند سے کرتی ہے تو یہ بات خاوند کو کبھی

گوارانہ ہوگی۔ خاوند یوی کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ادب کرنے کا حکم دیا مگر اسکی حدود و قیود ہیں۔ اگر ایک آدمی ان اولیاء کی شان حد سے بڑھائے گا تو سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔

(3) مسئلہ: وہ طریقت جسے شریعت روکرے، زندقا اور الحاد ہے۔

فائدہ: شریعت اور طریقت کو جدا جدا سمجھنا جائز نہیں۔ درحقیقت طریقت شریعت کی لوئڈی ہے۔ بعض جالل پیر اپنے برے اعمال پر پرده ڈالنے کے لئے شریعت اور طریقت کو جدا جدا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں اپنے متعلقین کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ”تمذیق پیش ویلے ساڑی ہرویلے“

[تماری بائیخ وقت نماز ہے ہماری ہروقت نماز ہے]

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کہا گیا کہ بعض جالل صوفیوں کی جماعت کرتی ہے۔

”**نَحْنُ وَصَلَنَا فِلَاحًا حَاجَةً لِنَا إلَى الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ**“

[هم تو وصل ہو گئے اب ہمیں روزہ نماز کی حاجت نہیں]

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا:

”**صَدِقَوْافِي الْوَصْوَلِ وَلَكِنَ الْى سَفَرِ**“

[ع کہتے ہیں وصل ہو گئے مگر جنم میں]

(4) مسئلہ: اولیاء اللہ کو بعض باقی خلاف عادات کشف اور الہام سے معلوم ہو جاتی ہیں۔

فائدہ: اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ”وَعِنْهُ مِفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا أَلاَهُو“ (الانعام: آیت 59)

[اور اس کے پاس غیب کی سنجیاں ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا]

البیتہ ”انباء الغیب“ [غیب کی خبر] اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے اپنے انبیاء اور اولیاء کو معلوم کرداریتے ہیں یہ سمجھنا کہ پیر کو ہروقت ہربات کا پتہ ہوتا ہے صریح گمراہی ہے۔ آج جمالت کی انتباہ ہو چکی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر خانے کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔

حالانکہ جن حضرات کو کشف القلوب نصیب ہوتا ہے انہیں بھی ہر وقت ہربات نہیں کھلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پر دے ہماریتا ہے۔ مزید برآل ضروری نہیں کہ کشف یہی شے صحیح ہوں ان میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ناؤ توی ”ایک مرتبہ اپنے خارم لے ہمراہ کسی جا رہے تھے کہ اس نے سوال پوچھا ”حضرت کشف انبیاء کو بھی ہوتا ہے مگر بالکل ٹھیک، کشف اولیاء کو بھی ہوتا ہے کبھی ٹھیک کبھی غلط۔ ایسا کیوں ہے؟“ حضرت ”جس طرف چل رہے تھے اسی طرف سامنے ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کھنے لگے کہ وہ مکان ہم سے کتنے قدم کے فاصلے پر ہو گا؟“ اس نے کہا پندرہ قدم۔ جب چلے تو فاصلہ کم و بیش تکلا۔ قریب پہنچ کر حضرت نے ”پوچھا اب کتنا فاصلہ ہو گا؟“ اس نے کہا حضرت ”اب تو صرف چار قدم فاصلہ ہے جواب بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت ”نے فرمایا ”یہی فرق ہے کہ انبیاء علیمِ السلام کو بھی ایک چیز دکھائی جاتی ہے مگر قریب سے۔ اولیاء کو چیز دکھائی جاتی ہے گردور سے۔ اس لئے انبیاء کے کشف یقینی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جبکہ اولیاء کے کشف غنی ہوتے ہیں کبھی ٹھیک کبھی غلط۔“

(5) — مسئلہ : — غیر اللہ کی عبادت حرام ہے اُن سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔

فائدہ : — غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ“ (سورہ محمد ﷺ: آیت 19)

[جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سامنے اللہ کے]

الله تعالیٰ کی ذات و مفاتیح میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے فرمایا گیا ”اَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ“ (النساء: آیت 48)

[اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا اسکے علاوہ جو ہاہے گا معاف کر دے گا]

حضرت حسن بصری ”فریما کرتے تھے کہ ہم نے توحید ایک دھوپن سے سمجھی۔ کسی نے پوچھا ”حضرت! وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک دن میں چھت پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا کہ ہمسائے میں رہنے والے دھوپی اور دھوپن میں بحث ہو رہی تھی۔ دھوپی دوسرا شلوٹی کرنا چاہتا تھا جس کے جواب میں

دھو بن کہہ رہی تھی "میں نے تمہاری خاطر اس گھر میں تنگی برداشت کی، سختی برداشت کی، کھانے کو ملا تو کھالیا ورنہ صبر کیا۔ ہر تکلیف میں نے برداشت کر لی اور تمہاری خاطر میں اس سے بھی زیادہ تکالیف برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر میری محبت میں کسی اور کو شریک کرو گے تو یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی" حضرت حسن بصری فرمائے گے جب میں نے قرآن میں نظر ڈالی تو یہ آیت سامنے آئی "ان الله لا يغفران يشرك به"

ایک بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے توحید ایک عورت سے سیکھی کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا "ایک مرتبہ ایک عورت مسئلہ دریافت کرنے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے لکھ کر دیں کہ میرا خاوند دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جب شریعت نے ایک سے زیادہ کی گنجائش رکھی ہے تو میں کیسے لکھ کر دے سکتا ہوں۔ وہ بڑی دیر اصرار کرتی رہی میں انکار کرتا رہا۔ بالآخر اس نے مٹھنڈی سانس لی اور کہا "حضرت! شریعت کا حکم مانع ہے۔ ورنہ میں اگر اپنا چھوڑو آپ کے سامنے کھولتی اور آپ میرے حسن و جہال کو دیکھتے تو لکھنے پر مجبور ہو جاتے کہ جس شخص کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اسے دوسری بیوی کرنے کی اجازت نہیں۔" یہ کہ کروہ عورت تو چلی گئی لیکن مجھے توحید سکھا گئی۔ میں حیران ہوا کہ اگر ایک عورت کو اپنے عارضی حسن پر اتنا تاز ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ جو مالک الملک اور حکم الحاکمین ہیں وہ کیسے پسند کریں گے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔

غیر سے مدد مانگنا جائز نہیں اسی لئے دن میں کئی مرتبہ "ایسا کث نعبدو ایسا کث نستعین" [تمہی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تمہی ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں] کا قرار لیا گیا۔ "الیس اللہ بکاف عبده" (سورۃ الزمر: آیت 36) [کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں] ایمان والوں کو چاہئے کہ ڈنکے کی چوٹ کما کریں۔

"حسينا اللہ ونعم الوکيل نعم المولی ونعم النصیر"

[اللہ ہمیں کافی ہے اور کتنا بہترن کار ساز ہے کتنا اچھا مولیٰ اور کتنا اچھا مددگار ہے]

(6) — مسئلہ: — قبور کو سجدہ کرنا، ما تھا بیکنا یا قبور کا طواف کرنا شرک ہے۔

فائدہ: — اللہ تعالیٰ نے چندوں، پرندوں، درندوں وغیرہ جانوروں کی ساخت ایسی بیانی ہے کہ انہیں غذا کھانے کے لئے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اس کے بر عکس اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی ساخت ایسی بیانی ہے کہ غذا خود خود اس کے ہاتھوں کے ذریعے منہ تک پہنچتی ہے اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اسلئے کیا کہ جو پیشانی میرے سامنے جھکنے کے لئے بیانی گئی وہ غیر کے سامنے نہ جھکے۔ اس نے غیر اللہ کو تنفسی سجدہ کرنا شریعت محمدیہ میں منع کیا گیا۔ قبور کو سجدہ کرنا، ما تھا بیکنا بھی اسی لئے منع ہے۔ بعض لوگ مزاروں کی جالیوں کو چوتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب "ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد حجر اسود! کو چونے لگے تو فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے میں تجھے اس نے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو اصطلاح بیان کیا۔

ترے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسے حجر اسود پر
و گرنہ کام کیا تھا ہم مسلمانوں کو پتھر سے

(7) — مسئلہ: — بزرگوں کے واسطے سے دعا مانگنا جائز ہے۔

فائدہ: — دعا ان الفاظ سے مانگنی چاہئے۔ مثلاً الٰہی! خواجہ غلام جیب "کے طفیل میری لالاں حاجت پوری فرم۔ یوں بھی دعا کی جاسکتی ہے الٰہی! حضرت خواجہ غلام جیب "آپ کے مقبول بندے ہیں مجھے ان سے محبت ہے اس محبت کے صدقے میری لالاں حاجت پوری فرم۔ تو سل جائز ہے تعبد جائز نہیں۔ عموم الناس کا یہ حال ہے کہ شرک کو بھی تو سل سمجھتے ہیں جبکہ علمائے خذک کا یہ حال کہ تو سل کو بھی شرک سمجھتے ہیں حقیقت تو اہل اللہ کی محبت میں بینہ کریں مجھے آتی ہے۔

(8) — مسئلہ: — زندہ یا فوت شدہ اولیاء سے دعا (مراد) مانگنا جائز نہیں۔

فائدہ: — مرادیں فقط اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہئیں۔ بعض لوگ مزاروں پر جا کر بیٹھے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں "سماڑی تھا اے اگے تھا ای رب اگے" [ہماری تمارے سامنے اور تماری اللہ کے سامنے] بعض جملاء نے تو گھروں میں اپنے پیر کی تصوری لگائی ہوتی ہے اور منع سوریے اٹھ کر

اسکے سامنے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”بیانی تہذیب ای د تاکھاندے آں“ [هم آپ ہی کاردا کمار ہے ہیں] ایسے جملاء کے متعلق فرمایا گیا۔ وادا خاطبہم الجاھلون قالوا سلاما (الفرقان: آیت 63)

[اور جب ان سے جال خاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام سلام]

(9) — مسئلہ:— ولی خواہ کتنا ہی بڑھ جائے کسی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔

فائدہ:— ولایت کبی چیز ہے یعنی ریاست سے حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ نبوت وہی اور عطا لی چیز ہے۔ محبوب کی عطا اپنی کملائی سے افضل ہوتی ہے پس نبوت افضل ہے ولایت سے چاہے اس نبی کی اپنی ولایت ہی کیوں نہ ہو۔

(10) — مسئلہ:— کوئی ولی شرع کے کاموں سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ سوائے مہذوب کے کر اس سے عقل لے لی جاتی ہے۔

فائدہ:— ولایت کی منزلوں میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں آتا کہ انسان یقینی ہوش و حواس شرع شریف کے حکموں سے مستثنی قرار دیا جائے۔ خود نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ”واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین“ (المجزہ آیت 99) [آپ رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ موت آجائے] آج تو ایسا وقت ہے کہ آدھانگا آدھادلی پورا نگاہ پورا ولی کہلاتا ہے۔ بعض جال بیر تو اپنے مریدوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ہم بے عمل ہی سی گرفقیامت کے دن تمہیں بخشوائیں گے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ پیشاب اگرچہ نپاک ہوتا ہے گرل آٹ کو بخارنا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب خود ہی بد عملی کی وجہ سے زنجیروں میں باندھ کر پیش کئے جائیں گے تو اوروں کو کیا بخشوائیں کے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ”جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے کہ ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ آواز آئی کہ ہم تمہاری عبادت سے خوش ہیں، ہم نے تمہارے انگلے چھپلے کناؤن کو معاف کر دیا، اب تم عمل کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی“ کے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ حکم ابو بکرؓ و عمرؓ جیسے حضرات کے لئے نہ اتراء میرے لئے کیسے ہو سکتا ہے۔ ہونہ ہو یہ شیطان ہے چنانچہ آپ نے پڑھا ”لا حوال ولا قوۃ الا بالله“ یہ

سنتے ہی شیطان بھاگا مگر جاتے جاتے دوسراوار کر گیا۔ کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی! میں نے اس فریب سے کئی لوگوں کو بکایا مگر تو اپنے علم کی وجہ سے فتح گیا۔ حضرت نے فوراً "لا حول ولا قوة الا بالله" پڑھا اور کما مردود! میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوں۔ جب اتنے بڑے کامل شیخ بھی شیطان کے وارثے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو پھر کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے شریعت کی پابندی اٹھالی گئی۔ رہی بات مجدوب کی تواہ مشل دیوانہ کے ہے اس سے تو قلم اٹھالی جاتی ہے گر عام لوگوں کو شریعت منع کرتی ہے کہ دیوانوں اور مجدوبوں کی اتباع نہ کریں۔ لذماً مجدوبوں کے پیچھے لگنے والے حضرات کو سوچنا چاہئے کہ دنیا داری میں کسی پاگل کے پیچھے لگ کر منزل پر نہیں بہنچ سکتے تو پھر آخرت والے راستے پر مجدوب کے پیچھے لگ کر منزل پر کیسے پہنچیں گے۔

﴿ ایں خیال است و محال است و جنون ﴾

(11) — مسئلہ:- انبیاء گناہوں سے محروم ہوتے ہیں اولیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔

(12) — مسئلہ:- صحابہ کرام امت کے تمام اولیاء سے افضل ہیں۔

فائدہ:- یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی حقی ہوئی جماعت تھی جن کے بارے میں فرمایا گیا۔ "والزمهم کلمة التقوی و كانوا احق ببهاؤ اهلها" (التح: آیت 26) [اور ان کو مضبوط کیا تقوی کی بات پر اور وہ اسی کے سختی اور اسی کے الٰ تھے] اسی جماعت کے متعلق فرمایا گیا "رضی الله عنهم ورضوا عنہ" (الینہ: آیت 8) [اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے]

★ — اسی جماعت کی نشانیں تورات اور انجیل میں تھیں۔ "ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل" (التح: آیت 29) [ان کی نشانیں تورات میں اور انجیل میں]

★ — اسی جماعت کو یہ شرف نصیب تھا کہ جب نبی اکرم ﷺ نماز میں "سمع الله لمن حمده" کہتے تھے۔ تو وہ اس کے جواب میں "ربنا لك الحمد" کہا کرتے تھے۔

★ — اسی جماعت کے متعلق جب کفار نے "سفهاء" کاظم استعمال کیا "قالووا انؤ من

کما آمن السفهاء۔ [کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ یوقوف ایمان لائے] تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اَلَا اَنْهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ" [جان لو کی خود بے وقوف ہیں] ★ — اسی جماعت کی تعریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ "رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا" (الازداب: آیت 23) [وہ بدرے جنوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ کر دکھلایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآنی دینے کے لئے محض ہیں اور وہ ذرہ برا بر نہیں بدلے]

★ — اسی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ "الصحابۃ کلہم عدول" [صحابہ کے سب عدل والے ہیں]

★ — اسی جماعت کے افراد کو خوشخبری ملی کہ "اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اهتدیتم" [میرے صحابہ ستاروں کی ماہندرہ ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدار کو گے ہدایت پاؤ گے]

(13) — مسئلہ: — مشاہرات صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رہے کہ ہر دو فرقہ حق پر تھے ان کی خطوار اصل خطائے اجتماعی تھی۔

فائدہ: — مشاہرات صحابہ کے بارے میں حضرت امام شافعی سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ نہیں ہونے دیا تو ہم اپنی زبانوں کو اس معاملے میں کیوں آلودہ کریں۔

بقول جناب عبداللہ بن محبص صاحب دامت برکاتہم :

صحابہ وہیں باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں

ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں

★ — نبی علیہ السلام کا فرمان ہر وقت پیش نظر ہنا چاہئے۔

"اللہ اللہ فی اصحابی لا تخدوہم من بعدی غرضا فمن احبهم

لیحیی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم"

[میرے صحابہ کے بارہ میں خدا سے ڈرے۔ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا۔ جوان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا۔ اور جوان سے بعض رکے گا وہ مجھ سے بعض رکے گا]

(14) — مسئلہ: — بعض صوفیاء کا مقولہ ہے کہ پیر کا باطن ہر جگہ ہوتا ہے۔

فائدہ: — اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جہل کیسی بھی ہو پیر کی توجہات وہاں بھی اسے پہنچتی ہیں۔

(15) — مسئلہ: — کسی ولی کی کرامات اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہیں۔

فائدة: — کرامت کرتے ہیں خلاف عادت بات پیش آنے کو اور اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔

1) — بعض اوقات کالمین سے کرامات کا صدور ہوتا ہے تاکہ عوام الناس میں ان کی قبولیت زیادہ ہو۔

2) — بعض اوقات ولی سے کرامات کا صدور کسی کو تابعی کی ہاتا پر ہوتا ہے تاکہ سرزنش ہو۔ جو اولیاء چھپے ہوتے ہیں وہ کرامات کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عوام الناس اپنے عیوب کو چھپاتے ہیں۔

3) — بعض اوقات کرامات ناقصین سے بھی ظاہر ہوتی ہیں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔
ہر ولی کو قرب الہی کے مدارج طے کرنے کے لئے چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہر قدم کو سیر کرتے ہیں۔

★ — پہلا قدم: — سیرالی اللہ یا عروج بھی کہلاتا ہے۔ اس مقام میں ولی عالم خلق یا عالم اسباب سے عالم امرکی طرف جاتا ہے۔

★ — دوسرا قدم: — سیرنی اللہ یا فنا بھی کہلاتا ہے۔ اس مقام میں ولی کو ذات باری تعالیٰ اور اسکی صفات میں سیر نصیب ہوتی ہے۔

★ — تیسرا قدم: — سیر من اللہ یا نزول بھی کہلاتا ہے۔ اس مقام میں سالک عالم امر سے عالم اسباب کی طرف واپس ہوتا ہے۔

★ — چوتھا قدم: — سیر فی الاشیاء یا بقاء کہلاتا ہے۔ اس میں سالک کے قرب کی تخلیل ہوتی ہے۔ وہ عالم اسباب میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن اللہ کے

ساتھ ہوتا ہے۔

ایک بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جس سالک کا عروج جتنا کامل ہو گا اس کا نزول بھی اتنا ہی کامل ہو گا اور جب نزول کامل ہو گا تو ظاہری زندگی اسباب کے ماتحت ہو گی حتیٰ کہ ظاہری نظر سے عام آدی اور اس دلیل میں فرق کرنا مشکل ہو گا اس لئے کالمین حضرات عام لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں مگر لوگ انہیں پہچانتی نہیں سکتے۔ انبیاء علیم السلام کا نزول چونکہ کامل ترین ہوتا ہے اسی لئے ان کی ظاہری زندگی بالکل عام سی نظر آتی ہے۔ لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں۔

”مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق“ (الفرقان: آیت 7)

[یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں]

سید الانبیاءؐ کی ظاہری زندگی اتنی سادہ تھی کہ بعض اوقات لوگوں کیلئے پہچانا مشکل ہوتا تھا بلکہ کفار تو یہاں تک کہتے تھے اہذا الذی بعث اللہ رسولا۔ (الفرقان: آیت 16)

[کیا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول ہما کر سمجھا ہے]

بہترت کے وقت مدینہ طیبہ کے لوگ بھی نبی علیہ السلام کو نہ پہچان سکے اور سیدنا صدیق اکبرؓ سے مصافی کرنے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا تو نبی علیہ السلام صحابہ کرامؓ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ پہچان نہ سکا حتیٰ کہ پوچھتا ہوا کہ تم میں سے اللہ کا نبیؐ کون ہے۔ کالمین چونکہ ظاہری طور پر اسباب میں زندگی گزارتے ہیں لہذا ”انا عندظن عبدی بی“ [میں بدنے کے ساتھ وہ محالہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ ملن رکتا ہے] کے اصول کے تحت ان کے ساتھ اسباب کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ پس ان سے کرمات کم صادر ہوتی ہیں۔ صحابہ کرامؓ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت تھی مگر چونکہ سب کا عروج بھی کامل تھا۔ نزول بھی کامل تھا۔ لہذا ان سے کرمات اتنی کم صادر ہوتی ہیں کہ اولیاء امت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ ان کے نقص کی دلیل نہیں بلکہ کمل کی دلیل ہے۔

دوسری یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جس سالک کا عروج جتنا ماقص ہو گا اس کا نزول بھی اتنا ماقص ہو گا۔ جب نزول ماقص ہو گا تو کمی مرتبہ عالم اسباب سے اپر ہی معاملہ انکا

رہے گا۔ جب سالک عالم امر میں ہو گا تو اس کی نظر مافق الاسباب یعنی اسباب سے اوپر ہی رہے گی۔ چنانچہ ”انا عنده طن عبدی بی“ [میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں] کے اصول کے تحت اس سے ایسے کام سرزد ہوں گے۔ جو اسباب کے خلاف ہوں انہیں کرامات کہتے ہیں یہ نفس کی دلیل ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے۔

مثال نمبر ۱:- حضرت حسن بصری ”امت کے کامل اولیاء میں سے ہیں علم ظاہری و علم باطنی کے مالی اور اپنے ہم عصروں سے بازی لے جانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں سیدنا علیؑ سے خلافت نصیب ہوئی اخبارہ بدروی صحابہؓ کی محبت نصیب ہوئی۔ ان کا عروج کامل تhausen نہ بھی کامل تhausen اداں کی ظاہری زندگی اسباب کے تحت تھی۔

★ — حضرت جبیب عجمی ”حضرت حسن بصری“ کے مرید ہیں ظاہری علم نہ تھا اور عروج و نزول بھی کامل نہ تھا۔ ان دونوں حضرات کے واقعات غور طلب ہیں۔

★ — ایک مرتبہ حضرت حسن بصری ”کو پولیس ٹلاش کر رہی تھی تاکہ انہیں سرکاری عدہ پیش کیا جاسکے جسے وہ قبول نہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری ”بھاگتے بھاگتے جبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مجرے میں آ کر جھپٹ گئے اور کہا کہ جبیب! کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ اتنے میں پولیس والے آگئے انہوں نے جبیب عجمی“ سے پوچھا کہ حسن بصری ”کو دیکھا ہے؟ فرمایا، ہاں اس مجرے میں چھپے ہوئے ہیں ان کی باتیں حضرت حسن بصری ”ن رہے تھے ان کے تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ پولیس والے مجرے میں داخل ہوئے مگر حسن بصری ”کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے او جھل کر دیا۔ جب اوہرا درد کیکہ کر پولیس والے چلے گئے تو حضرت حسن بصری ”باہر نکلے اور فرمایا جبیب عجمی! پولیس والوں کو کیوں بتا دیا تھا کہ میں اندر ہوں۔ عرض کیا حضرت! وہ آپ کو کونسا دلکھ سکے۔ اب ظاہر میں جبیب عجمی“ کا مرتبہ بلند نظر آتا ہے درحقیقت حسن بصری ”کی سوچ ماتحت الاسباب تھی اور جبیب عجمی“ کی سوچ مافق الاسباب تھی۔

★ — ایک مرتبہ حضرت حسن بصری ”گلی میں جا رہے تھے۔ ایک بگہ جبیب عجمی“ کی پوتیں

(جیکٹ) پڑی ہوتی دیکھی۔ حیران ہوئے کہ حبیب عجمی ”پوتین بیہاں چھوڑ کر کمال چلے گے۔ چنانچہ انتظار میں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد حبیب عجمی ”اپس آگئے حسن بصری“ نے پوچھا جبیب عجمی؟ یہ پوتین کس کے حوالے کر گئے تھے۔ عرض کیا، حضرت! اس کے حوالے کر گیا تھا جس نے آپ کو بیہاں حفاظت پر کھدا کئے رکھا۔ اس واقعہ سے بھی ثابت ہوا کہ حبیب عجمی“ کی سوچ مافوق الاسباب تھی جبکہ حضرت حسن بصری“ کی سوچ ماتحت الاسباب تھی۔

★ — ایک مرتبہ حبیب عجمی“ دریا سے پار جانا ہاہتے تھے جب کنارے پر پہنچ تو دیکھا کہ حسن بصری“ بیٹھے ہیں پوچھا حضرت! کیسے بیٹھے ہیں؟ فرمایا، کششی کے انتظار میں ہوں وہ آئے گی تو دریا پار کروں گا۔ دونوں حضرات باش کرنے لگے کافی دیر باش کرنے کے بعد حضرت حبیب عجمی“ عرض کرنے لگے اچھا حضرت! اجازت دیں میں جاتا ہوں۔ یہ کما اور پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے جب کہ حضرت حسن بصری“ انتظار میں بیٹھے رہے کششی آئے پر دریا پار کیا۔

اب تینوں واقعات سے ظاہراً یوں نظر آتا ہے کہ حبیب عجمی“ بلند مرتبہ کامل بزرگ تھے جبکہ حقیقت اس کے بر عکس تھی حسن بصری“ بیرون تھے حبیب عجمی“ مرید تھے۔ حسن بصری“ کامل تھے حبیب عجمی“ ناقص تھے۔ حسن بصری“ کی زندگی ماتحت الاسباب تھی حبیب عجمی“ کی زندگی مافوق الاسباب تھی۔ حسن بصری“ کی زندگی کو نبی اکرم ﷺ کی زندگی سے زیادہ قرب اور مشابہت نصیب تھی جبکہ حبیب عجمی“ کی زندگی کو کمال مشابہت نصیب نہ تھی۔ پس ثابت ہوا کہ خلاف عادت واقعات (کرامات) کا صادر ہونا کمال کی دلیل نہیں ہوتی۔

مثال نمبر 2: — ایک بزرگ کا بینافوت ہوا۔ انہیں پرواہی نہ ہوئی۔ کہنے لگے ”جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔“ دوسری طرف نبی علیہ السلام کے بیٹے فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرار ہے ہیں۔ ”القلب يحزن والعين تدمع وانا بفارقك يا ابراهيم لمحزونون“ [مل غمکن ہے، آنکھ رو رہی ہے اور اے ابراہیم! تم بے فراق میں ہم بست غمکن ہیں] سید الانبیاءؐ کی ظاہری زندگی چونکہ ماتحت الاسباب تھی لہذا آپ گریہ فرار ہے تھے۔ جبکہ اس ولی کا معاملہ ابھی راہ کے راہی والا تعالیٰ لہذا ان پر بیٹھے کی جدائی کا صدمہ نہ تھا۔

مثال نمبر 3:- اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ ”وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى دِرَارِ السَّلَامِ“
(یونس: آیت 45)

[اللہ تعالیٰ حسین سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے]

فرمانِ الہی کی بنا پر نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں اور جنم سے پناہ مانگا کریں۔ ”اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَسْأَلُكَ مِنَ النَّارِ“ [۱] اے اللہ! ہم آپ سے جنت چاہتے ہیں جنم سے پناہ مانگتے ہیں [۲]

فرمانِ الہی اور فرمانِ نبوی تو یہ ہے جبکہ رابعہ بصریہ ”ایک ہاتھ میں آگ لیکر اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیکر نکلیں کہ میں جنت کو جلتی ہوں، جنم کو بجھاتی ہوں تاکہ لوگ خالص اللہ کے لئے عبادت کریں تاکہ انہیں جنت کی طمع اور جنم کا خوف نہ ہو۔ ایک طرف فرمانِ نبوی ہے دوسری طرف رابعہ بصریہ ”کا عمل۔ اسی لئے حضرت محمد الف ثانی“ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں۔ کہ رابعہ ”کا نزول پورا نہ ہوا تھا لہذا سوچ مافق الاسباب تھی۔ رابعہ“ بچاری اگر راز سے واقف ہوتی تو ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے میں آگ لیکر نہ نکلی۔

ان تین مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض اولیاءِ جن کا نزول کامل نہیں ہوتا ان سے خلاف عادت و اقعادات بکثرت ظاہر ہوتے ہیں۔ اس پوری تفصیل کا نتیجہ یہ لکھا کہ کراماتِ کبھی تو کاملیں کو عوامِ الناس میں قبولیت دینے کے لئے ظاہر کی جاتی ہیں، کبھی حقوقیت اور سزا کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ناقص نزول والوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ چونکہ فرق کرنا مشکل ہے اس لئے اصول یہ بتایا گیا کہ کسی دلی کی کرامات اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہیں۔

(16) — مسئلہ: — استقامت کرامت پر فائق ہے۔

فائدہ: — ہر حال میں ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنا، استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے ایک شخص حضرت جینید بنداری ”کی خدمت میں کئی سال رہا۔ ایک دن عرض کرنے لگا کہ حضرت! اجازت دیں تو میں کسی اور شخص کی خدمت میں جا کر رہوں،“ فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں تو کئی سال آپ کی خدمت میں رہا گریمیں نے ایک بھی کرامت نہ

دیکھی۔ حضرت نے فرمایا یہ تاذکہ اتنے سالوں میں ایک عمل بھی سنت کے خلاف دیکھا ہے۔ اس نے کہا ”میں“ فرمایا کہ اس سے بڑی اور کرامت کوئی ہو سکتی ہے۔

حضرت پاپنیز بسطائی ”کو ایک بار کرامت بزرگ کا پتہ چلا۔ آپ ملنے کے لئے تشریف لے گئے ابھی دور ہی تھے کہ دیکھا اس بزرگ کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ حضرت پاپنیز بسطائی ”ای وقت بغیر سلام کئے واپس تشریف لائے اور کماکہ جو شخص ایک سنت کی پابندی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا بڑا ولی کیسے بن سکتا ہے چنانچہ ولی کی پہچان یہی ہے کہ ہر حل میں اس کا ہر کام شریعت و سنت کے مطابق ہو۔

(17) — مسئلہ: اولیاء اللہ کی قبور کو عام دستور سے اوپنجا بناانا اور ان پر چھٹت ڈالنا منع ہے۔

فائدہ: صحیح حدیث کے مطابق بناء علی القبور جائز نہیں، لہذا قبر پر چھٹت ڈالنا اور عام دستور سے اوپنجا بناانا منع کیا گیا ہے۔

(18) — مسئلہ: بعض اولیاء سے مرنے کے بعد بھی تصرفات و خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔

فائدہ: اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا نیق منقطع نہیں ہو تا بلکہ روحلانی سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بعض کاملین سے وفات کے بعد تصرفات و خوارق کا ظاہر ہو جانا بعید نہیں ہے۔

(19) — مسئلہ: اگر خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور کسی خلاف شرع کام کے بارے میں ان کی مرضی معلوم ہوئی تو اس خواب کا اعتبار نہیں۔

فائدہ: نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی ”فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تاہم شیطان وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس صورت میں آپ مسند میں آرام فرمائیں۔ ممکن ہے شیطان خواب میں صورت تو کوئی اور دکھانے گردیں میں القاء کرے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں تو کون تصدیق کرے گا کہ واقعی اسی صورت مبارکہ کی زیارت ہوئی یا کسی غیر صورت کی۔ لہذا ہمارے لئے حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار شریعت و سنت ہے۔ اگر خواب میں کوئی ولی اللہ نظر آئے اور خلاف شریعت کام کا حکم دے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ بعض لوگ

خواب میں اپنے آباؤ اجداد میں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور ان سے خلاف شرع کوئی بات کا حکم پاتے ہیں تو خلاف شرع کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ "استغفروالله" یہ سراسر جہالت ہے کہ دین متنیں کو خوابوں سے بھی کم اہمیت دی جائے۔

(20) — مسئلہ: — جن انفل کا ظاہری قوتوں سے کرنا منع ہے ان کا باطنی قوتوں سے کرنا بھی منع ہے۔

فائدہ: — جس کام کو شریعت میں کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کا ظاہری یا باطنی قوتوں سے کرنا منوع ہے مثلاً ایک آدمی کسی پر اپنی باطنی توجہ ڈال کر اسے اپنا تابع بنالے اور پھر اس سے خلاف شرع کام کروائے تو یہ منوع ہے یا کسی سے دعمنی ہو اور اس پر باطنی تصرف کر کے اسے پاگل بنادے تو یہ منع ہے۔

(21) — مسئلہ: — ولی سے اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو جانا، اس کی ولایت اور کرامت میں نقص نہیں ڈالتا بشرطیکہ اصرار نہ ہو۔

فائدہ: — اتفاقاً کوئی غلطی ہو جانا بشدت کا تقاضا ہے۔ تاہم کالمین ایسی غلطیوں پر اتنی سچی توبہ کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو نیکیوں پر وہ اجر نہیں ملتا جو انہیں اس توبہ پر ملتا ہے۔ اللہ سے غلطی ہو جانا ممکن ہے مگر غلطی پر اصرار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ فاسقوں کی نشانی ہے۔

(22) — مسئلہ: — ولی کا بے عمل بیٹا پیر نہیں بن سکتا۔

فائدہ: — جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ڈاکٹری کا علم نہ پڑھے۔ اسی طرح ولی کا بیٹا ولی نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ وہ تقویٰ و طمارت کی زندگی گزار کر ولایت کے مقابلات نہ حاصل کرے۔ جملاء میں ولایت کا مدار کلاہ اور شجرہ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ بے عمل فاسق و فاجر لوگ اپنے باپ داوا کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کے رو جانی پیشوائے پھر تے ہیں حالانکہ وہ تو روحانیت کی "ر" سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور یہ لوگ "فخلف من بعدهم خلف اضعاع والصلوة واتبعوا الشهوات" (مریم: آیت 59) [پر ان کے بعد (یعنی) ایسے خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برپا کیا اور (نفسانی ناجائز) خواہشات کی پیروی کی] کا مصداق ہوتے ہیں۔ ان کا کام تو سالانہ عرس پر چراغان کروانا یا میلہ ٹھیلہ لگا کر تبرک تقسیم کرنا

ہوتا ہے۔ نہ خود شریعت پر چلتے ہیں نہ دوسروں کو کہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ سراسر گمراہی ہے۔ بقول شمسی


میراث میں آئی ہے اپنی مند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے لشیں

(23) — مسئلہ: طریقت میں کوئی نئی بات (بدعت) کا پیدا کرنا دین کی بدعت سے کم نہیں۔

فائدہ: طریقت کی بدعت شریعت کی مانند ہے اس بات کو دل میں بخالیا جائے تو جلال پیروں کی بدعات سے پچھا آسان ہو جائے گا۔

(24) — مسئلہ: مقریبین کو عبادت کا ثواب ابرار سے زیادہ ملتا ہے۔

فائدہ: حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میرے صحابہؓ میں سے کوئی ایک مدحوالله کے راستے میں صدقہ کر دے تو اسے اتنا اجر ملے گا کہ بعد میں آئیوالے اگر احمد پھاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ اجر نہ پاسکیں۔ ولی قرب کی جتنی منزلیں ملے کرتا چلا جائے گا اسکو عبادت کا ثواب زیادہ ملیگا۔ اسی لئے کہا گیا۔ ”حسنات الابرار سیئات المقربین“ [ابرار کی تکمیل] مقریبین کے توکناہ ہوتے ہیں]



باب 9

اسپاک تصوف

شریعت محمدیہ کا حسن و جمال:

سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ملک نواب و دنیا کے آخری نبی، امت محمدیہ دنیا کی آخری امت اور دین اسلام دنیا کا آخری دین ہے۔ شریعت محمدیہ علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام کے احکام چونکہ قیامت تک کے لئے اتارے گئے لہذا بعض احکام شرعیہ کی اہمیت تو واضح کر دی گئی مگر ان کے ذرائع کو متین نہیں کیا گیا۔ ذرائع و سائل کے تعین نہ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ دین اسلام قیامت تک کے لئے قابل عمل رہے۔ وگرنہ بدلتے حالات کے بدلتے تقاضوں میں ایک جلد دین نظر آتا اور عیسائیت کی مانند ناقابل عمل قرار دے کر مسجد اور مصلی تک محدود کر دیا جاتا۔ مقاصد کو متین کرنا اور وسائل کو حالات کے مطابق اپنانے کی گنجائش دینا شریعت محمدیہ کے حسن و جمال کی دلیل ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال نمبر 1: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

واعدو اللهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به
عدوا الله وعدوكم (الافق آیت نمبر 60)

[اور پیار کرو ان کی برائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر]

اس آیت کریمہ میں حسب استطاعت قوت جمع کرنے کا حکم دیا گیا اور گھوڑے پالنے کی مثل دے کر سمجھا دیا گیا کہ اس سے مراد اسباب جلو ہیں۔ مزید تفصیلات کا تعین نہیں کیا گیا البتہ

مقصود کی وضاحت و صراحت کر دی گئی کہ اتنی قوت جمع کو جس سے تمہارے اور اللہ کے دشمن مرعوب رہیں۔ حکم سلیم اس بات کی تائید کرے گی کہ آج کے زمانے میں فقط گھوڑے پالنے، تکواریں اور نیزے جمع کرنے سے دشمن نہیں ڈرے گا بلکہ ہوائی جہاز، بھری بیڑے، میزائل اور نائروجن بم وغیرہ بنانے ہوں گے۔ پس ثابت ہوا کہ مقصد تو معین کر دیا گیا مگر اسab و وسائل کے اختیار کرنے میں پچک رکھی گئی تاکہ وقت کے تقاضوں کی رعایت رکھی جاسکے۔

مثال نمبر 2:- ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (الجُّون: آیت نمبر ۹)

[پیشہ ہم نے قرآن آثارا ہے اور ہم خود اس کے تجسسban ہیں]

قرآن مجید کی حفاظت و اشاعت کتنا ہم اور ہم پاٹشان فریضہ ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق یہ نہیں بتالیا کہ اس کیلئے تم فلاں فلاں طریقے اختیار کرنا۔ حتیٰ کہ عد صدیقؓ میں جنگ یکامہ ہوئی اور چار سو حافظ قرآن صحابہؓ شہید ہو گئے تو حضرت عمرؓ کو یہ خیال ہوا کہ قرآن کو سینوں کے علاوہ سفینوں میں بھی محفوظ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک سرکاری نجہ تیار کرنے کی تجویز حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے پیش کر دی۔ ابتداءؓ تو صدیق اکبرؓ کو اس تجویز کے مامنے میں تاہل ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ ﷺ نے تو خود کیا اور نہ ہمیں اسکا حکم دیا اسے ہم کیوں کریں؟ حضرت عمرؓ دلائل کیسا تھا اپنی بات پر مصروف ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ مطمئن ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت النصاریؓ کی مگر انی میں صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت تفکیل دی جس نے پھرلوں پر، چڑے پر، کپڑے اور درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی آیات کو بیجا کیا۔ قرآن پاک جمع کرنے کا یہ کام عد صدیقؓ میں مکمل ہوا۔ حضرت عین غنیؓ نے اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی نگرانی میں اس مسحف کی چار نقلیں کر کر خلف شہروں میں روانہ کیں۔ ان میں سے ایک تاشقند میں اور دوسری استنبول کے عجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے۔ مزید برآں صحابہ کرامؓ کے زمانے میں فتح، ضرہ، کسر، تشدید وغیرہ کو لکھا نہیں جاتا تھا، نہ ہی تا اور یا کے نقطے لگائے جاتے تھے مگر آج کے دور میں ضروری ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حفاظت و اشاعت قرآن کا مقصد معین کر دیا گیا مگر ذرا کم وسائل کے اختیار

کرنے میں وقتی تقاضوں کی رعایت رکھی گئی۔ یہ معاملہ علمائے امت کی صوابید پر چھوڑ دیا گیا۔

مثال نمبر ۳:- رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

”طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة“

[علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے]

حدیث پاک میں علم دین حاصل کرنے کی اہمیت بتا دی گئی لیکن کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ حضرات محدثین نے اماء الرجال کافن ترتیب دے کر احادیث کو متن و روایت کے ساتھ جمع کیا۔ حضرات صحابہ کرامؓ کو تو صحاح ستہ کے ناموں کا ہی پتہ نہ تھا کیونکہ اس وقت ان کتب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مگر آج ان کتب کے بغیر علم حدیث کا پڑھنا ناممکن ہے۔ آج علمائے کرام نے تحصیل علم کے لئے درس نظامی ترتیب دیا ہے اور وقتی تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے حصول علم کے لئے نصاب تجویز کیا ہے۔ آج کوئی طالب علم قرآن و حدیث پڑھنا چاہے تو اسے صرف و نحو کے فون پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت بتا دی گئی مگر اسیلہ و ذرائع کو اختیار کرنے کا بوجھ علمائے امت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ علمائے امت نے اس فریضہ کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔

آدم بر سر مطلب :- مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ شریعت مطہرہ نے بعض احکام کی اہمیت تو واضح کر دی مگر زرائح و سائل کو مخفی نہیں کیا۔ یہی شریعت مصطفویؐ کے کمل کی دلیل ہے۔ اب اس تغیر میں طریقہ ذکر و سلوک کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔

”ان فی جسد بنی آدم لمضفة اذا فسدت فسد الجسد كله و اذا

صلحت صلح الجسد كله الا و هي القلب“

[یہک نبی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک کٹوا ہے۔ جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے اور جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے سن لو وہ کٹوا انسان کامل ہے]

معلوم ہوا کہ انسان کی اصلاح کا دار و مدار اس کے قلب کی اصلاح پر ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت کی نظر انسان کی ٹھکل و صورت اور مال و دولت پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے قلب اور اعمال پر ہوتی ہے۔ فرمان نبیوی ہے۔

”انَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْ صُورَكُمْ وَلَا إِلَيْ أَمْوَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَيْ قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ“

[پیشہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مالوں کو لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو]

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفہل قلب یا سلامتی قلب کیسے حاصل ہو تو اس کی بھی نشاندہی فرمادی گئی۔ حدیث پاک میں حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے۔

”لکل شیء صقالة و صقالة القلوب ذكر الله“ (رواه بیہقی)

[ہر چیز کو چکانے کے لئے ایک پاش ہوتی ہے اور دلوں کی پاش اللہ کا ذکر ہے]

مندرجہ بالا حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قلب سلیم کا حاصل کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ گویا مقصد تعمین کر دیا گیا۔ ذرائع و سائل کی فقط نشاندہی کر دی گئی کہ یہ نعمت عظمی ذکر اللہ سے نصیب ہو سکتی ہے۔ تفصیلات نہیں بیان کی گئیں کہ تکبر، حرص، بخل، عجب اور حسد جیسی مسلک قلبی امراض سے چھکارا پانے کیلئے کون کون ساز کرنے کا نفع بخش ہے۔

امہلاً کہہ دیا گیا ”ذکر الله شفاء القلوب“ [الله کا ذکر پیدا دلوں کے لئے فقاہے]

تفصیلات کا بوجہ امت کے اہل ذکر حضرات کے کندھوں پر رکھ دیا گیا تاکہ وہ طالبین کی طبائع اور کیفیات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ذکر کی تعلیم دیں۔ اس لئے مشائخ عظام کسی کو آیت مبارکہ ”وَإِذْ كَرَّ أَسْمَ رِبِّكَ“ کے تحت لفظ اللہ کے ذکر کا نسخہ تجویز کرتے ہیں تو کسی حدیث مبارکہ ”اَكْشِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ“ کی روشنی میں بکثرت کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ کسی کو آیت کریمہ ”وَإِذْ كَرَّ رِبِّكَ فِي نَفْسِكَ“ کے تحت ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا سکھاتے ہیں تو کسی کو ”دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ“ کے مطابق ذکر لسانی کرنا تجویز کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اہل ذکر کے اعمال و اشغال یعنی اسماق تصوف اہل علم کے دروس

نظامی کی مانند مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ و سیلہ ہیں۔ اس کی تائید میں سلف صالحین کی چند عبارات پیش کی جاتی ہیں۔

سلف صالحین کی عبارات:-

❶ — حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی "تحریر فرماتے ہیں۔

"مقصد جملہ اشغالات و مطلب و نبیتی جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب بے کیف ہے جو حق تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ نسبت صحابہ کرام یہی حضور تھا۔"

(مکاتیب رشید صفحہ 45)

❷ — حضرت شاہ اسماعیل شہید "اپنی کتاب "الیصلاح الحق المرتع" میں لکھتے ہیں۔

"صوفیہ کے نفع بخش اشغال کی حیثیت دو اور معاملہ کی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے کام لے اور بعد میں پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔" (الیصلاح الحق المرتع ص 78)

❸ — امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی "اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:

"طریقت و حقیقت کی منزلوں کو طے کرنے کا مقصد تحصیل اخلاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاق ہی سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ کونہ اندریش احوال و مواجید کو منصود اور مشاہدات و تخلیات کو مطلوب جانتے ہیں اور کمالات شریعت سے محروم ہیں۔ بے شبه مقام اخلاق کا حصول اور مرتبہ رضا تک حصول ان احوال و مواجید کو طے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے اس لئے ان کی حیثیت منصود حقیقی کے معاون کی ہے۔"

(مکتوبات جلد اول مکتب س و ششم)

یہ حقیقت واضح ہوئی کہ مثالیٰ کے اعمال و اشغال صفائی قلب حاصل کرنے کا ذریعہ و سیلہ ہیں۔ اسی لئے وقت اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر مثالیٰ ان میں تبدیلی بھی کر دینے ہیں۔

❹ — حضرت شاہ اسماعیل شہید "لکھتے ہیں:

"ہر وقت اور ہر قرن کے اشغال جدا ہوتے ہیں اس لئے ہر طریق کے محققین تجدید

اشغال کی کوشش فرماتے رہتے ہیں۔" (صراط مستقیم ص 7)
یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ مغلی قلب ان اشغال کے سوا اور کسی طرح سے نصیب
نہیں ہو سکتی۔

★ — حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "فرماتے ہیں۔

"میراگمان غالب ہے کہ صحابہ کرام نسبت کو اور طریقوں سے بھی حاصل فرماتے تھے۔
مشائیماز اور تسبیحات پر ان کی شرائط کے ساتھ مواہیت، طمارت، یاد موت اور عذاب اُو
ثواب کے خیال پر مداومت کہ ان چیزوں سے مادی لذتوں سے بے تلقی پیدا ہوتی ہے۔"

(القول الجیل)

اگر کسی کو مروجہ اعمال و اشغال کے علاوہ کسی اور طرح سے مغلی قلب اور "کانک
ترہاہ" کی کیفیت نصیب ہو جائے تو اسے مقصود نصیب ہو گیا۔ وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اگر یہ
کیفیت قلب اور حضوری نصیب نہیں ہوئی۔ نماز میں دنیا کے خیالات اپنی طرف مگن کر لیتے ہیں
ہٹانے کے باوجود ثتم نہیں ہوتے، راستے چلتے نہیں ہے اختیار غیر محروم کی طرف اٹھتی ہیں، دل
پر شوانی شیطانی خیالات ہجوم کرتے ہیں، لوگوں کی تعریف سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہوتی ہے
جبکہ اپنی غلطیوں کو دوسروں سے چھپانے کے لئے غلط بیان بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب مملک باطنی
امراض کی واضح نشانیاں ہیں۔ ایسے فغض کو مثالی عظام کے زیر سایہ اپنی قلبی یا بریوں کا علاج
کروانا ضروری ہے۔ اس سے مفرمکن نہیں چونکہ قلب سلیم ہی روز گھر نجات کا سبب بنے گا
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "یوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب
سلیم" (الشراء آیت 88، 89)

[جس دن کام نہ آئے گا مل اور نہ بیٹے گر جو کوئی آیا اللہ کے پاس صاف سفرادر لے کر
اسپاں تصوف کا مقصود قلب سلیم اور قلب نصیب کا حصول ہے تاکہ سالک کی ظاہری و باطنی
حالت، سیرت و اخلاق یعنی اعضاء و جوارح کا استعمال تخلقاً باخلاق اللہ کے عین مطابق ہو جائے
چنانچہ امام غزالی "اپنی کتاب "المنقد من الضلال" میں لکھتے ہیں:

”مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ صوفیاءِ اللہ کے راستے کے سالک ہیں، ان کی سیرت بترن، ان کا طریق سب سے زیادہ مستقیم اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور صحیح ہیں۔ اگر عقلاء کی عقل، علماء کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بتر لانا چاہے تو ممکن نہیں۔ ان کے تمام خاہری و باطنی حرکات و سکنات مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جائے۔“

اوراد و وظائف کے ولائل:— مشائخ طریقت نے قرآن و حدیث کی شنی میں چند اوراد و وظائف ترتیب دیئے ہیں جو مبتدی کیلئے دوا اور منتہی کیلئے غذا کی مانند ہیں۔ کسی شیخ کاں کے زیر سالیہ ان وظائف کو چند دن پابندی سے کیا جائے تو زندگی میں اسلامی، ایمانی، قرآنی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت الہی اس طرح انگ انگ میں سما جاتی ہے کہ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا اور پاؤں کا چلنابدل جاتا ہے۔ سالک یوں حسوس کرتا ہے کہ یہ اپر منافقت اور دو رنگی کاغلاف چڑھا ہوا تھا جو اتر گیا ہے اور اندر سے ایک سچا اور سچا انسان نکل آیا ہے۔

جس طرح نبوت نبی علیہ السلام میں پوشیدہ تھی ”کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد [میں نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے]

عمر عالم ظاہر میں اطمینان کیلئے خلوت و ذکر کی ضرورت پڑی۔ (اغار حراج کی زندگی اسکی روشن دلیل ہے) اسی طرح ولایت ولی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ مگر تقویٰ و طہارت اور پابندی و وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی راز کو امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؑ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ”ہر انسان ولی بالقوۃ ہوتا ہے ولی بال فعل بننے کیلئے اعمال کی ضرورت ہے۔“ گویا ہر انسان میں اتنی استعداد رکھ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لائے تو ولی بن جائے۔ شاہ ابوالعالیٰ خایفہ اجل حضرت شاہ بھیکؒ ارشاد فرماتے ہیں۔

بھیکا ملکنا کوئی نہیں ہر دی گھڑی لعن

گرہ کھوں نہ جاندے۔ تے تر ت پھر کنگل

[حیلہ بھوکا کوئی نہیں ہے ہر ایک کی تحریر میں لعل و جواہر ہیں، یہ اس کی گردھ کھولنا نہیں جانتے میں کنگال پھرتے ہیں]

جس طرح ایک شیخ میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اگر اس شیخ کو کسی مالی کی زیر گمراہی چند دن زرخیز زمین میں پروردش پانے کا موقع مل جائے تو بچل پھول والا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سالک چند دن کسی شیخ کامل کے زیر سایہ ان اوراد و وظائف کو کرے تو اس کی شخصیت پر حسن اخلاق کے پھول لگتے ہیں اور اس کا شجر امید بارہ آور ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسانوں نے اب تک اس نئے کو آزمایا اور اس سے فائدہ پلایا۔ جس طرح ایک کیست کھتا ہے کہ چینی کھاؤ گے تو میمھی محسوس ہو گی اسی طرح شیخ کامل جب اوراد و وظائف کی تلقین کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ سالک کو یقینی فائدہ ہو گا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے چنان ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی شیخ ہاتھ کے باہت لگ جائے یا شیخ تو کامل ہو مگر سالک اور اراد و وظائف کی پابندی نہ کرے تو وہ بحث سے خارج ہے۔ اس کی مثال ایسے مرضی کی ہی ہے جو کسی شہر آفاق طبیب سے نجٹھوڑے گرجیب میں ڈالے پھرے، استعمال نہ کرے اور کچھ دنوں کے بعد کسے ڈاکٹر صاحب! مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر پوچھنے کا کہ آپ نے نجٹھے استعمال کیا تو یہ کسے گا کہ میں نے توجیب میں ڈالا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کسے گا کم بخت اسے تو پیش میں ڈالنا تھا پھر فائدہ ہوتا۔

ان اور اراد و وظائف کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ کرنے میں بست آسان اور ملتا ہے اس سے تزکیہ و احسان۔ بس پوری کی پوری شریعت پر چنان آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات دو اور دو چار کی مانند نہ ہو۔ نبے یقین نہ ہو آزمائ کے دیکھے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔

ع ملائے عام ہے یاران لکھتے داں کیلے

اب ان اور اراد و وظائف کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

ذکر (وقوف قلبی) :- ذکر کا الفاظی معنی ہے یاد تو پھر ذکر اللہ کا مطلب ہوا اللہ کی یاد۔ یہی اللہ کا ذکر دلوں کی دوا اور باطنی یہاریوں کے لئے شفایہ ہے۔ امام ابن تیمیہؓ نے لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر دل کے لئے ایسا ہے جیسے مچھلی کیلئے پانی۔ اس ذکر اللہ کے ذریعے سالک کو ”فاذکرو نی اذکر

کم" [پس تم مجھے یاد کو میں تم کو یاد کروں گا] اور "فان ذکر نی فی نفسہ ذکر تھے فی نفسی" [اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں] کی بشارتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور "انا جلیس مع من ذکر نی" [جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں] کی سعادت عظیٰ بھی نصیب ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم نے "الواobil الصیب" میں ذکر کے 100 فائدے گنوائے ہیں۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے:

ذکر لسانی اور ذکر قلبی۔ بقول شعتر

لسانی و قلبی یفرحان بدذکرها وما المرء الا قلبہ و لسانہ

[میری زبان اور میرا دل اس کے ذکر سے خوش ہے اور آدمی کے پاس دل اور زبان ہی تو ہوتی ہے] احادیث نبویؐ سے ثابت ہے کہ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پر ستر گناہ فضیلت حاصل ہے۔ عقلی طور پر دیکھا جائے تو بھی ذکر قلبی کو لسانی ذکر پر فضیلت حاصل ہے۔ مثلاً

❶ — ذکر قلبی ہمہ وقت کرنا ممکن ہے جبکہ ذکر لسانی ممکن نہیں۔ مثلاً جب سالک کھانا کھارہ ہوتا ہے، تقریر کر رہا ہوتا ہے، یا دکان پر بینچا گاہک سے سودا طے کر رہا ہوتا ہے تو وہ زبان سے ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔ گفتگو کرے یا ذکر اللہ کرے۔ ایک وقت میں ایک کام ہی ممکن ہے۔ جب کہ ذکر قلبی لیدے، بیٹھے، چلنے، پھرتے ہر گھری ہر آن کیا جا سکتا ہے۔

❷ — ذکر لسانی کرتے ہوئے زبان ملے گی، ہونت حرکت کریں گے؛ ہر وقت یہ ڈر رہے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے جبکہ ذکر قلبی کا پتہ یا تو کرنے والے کو ہوتا ہے یا جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ذکر قلبی فرشتے بھی نہیں سن سکتے، انہیں ایک خوبیوں آتی محسوس ہوتی ہے۔ قیامت کے دن معاملہ کھلے گا کہ یہ تو یادِ الٰہی کی خوبیوں تھی۔

سیان عاشق و معشوق رمزے است کراماً کاتسن را ہم غر نیست

[عاشق اور معشوق میں کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کراماً کاتسن کو بھی معلوم نہیں ہو پاتے] اسی لئے ذکر قلبی کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔

★ — در حقیقت جسم انسانی میں یاد کا مقام قلب ہے جبکہ زبان سے اس کا انعام ہوتا ہے۔ کبھی کسی مال نے بیٹھے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا میری زبان تمہیں بہت یاد کرتی ہے، بلکہ یہو شے یہی کہ گی کہ بیٹھا میرا دل تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یاد کا مقام انسان کا قلب ہے۔ پس ”عقلی دلائل سے بھی ثابت ہوا کہ ذکر خفی افضل ہے ذکر لسانی سے۔

بقول شخصی

— از دروں شو آشنا و وز بروں بیگانه وش

ایں طریقہ زیبا روش کم تر بود اندر جمال

[اندر سے تو آشنا ہو باہر سے بیگانہ ہو، یہی طریقہ ہتر ہے اور دنیا میں بہت کم ہے]

اسی ذکر قلبی کو مشائخ طریقت و قوف قلبی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جا بجا اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن مجید سے دلائل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”بِاِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرًا كَثِيرًا“ (الاحزاب: آیت 41)

[اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کر کشت سے کرو]

اس آیت میں اذکروا جمع کا صیغہ بھی ہے اور امر کا بھی۔ گویا مومنین کو ذکر کثیر کا حکم دیا جائیا ہے۔ مزید برآں ذکر کثیر کرنے والوں کیساتھ مغفرت اور جنت کے وعدے بھی کئے جا رہے ہیں۔ ”والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيمما“ (الاحزاب: آیت 35)

[الله کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کیلئے مغفرت اور بہادر جیار کر رکھا ہے]

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کثیر کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر لیں کریں؟ یا صبح و شام ذکر کیا کریں یا اتنا ذکر کریں کہ تھک جائیں؟ آخر کیا کریں؟ اس آیت کے تحت مفسرین میں سے حضرت مجاهد ذکر کثیر کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں۔

”الذ کرالکثیران لا ينساءه بحال“

[ذکر کثیریہ ہے کہ اسے کسی حال میں بھی نہ بھولے]

کسی حال میں بھی نہ بھولنے سے مراد کیا ہے؟ انسان کی تین نیادی حالتیں ہیں۔ یا وہ لیٹا ہو گایا بیٹھا ہو گایا کھڑا ہو گا۔ ہر حال میں ذکر کرنے سے مراد لیئے، بیٹھے، کھڑے اللہ کو یاد کرے، یہی عکلندوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اولو الالباب (عکلندوں) کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

”الذین يذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم“

(آل عمران: آیت ۱۹۱)

[وہ بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں]

تفسیر صاوی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔

”قال الصاوی تحت هذه الآية، واعلم ان الله تعالى لم يفرض فريضة على عباده الا جعل لها حدا معلوماً و عذر اهلها في حال العذر غير الذكر فلهم يجعل له حدا و لم يعذر احدا في تركه الا من كان مغلوباً على عقله ولذا امرهم في جميع الاحوال قال الله تعالى يذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم ففيه اشارة الى ان الذکر امره عظيم و فضله جسيم“

[فسر صاوی نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیز بھی فرض کی ہے اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے اور حالت عذر میں ان کو محدود سمجھا ہے۔ سوائے ذکر کے کہ نہ تو کوئی اس کے واسطے حد مقرر کی ہے اور نہ کسی کو اس کے ترک میں محدود سمجھا ہے سوائے مجبون کے، اسی لئے ان کو امر کیا ہے اللہ نے ساتھ اس ذکر کے جميع حالات میں۔ اور بتایا ہے کہ مومن یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کرتوں پر اور اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ذکر کی شان اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے]

حضرت عبد اللہ بن عباس "اس آیت کے تحت فرماتے ہیں:

"الذین يذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم ای باللیل
والنهار فی البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض
والصحة والسرور العلانية"

[جو لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی رات میں اور دن میں۔ خنکی میں اور تری میں، سفر میں اور حضر میں، غائب میں اور فقر میں، مرض میں اور صحت میں خلوت میں اور جلوت میں]

ایسا ذکر تو پھر ذکر قلبی اور ذکر خفی ہی ہو سکتا ہے جو ہر حال میں کیا جاسکے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ذکر کثیر کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی تغیری ذکر قلبی، ذکر خفی یا صوفیاء کی اصطلاح میں وقوف قلبی ہی ہے۔ اس کو کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
وَإِذْ كَرِبَكَ كَثِيرًا وَسَبَحَ بِالْعُشَى وَالْأَبْكَارِ" (آل عمران: آیت 41)

[اور یاد کر اپنے رب کو کثرت سے اور سچ و ثام اس کی تسبیح کر]

پس ثابت ہوا کہ وقوف قلبی کرنے کیلئے قرآن مجید میں حکماً فرمایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس کو سیخنے کے لئے مثالج عظام کی سرپرستی میں وقت گزارتے ہیں۔

احادیث سے ولائیں

ارشاد نبویؐ ہے:

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسْئَلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَبَادَ
أَفْضَلُ دَرْجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ الْذَا كَرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قَلْتَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبْتُ بِسَيفِهِ فِي
الْكَفَافِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرُو يَخْتَصِبُو مَا كَانَ الْذَا كَرُونَ
أَفْضَلُ مَنْهُ دَرْجَةٌ"

[رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کن لوگوں کا درجہ زیادہ ہو گا۔ فرمایا جو لوگ کثرت سے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اور جو لوگ جماد کرتے ہیں، فرمایا

کہ اگرچہ جاہد، کفار اور مشرکین پر تکوar چلاتا رہے یہاں تک کہ وہ تکوar نوث جائے اور خون آلوو ہو جائے پھر بھی ذاکرین کا درجہ افضل ہے]

اس حدیث پاک میں ذکر کیش کرنے والوں کی فضیلت کتنی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ آئیے اب سنت نبویؐ سے بھی اسکی دلیل ڈھونڈیں تو ایک روایت میں ہے۔

”عن عائشہؓ کان رسول اللہؐ یذ کرالله علی کل احیانہ“

[سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے تھے]

اس حدیث پاک میں کل احیانہ (ہر لمحے) کا لفظ گواہی دے رہا ہے کہ یہی ذکر قلبی، ذکر خفی ہے۔ پس آپؐ کی عادت مبارکہ اور سنت یہضاء ہے وقت یادِ الہی میں مشغول رہنا تھی۔ مشايخ عظام اسی کی اتباع کیلئے ساگریں طریقت کو وقوف قلبی کی مشق کرواتے ہیں۔ تاکہ انسان کا معاملہ ”وست بکار دل بیار“ [ہاتھ کام کاچ میں دلِ اللہ کی یاد میں] کے مطابق ہو جائے۔ وقوف قلبی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھے اور لینے بیٹھے چلتے چھرتے ہر گھنٹی ہر آن دل میں رکھے یہ دعیان کہ میرا دلِ اللہ اللہ کہ رہا ہے۔ یہی مندرجہ بالا آیات و احادیث کا نمونہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وقوف قلبی کی تعلیم قرآن و حدیث کے میں مطابق ہے۔

2- فکر (مراقبہ) :- مراقبہ مخوذ ہے رقب سے، جس کے معنی ہیں ”خظر، نگہبان، پاسبان جیسے ارشاد فرمایا گیا“ انِ اللہ کان علیکم رقیباً” (الاحزاب: آیت 52) [پیشِ اللہ تم پر نگہبان ہے] تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لوگا کر بیٹھنے کو۔ پس سالک جب مراقب ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا سے یک سو ہو کر، یک رو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، باوضو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ سر کو جھکا لیتا ہے اور تھوڑی دری کیلئے یہ سوچتا ہے کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے۔ بنِ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سمارہ ہے۔ میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دلِ اللہ اللہ کہ رہا ہے۔ شروع شروع میں سالک کا دل ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جیسے ہی سر جھکایا دنیا کے خیالات و سلوس نے جھوم کیا۔ مثل مشہور ہے ”کل انا ناء پیترش

بما فيه۔] هر دن میں سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے [دل میں دنیا بھری ہونے کی کتنی واضح دلیل ہے کہ سرتوجہ حکما زیاد اللہ کی خاطر گپریشان خیالات تھک کرنے لگیں۔ سالک کو اس بات سے گھرانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تو بہت محنت کرنی چاہیے۔ اگر دل میں یہی کچھ لے کر آگے منل پر چلا گیا تو میری کتنی رسائی ہو گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَحَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ" (العاشرات: آیت 10)

[جو سینوں میں ہو گا نکالنے کے]

اور "يوم تبلی السرائر" (الطارق: آیت 9) [وہ دن جب بھید کھول دیئے جائیں گے] سالک مرابتہ میں بیٹھتے وقت جب یہ سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آری ہے تو حدیث پاک "انا عندظن عبدي بى" [میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں] کے مطابق رحمت دل میں سا جاتی ہے۔ بالفرض پہلے دن سارا وقت دنیا کے خیالات آئے فقط ایک لمحہ اللہ کا خیال آیا تو دوسرے دن دنیا کے خیالات نبتاب کم آئیں گے۔ تیرے دن اور کم۔ حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ جب سر جھکائیں گے تو فقط اللہ کا دھیان رہے گا۔ دنیا کمینی دل سے نکل جائے گی۔

- دل کے آئینے میں ہے تصویر یار

جب ذرا گروں جھکائی دیکھ لی

مرابتہ کے دوران بعض سالکین پر او گھمی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ "اذ یغشیکم النعاص" [جب تمہارے اپر او گھمی طاری کر دی گئی] کے مصدقہ کسب فیض ہی کی علامت ہوتی ہے۔ گھرانے کی ضرورت نہیں، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سالک کی مثل مرغی کی مانند ہے جو انڈوں پر بیٹھ کر انہیں گری پہنچاتی ہے۔ ابتداء میں جو انڈے پھر کی طرح بے جا محسوس ہوتے ہیں ان میں جان پڑتی ہے حتیٰ کہ چوں چوں کرتے چوزے لکل آتے ہیں۔ اسی طرح سالک کو ابتداء میں اپنا دل پھر کی مانند نظر آتا ہے لیکن مرابتہ میں بیٹھ کر ذکر کی حرارت پہنچانے سے وہ وقت آتا ہے جب دل اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر میں یہ عمل جتنا ہلکا چھلکا سادہ سالکتا ہے اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہے۔ چند دن مرابتہ کی پابندی کرنے سے تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ

۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جانال کئے ہوئے
یاد کا یہ طریقہ عاشقوں کا طریقہ نہیں بلکہ محبوبوں کا طریقہ ہے۔ عاشق تو آہ وزاری اور نالہ و
فیزاد کرتے ہیں۔ جبکہ محبوب فقط دل میں یاد بساتے ہیں۔
۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فیزاد کرتے ہیں
لبوں پر مر غاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں
اس طریقہ ذکر کے واضح دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔

قرآن مجید سے دلائل: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”واذ كرربك في نفسك تضرعاً و خيفه و دون الجهر من القول“

(الاعراف: آیت 205)

[اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس میں گزگراتے ہوئے خفیہ طریقہ سے مگر اوپنی آواز سے نہیں] مفسرین نے ”فی نفسك“ کا مطلب ”ای فی قلبک“ کیا ہے۔ یعنی اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ واذکر امر کا صبغہ ہے گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ ذکر کرو اپنے رب کا۔ اگر اس حکم کی تعیل میں مثال نہ روزانہ ذکر و مراقبہ کریں تو اسے حکم کی تعیل کما جائے گا یا بدعت؟ ذاکرین پر اعتراض کرنے والے زر احمدیہ دل و دماغ سے سوچیں۔
۔ خود کا نام جنون پڑ گیا جنون کا خود
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
ویسے بھی ”فی نفسك“ کا ترجمہ اپنے دل میں، اپنے دھیان میں، اپنی سوق میں ہی کیا جا سکتا ہے اپنی زبان سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ مراقبہ پر تقدیر کرنے والوں کیلئے یہ آیت برهان بنیں کا درجہ رکھتی ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”تضرعاً و خيفه“ سے ذکر قلبی اور ”دون الجهر من القول“ سے ذکر لسانی مراد ہے۔ اس سے ایک تو ذکر قلبی کا ثبوت ملا دوسرا ذکر قلبی کا ذکر لسانی پر مقدم ہوتا ثابت ہوا۔

★ بعض نادین کو یہ کہتے ہاگیا کہ ذکر قلبی قرآن سے کمال ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا قرآن سے ثابت ہونا ضروری نہیں اگر ایسا ہوتا تو حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن کافی تھا۔ بلکہ پھر تو صاحب قرآن کے آنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ جبریل علیہ السلام کتاب لے آتے اور بس "یعلمکم دینکم" والا معاملہ ہو جاتا۔ ہر چیز کو قرآن سے تلاش کرنے والے معلوم نہیں حدیث پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ لگتا ہے انہیں نمازوں کی رسمیت اور زکوٰۃ کی تفصیل قرآن پاک سے مل گئی ہے۔ لذا اب صرف مراقبہ کی دلیل تلاش کرنا باقی رہ گئی ہے۔ خیریہ تو تھا الزامی جواب۔ اب تحقیقی جواب کی طرف آئیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَ لَا تطعْ مِنْ أَغْفَلَنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا" (کف: آیت 28)

[اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو تم نے اپنی یاد سے ناقل کر دیا۔]

اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں۔ وہ سے لفظاً نہیں ان کی اطاعت کریں جن کے دل میں ہماری یاد ہے۔ ذکر قلبی کے ہوت میں اس سے بیدی بدل اور پیش نہیں کی جاسکتی۔

عَ مَعِ لَّهِ ۚ ۖ بِهِ مَوْلَىٰ تَيْمَىٰ

★ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَ اذْ كَرَأْسَمْ رِبَكَ وَ تَبَلَّ الِّيْهِ تَبَتِّلَا" (مزمل: آیت 8)

[اپنے رب کو یاد کرو اور تمام مخلوق سے کٹ کر اسی ایک کے ہو رہو۔]

اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔

(1) اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ یہاں قليل غور نکلتے یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا رب کا ذکر کرو۔ ظاہراً یہ بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا مگر رب کے نام کا ذکر کرو کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو صفاتی نام ہے۔ یہاں ذاتی نام "اللہ" کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ لفظ اللہ کا ذکر کرنا رب کے نام کا ذکر کرنا ہوا۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں لفظ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(ii) اس (اللہ) کی طرف "تبتل" اختیار کرو۔ "تبتل" کہتے ہیں محبوب کی خاطر مساوا سے انقطاع اختیار کرنے کو۔ گویا چاہتے ہیں مخلوق سے توڑو اور رب سے جوڑو۔ یہ انقطاع عن الخلق بیٹھے بھائے تو نصیب ہونے سے رہا، اس کیلئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ مشائخ عظام نے اس کا آسان حل تاریا کہ روزانہ کچھ وقت فارغ کر کے یک سو ہو کر یک رو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آنکھوں کو بند کرلو اور بد کرتے وقت یہ سوچو کہ آج تو میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بہش کیلئے بند ہو جائیں گی۔ اس سے دنیا کی بے شایدی دل میں بیٹھے گی اور مخلوق سے کٹ کر خالق حقیقی سے جزنے کا دعیہ پیدا ہو گا۔ اگر طبیعت چاہے تو سرپر کپڑا ڈال لو اور یہ سوچو کہ آج تو اپنی مرضی سے سرپر کپڑا ڈال رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہناریا جائے گا۔ اس سے "تبتل" کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گا۔ روزانہ دس پندرہ منٹ، آدھا گھنٹہ اس طرح بیٹھنے سے یہ سبق راخ ہوتا جائے گا۔ پانی کا قطرہ دیکھنے میں کتنا زرم ہوتا ہے لیکن کسی پھر مرتو ازگر تاری ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر روزانہ اس حالت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں اپناراستہ بنالیتی ہے۔ یہ ساری کیفیت مرابتہ کملاتی ہے اور یہی اس آیت کریمہ کا مقصود ہے۔ اس مشق کا نام "تبتل" رکھیں، "مرابتہ رکھیں"، محاسبہ رکھیں مگر اس حقیقت سے مفر ممکن نہیں کہ اس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ ثابت ہوا کہ مرابتہ قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

احادیث سے ولائل: - بخاری شریف میں کیف کان بدء الوحی کے باب میں مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نبول وحی سے پہلے کئی کئی دن کا زادے کر غار حرامیں وقت گزارتے تھے۔ اس وقت نہ تو نماز تھی، نہ قرآن تھا، نہ روزہ تھا، پھر وہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ میں اپنا وقت گزارتے تھے، مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لوگانے کا نام مرابتہ تھی تو ہے۔ مشائخ اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اعتراض کریں کہ یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے تو چیز اعلان نبوت کے بعد کافرمان پیش کیا جاتا ہے۔

”عن ابی هریرہ“ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما یذکر عن ربه تبارک و تعالیٰ اذکر فی بعد العصر و بعد الفجر ساعۃ اکفک فیما بینہما“ (اخراجہ احمد کذافی الدر)

[حدیث قدی میں ہے کہ حق تعالیٰ شان نے حضور ﷺ کو حکم فرمایا کہ عصر اور فجر کے بعد میراذ کر کیا کہ ان دو وقت کے درمیان کی میں لغایت کروں گا]

مشائخ کرام صبح و شام اسی مرابطہ ہی کا تو حکم دیتے ہیں۔

درج ذیل میں ذکر و مرابطہ کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات قلبیند کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبر ۱ :- ذکر کا لفظ قرآن پاک کیلئے بھی استعمال ہوا ہے تو کیا یہ بحتر نہیں کہ جمال ذکر کرنے کا حکم ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت مراد لے لی جائے؟

جواب :- گو کہ ذکر کا لفظ قرآن پاک کیلئے بھی استعمال ہوا ہے تاہم قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ دو مستقل الگ الگ عبادتیں ہیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے :

”فی حدیث طویل لابی ذرا و صیک بتقوی اللہ فانه راس الامر کله و علیک بتلاوة القرآن و ذکر اللہ فانه ذکر لک فی السمااء و نور لک فی الارض“ (جامع صغیر روایت طبرانی)

[ایک طویل حدیث میں حضرت ابوذرؓ سے نبی علیہ السلام کا فرمان منقول ہے کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر کام کی نیباد ہے اور تمہارے اور تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر لازم ہے۔ پہنچ یہ تمہارے لئے آسمان میں ذکر اور زمین میں نور ہے]

اس حدیث پاک میں تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دو مستقل الگ الگ عبادتیں ہیں لذا جمال ذکر اللہ کا حکم ہے وہاں تلاوت قرآن مراد نہیں لی جاسکتی۔

سوال نمبر ۲ :- مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں وہ صبح و شام کرنے ہوتے ہیں، کیا اس کی کوئی اصل بھی ہے؟

جواب :- جی ہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”واذ کرربک کثیراً و سبح بالعشی والابکار“

[ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے اور صبح و شام اس کی شیع کرو]

اس آیت میں وضاحت کے ساتھ صبح و شام تسبیحات کرنے کا حکم موجود ہے۔

سوال نمبر 3 :- کیا لیٹ کر بھی مرقبہ کیا جا سکتا ہے؟

جواب :- جی ہاں کوشش تو یہی ہو کہ بالوب بینہ کر مرقبہ کریں۔ کوئی عذر، بیماری وغیرہ کا ہوتا لیٹ کر بھی مرقبہ کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”الذین يذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم“

(آل عمران: آیت 191)

اس آیت میں ”جنوبہم“ کا لفظ بتارہا ہے کہ لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرنا جائز ہے۔

سوال نمبر 4 :- بعض لوگ مرقبہ میں اچھتے کو دتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟

جواب :- جذب میں آجاتا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ کسی آیت میں ”خرروا للاذقان سجدا“ کے الفاظ ہیں تو کہیں ”خرروا سجدا و بکیا“ کا مضبوط ہے۔ کسی حدیث میں ”فخرللہ ساجدا“ کا بیان اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ مشائخ کا فرمان ہے کہ سالک حتی الواسع اپنی کیفیات کو ضبط کرے اور اگر بے قابو ہونے لگے اور کسی صورت قرار نہ آئے تو مرقبہ ختم کر دے یہی اولیٰ ہے، اچھانا کو دنا محدود نہیں ہے۔

سوال نمبر 5 :- ذکر سے ترقی زیادہ ہوتی ہے یا فکر سے؟

جواب :- سالک کیلئے پہلے ترقی ذکر سے ہوتی ہے حتیٰ کہ سالک کو فتنے نفس نصیب ہوتی ہے اس سے آگے ترقی فکر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ سالک کی ترقی نہ ذکر سے ہوتی ہے نہ فکر سے بلکہ محض عنایت خداوندی سے ہوتی ہے۔

سوال نمبر 6 :- قلب جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: - عوامِ انس کے نزدیک قلب میں بیض کی ماند نرم گرتیز حرکت کا عجوس ہوتا ہے، قلب کا جاری ہونا کمالاتا ہے۔ اور خواص کے نزدیک قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ قلب جوارح پر جاری ہو جائے۔ یعنی اعضاء و جوارح پر قلب کا انٹروں ہو جائے اور وہ شریعت و سنت کے مطابق استعمال ہوں۔

سوال نمبر 7: - امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "العبودیت" میں لکھا ہے: "ذکر اسم ذات "الله اللہ" بغیر دوسرے لفظ سے مرکب کئے بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسم مفرد کے ذکر کا حکم نہیں دیا۔ اور نہ ہی مسلمانوں کیلئے کوئی اسم مفرد مجدد مشروع کیا ہے۔ اسم مفرد مجدد مفید ایمان نہیں ہو سکتا۔ احادیث نبویؐ سے جملہ مرکب کی تعلیم ثابت ہے مثلاً سچان اللہ، الحمد لله، اللہ اکبر۔ کیا یہ تھیک نہیں ہے؟"

جواب: دلیل 1: - "سچان اللہ" جملہ مرکب نہیں بلکہ مضاف، مضاف الیہ ہے۔ چنانچہ تفسیر پیشوای میں "سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا" کے تحت لکھا ہے۔ "سبحان مصدر لا يكاد يستعمل الا مضافا منصوبا باضمamar فعله" [سبحان مصدر ہے۔ یہ بیش مضاف اور منصوب ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور اس کا عامل بیش مقدر ہوتا ہے] اللہ اسچان اللہ کے ساتھ سمجھت یا اسی فعل پوشیدہ سمجھا جائے گا۔ اس تمثیل کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اسم ذات منادی ہے اور اس سے حرفاً نداخذف کرنا جائز ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل یوسف اعرض عن ہذا ہے۔ کافیہ میں منادوی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے:

"هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب ادعوا"

[منادی وہ ہے جس کا روپہ ہونا مطلوب ہے ایک حرفاً کے واسطے سے جو لفظ "ادعو" کا قائم مقام ہے۔ پس "الله" درحقیقت "ادعو الله" بن کر کلام آتی جاتا ہے]

دلیل 2: - کلام عرب میں جملہ امیہ میں کبھی کبھی مبتدا کو ذکر کر دیا جاتا ہے جبکہ خبر مخدوف ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ کا لفظ مبتدا ہے اور خالق، رازق، قادر وغیرہ خبر مخدوف ہے۔

گلتا ہے کہ امام ابن تیمیہ "کسی عنوان پر لکھتے ہوئے روانی میں یہ اعتراض کر گئے ہیں ورنہ مسند درج بالا لاکل کے بعد کسی افکال کی مجبانی نہیں رہتی۔

دلیل 3: کسی قرآنی آیات سے ذکر اسم ذات بلا خصم ضمیرہ کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً

1۔ "واذ کراسم ربک بکرا واصبلا" (الدھر: آیت 25)

2۔ "واذ کراسم ربک و تبتل الیه تبتیلا" (الزلزل: آیت 8)

ان آیات مبارکہ میں رب کے نام کا ذکر "واذ کراسم ربک" کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے؟ تو کما جائے گا..... "اللہ"۔ علم کلام کی تمام کتب میں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے بارے میں ہے:

"الله — الله عالم لذات الواجب الوجود المستجمع بجميع

الصفات الكمال المنيزه عن النقص والزوال"

[لقط اللہ نام ہے اس ذات کا جس کا وجود ضروری ہے اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے اور کمزوریوں اور بیبوں سے پاک ہے]

گویا ان آیات سے لقط اللہ کا ذکر کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی کو ذکر اسم ذات کہا جاتا ہے۔

ساکین طریقت لیئے بیٹھے چلنے پھرتے ہر گھری ہر آن اسی ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔

بقول شخصہ ڈھول کی تھاپ تو رک سکتی ہے۔ گناہ کا تارتوث کلتا ہے مگر کوئی کل کو گیت

گانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح محب کو محبوب کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

مزید وضاحت کیلئے محب و محبوب کے تعلق کا قرآن کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے۔

★ — محبت بے قرار کر دینے والی اور شدید تر ہو۔

"والذين امنوا اشد حبا لله" اس کی دلیل ہے۔

★ — محبوب کے صن و جمال کی باقیں سکر محبت میں اضافہ ہو۔

"اذ اتليت عليهم آياته زاد لهم ايمانا" اس کی دلیل ہے۔

★ — محب کو محبوب کے سوا کوئی طلب نہ ہو۔

”الیس اللہ بکاف عبده“ اس کی دلیل ہے۔

⊕ — محبوب کے ذکر سے دل کو طہارت نصیب ہو۔

”اَلَا بَذِكْرُ اللَّهِ تَطْمِنُ الْقُلُوبَ“ اس کی دلیل ہے۔

⊕ — محبوب کا تذکرہ سنتے ہی دل پھل اٹھے۔

”الذِّينَ اذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَجَلتَ قُلُوبُهُمْ“ اس کی دلیل ہے۔

⊕ — جب محب کو محبوب کے ذکر سے روکا جائے تو وہ ساری دنیا کو لات مار کر پیچھے دھکیل

دے۔

”قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ“ اس کی واضح دلیل ہے۔

دلیل 3:- مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے متعلق فرمایا:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ يَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ“

[”قیامت قائم نہیں ہو گی جب تک اللہ اللہ کا جاتا رہے گا۔“]

اگر مفرد مجرد اسم کا ذکر جائز نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام بھی فقط ایک ہی مرتبہ اللہ کا لفظ کہتے۔

دو مرتبہ اللہ اللہ کہنا ذکر اسم ذات کے مشروع اور غیر ایمان ہونے کی ٹھوس نبوی دلیل ہے۔

عقلی دلیل:- جب کسی سے محبت ہو تو اس کا نام سنتے ہی محب تذپب اٹھتا ہے۔ بقول شفیعہ

”اک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔“

جس طرح محبوب کا نام سنتے سے کانوں میں رس گھل جاتا ہے اسی طرح محبوب کا نام لینے

سے دل کو سکون و آرام لاتا ہے۔

۔ کتنی تسلیم ہے وابستہ ترے ہام کے ساتھ

نیند کانٹوں پر بھی آجائی ہے آرام کے ساتھ

ساک جب بار بار اسم ذات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے انگ انگ میں محبت الہی کی مستی چھا جاتی

ہے۔

۔ اللہ اللہ ایں چہ شیرس است ہام شیر و شکر می شود جامن تمام

[اللَّهُ اللَّهُ كَتَنْ شِيرْس نَامْ هَےْ كَ اسْ كُولْپِيْس سِمَارْ بَدْن مِيلْس دَوْدَهْ كَيْ مَانَدْ هُوكِيَا] رہا یہ اعتراض کہ فقط اللہ اللہ کے نام کی ملا جانے میں کیا فائدہ اور اس کو رئنے کا کیا مطلب — تو عرض ہے کہ

— ہم رئیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو
ہم تو عاشق ہیں تم سے نام کے

(3) درود شریف :- سید السادات اور معدن العادات نبی اکرم ﷺ کے امت پر اسرار احسانات ہیں کہ نہ تو ان کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ ہی شمار ہو سکتا ہے۔ لہذا سالکین باقاعدگی اور حجت و اخلاص سے درود شریف پڑھے وہ کم ہے چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اس پر سیکھلوں اجر و ثواب عطا فرمادیے۔ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجننا اولیائے کرام کامیح و شام کا معمول رہا ہے۔ دلائل و فضائل کے لئے آیات و احادیث بکثرت ہیں۔ اختصار کی وجہ سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

قرآن مجید سے ولائل :- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَكُتَهُ يَصْلُوُنَ عَلَى النَّبِيِّ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا" (احزاب: آیت 56)

[بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر ﷺ پر۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ ﷺ پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو]

اس آیت شریفہ کو "ان" کے لفظ سے شروع فرمایا گیا جو نہایت تاکید کی دلیل ہے۔ مزید برآں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا جو استمرار اور دوام کی دلیل ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی اکرم ﷺ پر، اس سے بڑھ کر عزت افرانی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجتے کی نسبت پسلے اپنی طرف کی پھر فرشتوں کی طرف پھر مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو، احسان کا بدلہ چکانا مکارم اخلاق میں سے ہے اور نبی کرم ﷺ ہمارے حسن اعظم ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی مکافات کا طریقہ بتادیا۔ نبی اکرم ﷺ کی شان محبوبیت کا عجب عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شادوت میں آپ کے نام کو اپنے نام کے

ساتھ ذکر فرمایا۔ آپؐ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ۔ آپؐ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ اور آپؐ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں: "اللہ سے رحمت مانگی اپنے بخوبیر اور ان کے ساتھ ان کے گمراہ پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان (کی شان) کے لائق رحمت اترتی ہے اور مانگنے والے پر ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں۔ اب جس کا بتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کرے۔"

علامہ سخاویؒ نے قول بدیع میں الام زین العابدینؑ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کثرت سے درود بھیجنے والی سنت ہونے کی نشانی ہے۔

احادیث سے دلائل

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے۔

"عن ابی هریرة" ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی
علی صلواة واحدة صلی اللہ علیہ عشرًا" (رواه مسلم و ابو داؤد)
[حضور القدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ
صلوة بھیجتے ہیں]

★ — طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو دفعہ درود بھیجتا ہے اور جو مجھ پر سو دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر "براءة من
النفاق و براءة من النار" اللہ دیتے ہیں۔

★ — امام مستفریؒ نے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز مجھ پر سو دفعہ درود شریف بیسیجے اس کی سو حاجتیں پوری کی جائیں۔ تیس دنیا کی باقی آخرت کی۔ مثلاً تشبیہ اسی لئے ساکنین طریقت کو صحیح و شام سو دفعہ درج ذیل درود پاک پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ "اللهم صل على مسدينا محمد و على آل مسدينا محمد و
بارك و مسلم" یہ درود پاک نہیں مختصر اور جامع ہے۔

— علامہ حنادیؒ نے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن عرش کے سامنے میں ہوں گے۔ ایک جو مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا جو میری سفت کو زندہ کرے، تیسرا جو میرے اوپر کثرت سے درود بیجے۔ کثرت درود کے ثمرات میں سے ہے خطاؤں کا کفارہ ہوتا۔ درجات کا بلند ہوتا۔ اعمال کا بڑی ترازو میں تلن۔ ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہوتا۔ خطرات سے نجات پان۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتا۔ آپؐ کا گواہ بنتا۔ عرش کا سلیمان۔ حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوتا۔ قیامت کے دن کی پیاس سے بچنے۔ پل صراط پر سوت سے گزرنا۔ جنم سے خلاصی ہوتا۔ مرنے سے پہلے مقرب نھکانا دیکھ لیتا۔ ثواب کا بیس جملوں سے زیادہ ہوتا۔ نادار کے لئے صدقہ کا قائم مقام ہوتا۔ مل میں برکت ہوتا۔ پڑھنے والے کے بیٹے اور پوتے کا مستحق ہوتا۔ دشمنوں پر غلبہ ملتا۔ نفلق سے بربی ہوتا۔ دل کا زگ دور ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتا۔ جو شخص ساری دعاویں کو درود بھائے۔ اس کے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفاہت ہوتا۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتا۔ ساکھن طریقت کو چاہئے کہ صبح و شام محبت و ادب کے ساتھ بارگاہ نبوی میں درود کا ہدیہ بھیجا کریں۔

بقول فخر

— بے لمی سی لیکن شدید وہ بُلا بھیجنی
بھیجنی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوچائیں
درود شریف کے متعلق پوچھے جانے والے چند عمومی سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔
سوال نمبر ۱: جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: ہمارا نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا اس وجہ سے نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس کی انتیان ہے اگر اسیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا درود تو نبی اکرم ﷺ کی علمت کے انعام کے لئے ہے۔ مزید برآں ہمارا درود

شریف پڑھنا تو ہمارے اپنے گناہوں کا لکھارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔

سوال نمبر 2:- سنا ہے کہ ایک گنجگار امتی کے پڑے میں نبی اکرم ﷺ چھوٹا سا پرچہ ڈالیں گے تو پڑا جھک جائے گا۔ وہ کیسے؟

جواب:- اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی قدر ہے جتنا اخلاص زیادہ ہو گا اتنا ہی وزن زیادہ ہو گا۔ حدیث البخاری یعنی ایک کلرا کانفیڈ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہو گا۔ ننانے دفتر گناہوں کے ہونگے اور ہر دفتر میتھے نظر تک پھیلا ہو گا اس پر عالی آجائے گا۔ اس کی دلیل ہے۔

سوال نمبر 3:- کیا درود شریف میں "صلیت علیٰ محمد" یا "اصلی علیٰ محمد" پڑھ سکتے ہیں۔

جواب:- نہیں پڑھ سکتے۔ نبی اکرم ﷺ کی ذات بادرکات عیب سے پاک ہے جبکہ ہم سرپا عیوب و نقابص ہیں پس جو سرپا عیب ہو وہ سرپا پاک کی کیاشناء بیان کر سکتا ہے۔
بعقول شخص۔

ہزار بار بشیم دہن زمک و گلب
ہنوز نام تو گتن کمل بے ابی است

لذا "اللهم صل علیٰ محمد" میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں مگر رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر ﷺ پر درود و صلوات ہو۔

سوال نمبر 4:- کیا حائفہ عورت درود پڑھ سکتی ہے؟

جواب:- حائفہ عورت اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ کا نام لے سکتی ہے۔ کلمہ پڑھ سکتی ہے درود اور استغفار پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ فقمانے لکھا ہے کہ اگر کوئی معلمہ اپنی شاگردہ کو اس حالت میں سبق دینا چاہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ جدا جدا کر کے پڑھائے مگر قرآن پاک کو باقاعدہ لگائے۔

سوال نمبر 5:- کیا بے وضو درود شریف پڑھنا جائز ہے؟

جواب:- جائز ہے مگر یادو ضو پڑھنا "نور علیٰ نور" ہے۔

سوال نمبر 6: - نبی اکرم ﷺ پر جمہ کے دن کثرت سے درود بھیجنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: - بعض احادیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمہ کے دن اپنے والد کی پشت سے مان کے پیٹ میں تشریف لائے۔ نبی اکرم ﷺ جس طرح نبیوں کے سردار ہیں جمہ کا دن باقی دونوں کا سردار ہے۔ پس جمہ کے دن درود کی کثرت کو مناسب ہوئی۔

سوال نمبر 7: - درود ابراہیم میں "اللهم صل علی محمد" کے ساتھ "کما صلیت علی ابراہیم" کہنا ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت نصیب ہے۔

جواب: - عبی داں حضرات جانتے ہیں کہ "کما" کا الفاظ کبھی اعلیٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی اونٹی کے لئے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے "مُثُلُ نورٍ كَمْشِكُوَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ" (النور: آیت 35) [اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو] حلاںکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں سے کیا نسبت، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس سوال کے دس جواب لکھے ہیں مکتوبات امام محمد الف ثانی میں بھی اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

_____ استغفار (4)

روزانہ صحیح دشام ایک سو مرتبہ استغفار پڑھنا، مشائخ تشبید ایک نہایت تحقر اور جامع استغفار پڑھتے ہیں "استغفار اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیه" قرآن و حدیث سے اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔

قرآن مجید سے دلائل

دلیل نمبر 1: - ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"استغفرو اربکم ثم توبوا اليه" (ھون: آیت 52) [تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے اور توہہ کرو] اس آیت کریمہ میں استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس مشائخ تشبید اسی حکم کی روزانہ قیل کرتے ہوئے نہایت ندامت سے استغفار پڑھتے ہیں اور یہی تعلیم اپنے

سماکین کو بھی دیتے ہیں۔

دلیل نمبر 2:- حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

”فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ غَفَارًا۔ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا۔ وَيَمْدُدُكُمْ بِامْوَالٍ وَبِنِينٍ۔ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا“ (سورۃ نوح: آیت 10-12)

[پس میں نے (ان سے) کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، پیش بخشش ان کی دائیٰ صفت ہے۔ وہ تم پر بارش نازل فرماتے ہیں اور بارش بھی موسلاحدار، اور مال و اولاد دے کر تمہیں بھعاتے ہیں اور تمہاری خاطر یہاں اور نسوں کا انتظام کر رکھا ہے]

دلیل نمبر 3:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَإِنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ (الاغاث: آیت 33)

[حق تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور (ای طرح) جب وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی ان کو عذاب نہیں ہو گا]

اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”كَانَ فِيهِمْ أَمْنَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَسْتَغْفَارُ فِي ذَهَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيَ الْأَسْتَغْفَارُ“ (ابن کثیر جلد 2 صفحہ 312)

[اس میں عذاب سے بچنے کے لئے وذریعے تھے نبی اکرم ﷺ اور استغفار، نبی اکرم ﷺ تو اس دنیا سے رخصت ہوئے البتہ استغفار اب بھی باقی ہے]

دلیل نمبر 4:- ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْيَوْمِ مَا يَهْجِعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ (الذاريات: آیت 17، 18)

[یہ حضرات رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے ہیں]

حادیث سے دلائل

دلیل نمبر 1:- بخاری شریف کی روایت ہے:

”عن ابی هریرہؓ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول
والله انی لاستغفرالله واتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرّة“
[حضرت ابو ہریرہؓ] سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے ناخور اکرم ﷺ نے
فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے مفترط طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہ عمل دن میں ستر مرتبہ
سے بھی بڑھ جاتا ہے [

دلیل نمبر 2:- تفسیر بیضاوی صفحہ 521 پر مرقوم ہے:

”روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفرالله فی
الیوم واللیلة مائۃ مرّة“ (رواہ البخاری والتسائی وابن ماجہ)

[حضور ﷺ نے فرمایا ”میں بعض اوقات دن اور رات میں سو سو مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں۔“]
محمد شین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا روزانہ ستر مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار پڑھنا اظہار
عورتیت اور تعلیم امت کے لئے تھا۔ حالانکہ آپ تو بخشنے بخشائے تھے۔ ”لیغفرلک اللہ
ماتقدم من دنبک و ماتاخر“ اس پر قوی دلیل ہے۔

دلیل نمبر 3:- ”عن ابی بکرؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال، علیکم بلا اللہ الا اللہ والاستغفار اکثر منها فان ابلیس
قال انما اهلکت الناس بالذنوب و اهلکونی بلا اللہ الا اللہ
والاستغفار الى آخره“ (تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 484)

[حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم پر ”لا اللہ الا
اللہ“ اور استغفار کی کثرت ضروری ہے کیونکہ ابليس نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے بچا کیا
ہے اور وہ بمحض لا اللہ اور استغفار سے بچا کر رہے ہیں۔

دلیل نمبر 4:- علامہ ابن کثیرؓ اپنی تفسیر جلد 2 صفحہ 460 پر استغفار کے متعلق لکھتے ہیں:

”عن ابن عباس“ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً وزقه من حيث لا يحتسب“ (ابوداؤر جلد 1 صفحہ 220)

[حضرت ابن عباس نبی اکرم ﷺ کا فرمان نقش کرتے ہیں کہ جس نے استغفار پر دوام القیار کیا حق تعالیٰ اس کو ہر غم اور تکلیف سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسے طور پر رزق دیتے ہیں جس کا اسکو گمان بھی نہیں ہوتا]

دلیل نمبر 5:- حضرت فضالہ بن عبید حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
”العبد آمن من عذاب الله ما استغفر لله عزوجل“
(ابن کثیر جلد 2 صفحہ 312)

[بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے۔ عذاب خداوندی سے محفوظ رہتا ہے]
پس سالک کو چاہئے کہ روزانہ استغفار پڑھنا اور اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونا لازمی سمجھے۔ ”اکمال الشیم“ میں لکھا ہے۔ اے دوست! تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، اور زندگی کی امید پر توبہ کو سوچ کرتے رہنا تیری عقل کا چراغِ گل ہونے کی دلیل ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبَةً نَصْوَحاً“ (التحريم: آیت 8)
[اے ایمان والوحق تعالیٰ کی طرف پکی پکی توبہ القیار کو]

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا:
”وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ“
(النور: آیت 31)

[اے ایمان والو! حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اگر تم کامیاب ہو جاؤ] ائمہ کرام کا اجماع ہے توبہ کے واجب ہونے پر، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے توبہ کے دروازوں کو کھلارکھا ہے۔ حتیٰ کہ غرگرة موت آجائے یا پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو

جائے۔

★ — ترمذی شریف کی روایت ہے:

”ان الله عزوجل يقبل توبه العبد مالم يغرن“

[حق تعالیٰ بندہ کے سکرات الموت میں جلا ہونے سے قبل اس کی توبہ قبول فرمائیتے ہیں]

★ — مسلم شریف کی روایت ہے:

”من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه“

[حق تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرتا]

★ — چنانچہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اسی طرح بخشتا جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

”النَّاصِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمْنَ لَا ذَنْبَ لَهُ“

[گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو]

★ — اگر اللہ تعالیٰ کو پیار آجائے تو نہ صرف گناہوں کو بخشتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

”فَأَوْلَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ“ (الفرقان: آیت 70)

[پس بھی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے]

★ — حضرت عمران بن حصینؓ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابیؓ نے ایسی چیز توبہ کی کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسْمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ سَعْتَهُمْ“

[اس شخص نے ایسی چیز توبہ کی ہے کہ اگر ستر آدمی جو مدینہؓ کے رہنے والے ہیں۔ تقسیم کر دیجائے تو ان کو کافی رہے]

★ — روایت ہے کہ ایک آدمی سحر میں سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ تحک کر سو گیا۔ جب جا کا تو دیکھا کہ او نئی کہیں چلی گئی ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود نہ ملی حتیٰ کہ اسے یقین ہو گیا کہ مجھے اس سحر میں شدت بھوک و پیاس سے موت آجائے گی۔ عین اس مایوسی کے عالم میں او نئی آگئی تودہ

شخص کئے لگا۔ "اللهم انت عبدی وانا ربك" [یا اللہ تو میرا بندہ میں تبارب] "اخطاء من شدة الفرح" [وہ شخص شدید خوشی کی وجہ سے غلط کہ بیٹا] بتتی خوشی اس سافر کو ہوئی اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ تاب ہوتا ہے۔

★ — بعض مشائخ سے مقول ہے کہ جب شیطان کو مردوں ہنا دیا گیا تو اس نے مملت مائی "رب فانظرنی الی یوم یبعثون" [یا اللہ مجھے قیامت تک مملت دے دے] اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فإنك من المنظرين الی یوم الوقت المعلوم" [جاتجہ وقت معین تک مملت دی گئی] پس سوچنے کی بات ہے کہ اگر شیطان ملعون کو مملت مل سکتی ہے تو امت محمدیہ کے گنگاروں کو کیوں نہیں مل سکتی۔

★ — تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 178 میں لکھا ہے۔

"وفي روایة قال ابليس وعزتك وجلالك لازال اغويتهم مادامت ارواحهم في اجسادهم فقال الله عزوجل عزتي وجلالي لازال اغفر لهم ما استغفرواني"

شیطان نے قسم کھا کر کما کہ اے اللہ! میں تیرے بندوں کو بکاؤں گا۔ "ولا تجدا کشراهم شکرین" (الاعراف: آیت 17) [اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان مانے والا نہ پائیں گے] جب شیطان نے برکانے کی قسمیں کھائیں تو رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ فرمایا "شیطان! تو میرے بندوں کو درغلانے کی قسمیں کھاتا ہے اب میری بات بھی سن لے۔ میرے بندے بستاصانے بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اگر موت سے پہلے پہلے توبہ کیلیں گے تو فیعزتی و جلالی" [مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا]

★ — ایک بوڑھے میاں کمیں جا رہے تھے کہ راستے میں چند نوجوان آپس میں بحث مبارش کرتے نظر آئے۔ قریب سے گزرنے لگے تو ایک نوجوان نے کہا بیا جی! ہمیں ایک مسئلہ بتا دو۔ ایک شخص جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے یادہ شخص جو بڑا گنگار ہو مگر اس نے چھی توبہ کیلیں ہو۔ دونوں میں سے کس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ بوڑھے میاں نے کہا پچھو!

میں کپڑا بنتا ہوں میرے لمبے دھاگے ہوتے ہیں جب کوئی ٹوٹے تو میں اس کو گرد لگاتا ہوں۔ تاہم اس پر نظر رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے کہ جس گنگار نے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد پھر توہ سے گانہ باندھی اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو، کہ یہ بندہ کہیں پھر نہ ٹوٹ جائے۔ "سبحان الله"

❷ — فرمایا گیا کہ اے میرے بندے! اگرچہ تمیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگرچہ تمیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے چوپ کے برابر ہیں، اگرچہ تمیرے گناہ ساری دنیا کی رہت کے ذرات کے برابر ہیں یا سارے سمندروں کی جھاگ کے برابر ہیں پھر بھی تمیرے گناہ ٹھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے تو آجاتوبہ کر لے میں تمیری توہ کو قبول کرلوں گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے میرے بندے! اگر توہ نے توہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توہ کی پھر توڑ بیٹھا، صد بار اگر توہ شکستی باز آ۔ اے میرے بندے توہ نے سو فحش توہ کی اور سو فحش توہ بیٹھا میرا دراب بھی کھلا ہے آ جاتوبہ کر لے میں تمیری توہ کو قبول کرلوں گا۔ حق کہا گیا۔
"امة مذنبة ورب غفور" [امت گنگار ہے اور رب کشم خشنار ہے]

(5) — تلاوت قرآن مجید

روزانہ ایک پارہ یا نصف پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔

قرآن مجید سے دلائل

ولیل نمبر 1:— ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"فَاقْرُأُ ما تِسْرِمِنَ الْقُرْآنَ" [قرآن پاک کی تلاوت کرو، جتنا قدر تم سے ہو سکے]
اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کی تقلیل میں مشائخ حضرات ساکھیں طریقت کو تلاوت قرآن پاک کی تلقین کرتے ہیں۔

ولیل نمبر 2:— ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوُنَهُ حَقْ تَلَاوَتِهِ" (البقرہ: آیت 121)

[جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ اسکی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں]

احاویث سے ولائل

دلیل نمبر 1: طبرانی نے جامع الصیفیر میں روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک محلی کو نصیحت کی۔

"او صیکھ بتقوی اللہ فانہ راس الامر کلہ و علیک بتلاوة القرآن و ذکر اللہ فانہ ذکر لک فی السمااء و نور لک فی الارض"

[میں تجھے خدا سے ذریتے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام امور کی جز ہے۔ اور تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم رکھ۔ کیونکہ یہ آسمان میں تیرے ذکر کا سبب ہیں اور زمین میں تحری برائیت کا]

دلیل نمبر 2: ایک حدیث حضرت ابوذرؓ سے منقول ہے:

"عن ابی ذرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوة القرآن فانہ نور لک فی الارض و ذخیر لک فی السمااء"

[فرمایا رسول اللہ ﷺ نے، تم پر تلاوت قرآن ضروری ہے۔ کیونکہ یہ تیرے لئے زمین میں ہدایت کا سبب ہے اور آسمان میں یہ تیار ذخیرہ (محی دورہ) ہے]

دلیل نمبر 3: یہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے:

"عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصداء كما يتصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول

الله ﷺ و ماجلاء ها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن"

[فرمایا نبی اکرم ﷺ نے ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح پانی لگتے سے لوہا زنگ آلوہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ﷺ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا موت کا ذکر کثرت سے کرو، اور تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرو]

دلیل نمبر 4: امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے:

”عن عبد الله بن عمرو بن العاص“ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بماة آية كتب من القانتين ومن قام بالف آية كتب من المقطنين“ (ابوداود جلد 1 صفحہ 205)

[حضرت عبد الله بن عمروؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس آدمی نے نفلوں میں کھڑے ہو کر دوس آیات پڑھیں، ایسا شخص غاظین میں شمار نہیں ہوا اور جس شخص نے سو آیات پڑھیں ایسا شخص عبادت گزار لوگوں میں شمار ہوا اور جس نے ایک ہزار آیات پڑھیں وہ اجر کے خزانے کو جمع کرنے والوں سے ہوا گا]

دلیل نمبر 5:- امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے:

”عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواية طويلة وفيه قال عليه الصلة
والسلام أقرء القرآن في كل شهر“

(بخاری جلد 1 صفحہ 755 ابوداود جلد 1 صفحہ 205)

[حضرت عبد الله ابن عمرؓ سے ایک بھی روایت ہے اور اس میں حضور ﷺ نے فرمایا ”کم از کم“ ایک ماہ میں قرآن کا ختم ضرور کو۔]

(6)۔ رابطہ شیخ

تمام معمولات کا اصل رابطہ شیخ ہے۔ دین سیکھنے کے لئے شیخ سے رابطہ رکھنا یعنی گاہے گاہے حاضر خدمت ہو کر، یا خط و کتابت یا میلی فون وغیرہ کے ذریعے اپنے حالات سے شیخ کو باخبر رکھنا اور ان کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی برکرنا۔

قرآن مجید سے دلیل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وابع سبیل من انبال الی“ (لقمان: آیت 15)

[ان لوگوں کے رست پر چلو، جو میری طرف رجوع کر چکے ہوں]

پیرو مرشد میں چونکہ انبابت الی اللہ کوٹ کوٹ بھری ہوتی ہے لہذا ان کی پیروی کرنا

آیات بالا کے مطابق حکم اللہ کی قیمتی ہے۔ اتباع کے لئے اطلاع ضروری ہوتی ہے اور اسی کو رابطہ شیخ کرتے ہیں۔

احادیث سے دلائل

دلیل نمبر 1: - حدیث پاک میں ہے:

”عن ابی هریرۃ“ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجُلُ عَلَیِ
دین خلیلہ فلینظر احدهم من يخالل“ (ابوداؤد، ترمذی)

[ہر شخص اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے پس اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس شخص سے دوستی کر رہا ہے]

حدیث بالا کے مطابق انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے پس سالک کو چاہئے کہ وہ شیخ کی محبت کو لازم پکڑے ان کو اپنا خلیل اور اپنا رہبر و رہنمای جانے تاکہ ان کی مانند دین کے رنگ میں رنگ جانا آسان ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ”لاتصاحب الامؤمنا“ [امیدوار کے علاوہ کسی اور کو دوست مت ہاؤ] یعنی صحبت شیخ اور رابطہ شیخ ہے۔

دلیل نمبر 2: - حدیث پاک میں ہے:

”المرء مع من احب“ (بخاری و مسلم)

[ہر شخص کا حشر و نشر اپنے محبوب کے ساتھ ہو گا]

یہ حدیث مبارک ساکھیں طریقت کی تعلیم کے لئے کافی وافی شیلنگ ہے۔ سالک اپنے شیخ سے رابطہ اگر مضبوط سے انباط ہائے گا، تو محبت بھی شدید پائے گا۔ یعنی علامت ہے قیامت کے دن ”المرء مع من احب“ کا مردہ جانفرما لئنچے کی۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ”انت مع من اجبت“ [تو اس کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ تو نے محبت کی] میں رابطہ شیخ ہی تمام معمولات کا خلاصہ اور نیچوڑ نہرا اور یعنی ”صراط الذین انعمت عليهم“ کی تفسیر

دلیل نمبر 3:- حدیث پاک میں ہے:

”عَلَيْكُم بِمِحَالَسِ الْعُلَمَاءِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِ الْحُكْمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْيِي الْقُلُوبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا تَحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَ بِمَاءِ الْمَطَرِ“ (الترغیب والترمیب)

[علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور دانا لوگوں کی ہاتھ سن کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور کی طرح مردہ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ جس طرح بغیر زین کو بارش کے پانی سے زندہ کرتے ہیں ۔]
صحبت شیخ میں وقت گزارنا اسی فرمان نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔

دلیل نمبر 4:- حضرت ابو سعیدؓ سے ایک حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا قصہ منقول ہے جس نے 100 قتل کئے پھر نام و شرمندہ ہوا تو کسی نے اسے صلحاء کی بستی میں جانے کے لئے بیوں کما۔

”انطلق إلی ارضِ کذاؤ کذافان بھا اناسا یعبدونَ اللہَ تَعَالَیٰ فَاعبُدُ اللہَ مَعْهُمْ“ (ریاض الصالحین)

[فلاں فلاں علاقہ میں جاؤ، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ ۔]

سالک جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہاں مریدین کا مجمع ”اناسا یعبدونَ اللہَ تَعَالَیٰ“ کا مدداق بن کر موجود ہوتا ہے پس اسے ”فَاعبُدُ اللہَ مَعْهُمْ“ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

عقلی دلیل:- جب کوئی مرضی ذاکر کے پاس جاتا ہے تو ذاکر مرض تشخیص کرنے کے بعد نجۃ اللہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گمراہیں اور اتنے اتنے دن یہ دوائی استعمال کریں۔ پھر مجھے آگر حقیقت سے آگو کریں۔ اسی طرح مرشد اپنے مرید کو بیعت کرنے کے بعد معمولات کا روشنی نسخہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گمراہ کار معمولات کی پابندی کریں اور گاہے بکاہے اپنے طلاق سے مطلع کرتے رہیں اسی کاہم رابطہ شیخ ہے۔

اشعار سے ولائیں:- شعراء امت نے رابطہ شیخ کی اہمیت میں جو اشعار کئے ہیں ان میں سے

چند ایک ہدیہ قارئین کے جاتے ہیں۔

ہر کہ خواہ بہمنی باخدا اوشند در حضور اولیاء

[جو اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی چاہتا ہے وہ اولیاء کے حضور میں بیٹھ جائے]

صحت صالح ترا صلح کند صحت طالع ترا طالع کند

[نیک لوگوں کی صحت تجھے نیک کرے گی اور بروں کی صحت تجھے برآ بنا دے گی]

گرتو سک خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل ری گوہر شوی

[اگر تو خارہ اور مرمر پتھر بن جائے جب کسی صاحب دل کی خدمت میں پہنچ جائے گا تو موئی بن جائے گا]

قال رابکدار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو

صد کتاب و صد در حق در نثار کن جان و دل را جانب دلدار کن

[قال کو چھوڑو حال پیدا کرو، کسی کامل شخص کے سامنے پامال ہو جاؤ تو صاحب حال بن جاؤ گے سو کتاب اور

سودرت کو آگ میں ڈال، دل اور جان کو دلدار کی طرف متوجہ کر]

گلے خوشبوئے در حمام روزی رسیداز دست محظی بدترم

بدو گفتہ تو منکی یا عنیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم

بگفتا من گل تاجیر بودم ولیکن مدته باکل نشتم

جمال بہمنیں در من اثر کرو و گرنہ من هن خاکم کہ مستم

[ایک دن حمام میں خوشبودار مٹی ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھے ملی، میں نے اس مٹی سے کماکر تو مٹک

ہے یا غیر کہ میں تمہری پیاری خوشبو سے مت ہوں اس نے جواب دیا کہ میں تو تاجیر مٹی تھی لیکن ایک مدت

تک پھول کی ہم نشین رہی ہوں میرے ہم نشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا اور نہ میں وہی حیرت مٹی ہوں جو

پلے تھی۔]

خدا یا کیا چھپا ہوتا ہے ال دل کے سینوں میں
جلا، دیتی ہے شمع کہنہ کوموج نفس انکی

پید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آسیتوں میں
نہ پوچھ ان خرد پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو

تندا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی

باب 10

معمولات شب و روز

★ — سالک کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں تجدیلیے اٹھے۔ حضرت یہودا صدیق اکبرؓ کا قول ہے ”حر خیری میں معنی سحر کا تمہ پر سبقت لے جانا تیرے لئے باعث نہ است ہے۔“ حضرت جینید بندادی ”انی وقت کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا ”سب کشف و کرامات اڑ گئے۔ بس رات کے آخری حصے کے چند نفل کام آئے۔“

حضرت خواجہ ابو سعید ابو الحیرؓ کی رباعی تجدیل کے بارے میں مشہور ہے۔

شب خیز کر مانگناں شب راز کنند گرد در و ہام دوست پرواز کنند
ہر جا کہ درے بود شب در بندند الا در دوست را کہ شب باز کنند
[رات کو انہوں نے کہ عشق رات کو رواز و نیاز کرتے ہیں دوست کے دروازے اور چھت کے اور گرد
پرواز کرتے ہیں۔ ہر جگہ کے دروازے رات کو بند کر دیئے جاتے ہیں سوائے دوست کے دروازے کے جسے
رات کو کھول دیتے ہیں]

★ — خواب سے بیدار ہونے کے بعد مسنون دعا پڑھے۔ بند جوتا ہو تو تمحاذ لے پسلے دایاں
پسندے پھر بیاں پسندے اور مسنون دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے بیت الملاع اور وضو سے فارغ ہو
(مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا بہت اہم ہے اس میں ہر گز سستی نہ کرے۔ اس سے
دوف قلبی رکھنے میں تقویت ملتی ہے۔)

★ — حضرت خواجہ عبد اللہ احرارؓ سے محتول ہے کہ بعد ازو غروب تین بار کہ
”خداوند! آنحضرت تو بارگشتم از ہر بدی و تقصیرے کہ بر من گزشتہ است“

[اے اللہ میں نے ہر اس گناہ اور خطاء توبہ کی جس کا میں مر جکب ہو چکا ہوں]

اس دعا کا مقصود توبہ و استغفار ہے مگر ظاہری وضو کے ساتھ باطنی طہارت بھی نصیب ہو اس سے نماز میں "ان تعیدالله کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک" کی کیفیات نصیب ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ صوفیہ کامستائے مقصد یہی ہے۔

★ — ہر مرتبہ وضو کرنے کے بعد دو رکعت صلوٰۃ تہجیۃ الوضو پڑھا کرے۔ منقول ہے کہ معراج کے وقت نبی علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال "کے چلنے کی آواز سنی۔ واپسی پر دریافت کیا تو پہتہ چلا کہ تہجیۃ الوضو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکفرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے۔

★ — نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ چار رکعت، آٹھ رکعت یا بارہ رکعت تجدہ ادا کرے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف ہدائی "کا معمول تھا کہ پہلے دو گانہ میں آیت الکرسی والا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے۔ پھر آٹھ رکعت میں دس دس آیات پڑھ کر سورۃ یسین مکمل کرتے۔ آخری دو رکعت میں تین تین بار سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ (حضرت خواجہ ابو یوسف ہدائی" کی صحبت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی" اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی احمدی" نے نیضان پایا۔ آپ ان دونوں حضرات کے پیر تعلیم کملاتے ہیں۔)

حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتی فرمیا کرتے تھے "تجدہ کی نماز میں سورۃ یسین پڑھنے پر تین دل ملتے ہیں۔"

"رات کا دل یعنی آخری پر، قرآن کا دل یعنی سورۃ یسین، انسان کا دل، ان تین دلوں کا اجتماع قبولیت دعا کا سبب بتاتا ہے۔"

★ — حضرت خواجہ عبید اللہ احرار" کا قول ہے "اگر کبھی تجدہ ترک ہو جائے تو دوسرے دن نفس النہار سے پہلے نفل پڑھ لے۔ جس سالک کو اٹھنے کا لیقین نہ ہو وہ نوافل پڑھ کر سوئے۔"

★ — حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری "تجدہ کی دعائیں درج ذیل اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آورہ ام	یا اللہ العالمین بار گناہ آورہ ام
بر درت زین بار خود پشت دو تاہ آورہ ام	عجز و زاری بر در عالم پناہ آورہ ام

من نبی گویم کہ بودم سالما در راه تو
چار چیز آورده ام شلبا که در گنج تو نیست
نیست و حاجت و عذر و گناه آورده ام
دل و درویشی و دلشی و بے خویشی بهم
ایس ہمس بر دعویی عشقت گواہ آورده ام
زانکه از شرمندگی روئے سیاہ آورده ام
چشم رحمت برکشا موئے سفید من بہ میں
[چونکہ آپ کی درگاہ میں اپنے آپ کو پناہ میں لے آیا ہوں۔ یا اللہ العالمین گناہ کا بوجھ لے آیا ہوں۔
تمہرے در پر اپنے اس بوجھ کی وجہ سے اپنی کرد و فکرے کر کے لے آیا ہوں۔ عالم کو پناہ دینے والے کے در پر
بغزو زاری لے کر آیا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سالما تیری راہ میں تھامیں وہی گراہ ہوں کہ اب راہ کی طرف
رخ کر کے آیا ہوں۔ چاروہ چیزیں لے کر آیا ہوں۔ اے باشاہ جو آپ کے خزانہ میں نہیں ہے۔ عدم و
حاجت و عذر و گناہ لے کر آیا ہوں۔ دل اور فقیری اور زخمی دل اور سبے یارو مدگاری ان سب کو تمہرے عشق
کے دعویی پر گواہ لے کر آیا ہوں۔ رحمت کی نگاہ فرمائیں اور میرے سفید بالوں کو دیکھیں۔ اس لئے کہ
شرمندگی سے سیاہ چڑھ لے کر آیا ہوں]

کبھی کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے منسوب "دعائے صدیق" یا "مناجات صدیق"
بھی پڑھ لیا کرے۔

دعا سے فراغت پر سو مرتبہ استغفار اور سو مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کسی نے شیخ العرب
والجم حضرت مولانا عبد الغفور عباسی" سے پوچھا "استغفار پہلے پڑھیں کہ درود شریف"۔ فرمایا کہ
استغفار کی مثال کپڑے دھونے والے صابن کی سی ہے۔ جبکہ درود شریف کی مثال کپڑے پر
لگانے والے عطر کی سی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کپڑے کو پہلے عطر لگائیں یا صابن سے دھوئیں؟
سائل نے عرض کیا "حضرت پہلے صابن سے دھونا چاہیے پھر عطر لگانا چاہیے"۔ فرمایا "بس اسی
طرح پہلے خوب نادم و شرمندہ ہو کر استغفار پڑھیں تاکہ دل دھل جائے پھر محبت و عقیدت سے
درود شریف پڑھیں تاکہ عطر لگے اور محبت رسول" کی خوشبو انگل انگ میں سا جائے۔"

تسیمات کے بعد ذکر و مراقبہ یعنی جو سبق شیخ نے تلقین کیا ہو اس میں مشغول ہو جائے اور
خطرات کو دور کرتے ہوئے پوری توجہ سے مراقبہ کرے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری
نے حضرت مولانا محمد یعقوب چرخی" کو نصیحت کی تھی۔

”پیش از صبح سبق باطن مشغول باشی“

[نجی سے پہلے باطنی سبق میں مشغول ہو جائیا کریں]

★ — نماز مجھ کی دو سنتیں گھر پر ادا کرے کہ یہ بھی سنت ہے پھر فرض نماز یا جماعت عجیب اولی سے ادا کرنے کیلئے مسجد جائے۔ فرض نمازوں میں عجیب اولی کی حفاظت کرنا اپنے اوپر لازم سمجھ کر صلحاء کا شعار ہے۔ ہمارے سلسلہ علیہ کے مشائخ کی عجیب اولی کئی کئی تک فوت نہیں ہوتی تھی۔

★ — مسجد میں مسنون دعائیں پڑھ کر داخل ہو۔ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ مسجد میں دنیا کی باشن کرنا سخت برائے سمجھے۔ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے تاکہ کامل یکسوئی نصیب ہو۔

★ — ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، تیراکلہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی، فجر اور مغرب کے بعد سات مرتبہ ”اللهم اجرنی من النار“ دس مرتبہ ”اللهم اغفرلی و لله ممنین والمرء من الناطق والمرء المسلط والمسلمات“ حضرت مرشد عالم اس معمول کی پابندی فرماتے تھے۔

★ — اس کے بعد ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ حفاظ اپنی منزل کے حلب سے پڑھیں۔ سورۃ شیعین روزانہ پڑھنے کا معمول ہتا ہے۔

★ — جب سورج ایک یا دو نیزے کی قدر بلند ہو جائے تو چار رکعت نماز اشراق ادا کرے۔ اس پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب چرفی ”فرماتے تھے۔ اشراق کے بعد دس مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھیں۔ یہ وصیت انہیں حضرت سیف الدین باخوزی نے کی تھی۔ (رسالہ النبیہ ص 33)

★ — مشائخ بخارا کا معمول ہے کہ اشراق کے نوافل میں استخارہ کی نیت بھی شامل کرتے ہیں۔ بعد میں تھوڑی دیرینہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پورے دن کے عملات کو واضح فرمائے۔ مزید برآل ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھ کر نبی علیہ السلام اور جمیع

مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔

★ — اس کے بعد جو شخص علم پڑھنے پاڑھانے کا شغل رکھتا ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے۔ اگر تاجر یا ملازم ہو تو شرعی مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی یاد کو لازم پکڑے تاکہ ”رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله“ پر عمل نصیب ہو۔ اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یعنی ہاتھ کام کا ج میں مشغول دل یادِ خدا میں مشغول۔

★ — جب سورج خوب اونچا ہو جائے تو چار رکعت نو افل چاشت ادا کرے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا فرمان ہے۔

”چاشت کی پہلی رکعت میں والشمس و ضحها۔ دوسری میں واللیل اذا یغشی تمیزی میں والضھی اور چوتھی میں الام نشرح پڑھے۔“

(رسالہ انفاس نفیہ ص 7)

★ — جو حضرات دنیاوی مشاغل کی وجہ سے یادفتری پابندی کی وجہ سے با مر جبوری نماز چاشت نہ پڑھ سکتے ہوں وہ اشراق کے وقت دو رکعت نماز اشراق اور چار رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لیں۔ فی زمان یہی معقول ہتر ہے۔

★ — دوپر کا کھانا کھانے کے بعد گنجائش ہو تو قیلولہ کرے کیونکہ سنت رسول مقبول ﷺ ہے۔ اس سے تجد کی پابندی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آفتاب ڈھل جائے تو ظهر نماز کی چار نیتیں گھر پر پڑھے جبکہ فرض باجماعت ادا کرے۔

★ — حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا فرمان ہے کہ ظہر کے بعد تین مرتبہ گلمہ باز گشت پڑھیں۔ ”خداوند اقصود من توفی و رضاۓ تو۔ مراجحت و معرفت ذوق و شوق خود بدہ“

(رسالہ انفاس نفیہ ص 84)

★ — ظہر کے بعد پھر کام کا ج میں مشغول ہو جائے۔ فرست ہو تو حسب اجازت شیخ دلائل ایخیات یا حزب الحرم وغیرہ پڑھ کر ایک مرتبہ شجرہ شریف پڑھ لے۔ وقت میں گنجائش ہو تو حدیث و فقہ کی کتب یا تصوف کی کتابیں خصوصاً مکتوبات امام ربانی اور مکتوبات معصومیہ و حالات مشائخ

سلسلہ نقشبندیہ وغیرہ پڑھے۔ بعض مثالیخ کا معمول ظہر کے بعد سورۃ فتح پڑھنے کا بھی ہے۔

★ — نماز عصر کے بعد اور ادو و طائف میں مشغول ہو جائے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری ”کافرمان ہے کہ سالک اپنے طائف پر حسب ذیل ترتیب سے مراقبہ کرے۔

”لطیفہ قلب پر اسم اللہ 5000 مرتبہ۔ لطیفہ روح پر 1000 مرتبہ۔ لطیفہ سر پر 1000

مرتبہ۔ لطیفہ خفی پر 1000 مرتبہ۔ لطیفہ اخنی پر 1000 مرتبہ۔ لطیفہ نفس پر 2000

مرتبہ۔ لطیفہ قلب 1000 مرتبہ یعنی کل 12000 مرتبہ ذکر اسم ذات کرے۔“

★ — نماز مغرب باجماعت ادا کر کے چھ سے پارہ رکعت نماز اوایمین کی نیت سے پڑھے۔ اس کے بعد سورۃ واقعہ اور سورۃ الْمُجْدہ اور سورۃ دخان کی تلاوت کرے۔

★ — پھر کھانے پینے سے فارغ ہو کر عشاکی نماز باجماعت ادا کرے۔ 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر سورۃ ملک پڑھے۔


★ — حضرت مرشد عالم کا معمول تھا کہ ایک مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکری، ایک ایک مرتبہ چاروں قل پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے گرد حصار بناتے، پھر رات کو سویا کرتے تھے۔ یہ حفاظت کیلئے بہت مفید ہے۔

★ — سالک کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری، معوذ تین اور تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کرے۔ جمع کے دن صلوٰۃ استیعن پڑھے۔ اخیر عشہ رمضان میں اعتکاف کی کوشش کرے۔ نصف شعبان، یلیتہ القدر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کا قیام کرنے کی کوشش کرے۔

★ — ایام بیض (13 - 14 - 15) ماہ قمری حساب سے روزہ رکھنا، شوال کے چھ روزے، ماہ ذوالحجہ کی نویں تک نو روزے، یوم عاشورہ، پندرہویں شعبان، آٹھ روزے اول ماہ ربیع و شعبان کے رکھنے کی کوشش کرے۔ مجرد ہو تو نظی روزے خوب رکھے۔ ایک دن روزہ ایک دن اظفار بفترن عمل ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

★ — اگر قضا نمازیں اور روزے وغیرہ ذمہ باقی ہو تو پہلے ادا کرنے لازمی ہیں۔ مختلف مواقع کی منسون دعائیں یاد کر کے موقعہ بہ موقعہ پڑھتا رہے۔

- — اپنی روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا خیال رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قویِ مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے مثال نجح یا شام جو وقت مناسب ہوتا چل قدمی کیا کرتے ہیں۔
- ★ — اگر معلولات میں کمی بیشی چاہے تو اپنے شیخ کی اجازت سے کرے۔



باب ۱۱

معارف و حقائق

نوٹ:- ساکتین طریقت کی افادت کیلئے تصوف کی معتبر کتابوں سے اخذ شدہ معارف و حقائق قلمبرد کئے گئے ہیں۔

دنیا:-

★ ایک شخص نے رابعہ بصرہ "کے پاس دنیا کی برائی کا تذکرہ کیا، فرمایا، آئندہ میرے پاس نہ آنا تھیں دنیا سے بست محبت ہے۔

★ جو مادی دنیا کا سفر کرے اس کے پاؤں پہ آبلے اور جو روحانی دنیا کا سفر کرے اس کے دل پہ آبلے۔

★ دنیا سے اتنا تعلق رکھو جتنا بیت الخلا سے حاجت کے وقت رکھا جاتا ہے۔

★ طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی مانند ہے جتنا پے اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے۔

★ ایک بادشاہ نے کماے فقیر! مانگ کیا مانگتا ہے؟ فقیر نے کہا "میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں؟" بادشاہ نے پوچھا "کیا مطلب؟" کہا "دنیا میری غلام اور آپ دنیا کے غلام۔"

★ بعض لوگوں نے ذوالون منصري" سے کمالاں جماعت شغل و طرب میں مشغول ہے، بد دعا کریں۔ فرمایا اللہ! جیسے انسیں دنیا میں خوشیاں دیں آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرم۔

★ دنیا کی حقیقت ایسے ہے جیسے پاخانہ کو چاندی کا ورق لگا دیں یا برصیا کو زرق برق کپڑے پہنادیں۔

★ اگر کوئی اہل دنیا کی تعظیم کرے تو کوئی عجیب بات ہے لوگ تو سانپ اور بچوں کو دیکھ کر

بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔

★ — اگر کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو اگر دنیا نہیں ہوگی تو دین بھی نہیں ہوگا۔

دل:-

★ — دل غیر سے خالی اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو ہر اسم "اسم اعظم" ہوتا ہے۔

★ — لقمان حکیم" نے فرمایا "میں چاند اور سورج کی روشنی میں پورش پاتا رہا مگر دل کی روشنی سے بڑھ کر کسی کو سود مند نہ پایا۔"

★ — دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں۔

★ — جس گھر میں آرائش نہ ہو بگڑ جاتا ہے اسی طرح جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جاتا ہے۔

★ — "یحییٰ بن معاذ" نے فرمایا "دل ہندیا کی مانند ہے جبکہ زبان چچے کی مانند۔ چچے وہی نکالتا ہے جو ہندیا میں ہوتا ہے۔"

★ — حضرت علیؓ سے پوچھا گیا افضل چیز کیا ہے؟ فرمایا "غناۃ القلب" یعنی دل غنی ہونا چاہیے۔

★ — قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنا مومن کا دل خوش کرنے کی۔

عبدات:-

★ — دو چیزوں پر لے عبادت تھیں اب عادت بن گئی ہیں۔ ایک نکاح دوسرا طعام۔

★ — نماز میں جی نہ لگنے کی وجہ ایسے ہے جیسے چڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا عطر کی دکان پر جائے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔

★ — اول حضوری نماز کی یہ ہے کہ معاف سمجھ کر نماز پڑھے۔

★ — ایک بقال نے ۲۳ سال روزے رکھے گھروالے سمجھتے دن کا کھانا دکان پر کھاتا ہوگا۔ دکان والے سمجھتے تھے گھر سے کھا کر آتا ہوگا۔ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا۔ اسے اخلاص کرتے ہیں۔

★ — جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔

★ — تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں آ جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔

★ — خیالات محمودہ مثلاً عظمت اللہ، قبر، حشر اور جنت وغیرہ کا خیال نماز میں آئے تو خشوع کے منانی نہیں حضرت عمر بن حیثی نماز میں جہاد کی صفائی درست کرتے تھے۔

★ — حضرت ناؤتوی "فرماتے تھے کہ مجر اسود کسوٹی ہے۔ حج و عمرہ کے بعد نیکی غالب ہو تو خیر اگر شر غالب ہو تو بتاہی ہے۔

★ — نماز میں انسان اشرف الاعضاء (چہرے) کو اخض الایشاء (زمین) پر نیک رہتا ہے۔ اسی لئے نماز کو معراج مومن کہا گیا ہے۔

توبہ:-

★ — گناہ کا آغاز کمثری کے جالے کی طرح اور انجمام جہاز کے لفڑکی طرح ہوتا ہے۔

★ — جو گناہ پر پچھتائے اسے ولی سمجھو۔ جو پرواہ نہ کرے گناہگار انسان سمجھو جو گناہ کر کے اڑائے اسے شیطان سمجھو۔

★ — گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔

★ — اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لئے دروازے بند کر گے تو چبھی باہر ہی رہ جائے گا۔

★ — عنایت اللہ کی دو صورتیں ہیں اول معصیت سے پہلے عصمت دوسرا معصیت کے بعد میں توبہ نصیب ہونا۔

★ — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں نیاز کرے۔

★ — صدق دل سے توبہ کی علامت یہ ہے کہ اس جرم میں متمم نہیں کیا جاتا۔

★ — کوئی شخص ایسا نہیں کر جس نے کمرہ چیز چھوڑی ہو اور اسے شریف چیز نہ ملی ہو۔

★ — حضرت ابراہیم تھی "نے کہا "اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس

طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔

★ — اس نیت سے گناہ کرنا کہ دوچار دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا بہت بڑی غلطی ہے۔

★ — جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے اسی طرح انسان کو اپنی برائیاں ورنی معلوم نہیں ہوتیں۔

★ — واعظ کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے ماکہ شکر کریں، اپنے گناہ یاد دلائے ماکہ توبہ کریں۔ نفس و شیطان کی عداوت یاد دلائے ماکہ نفع سکیں۔

★ — نفس میں دیا سلاسلی کی طرح سارے خباث پوشیدہ ہوتے ہیں۔ رگز لگانے کی دیر ہوتی ہے گناہوں کی آگ بھڑک اُختی ہے۔

شیخ اور مرید:-

★ — مرید صادق کو مرشد کی خاموشی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہ نسبت گفتار کے۔

★ — بعض مرتبہ مثلاً نجی پر حال وارد ہوتا ہے تو فوراً توجہ دیتے ہیں جیسے آلم پاکیں تو جوش دیتے وقت ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس میں قوت پیدا ہوتی ہے اتار لو تو ثحیک ورنہ قوت کم ہو جاتی ہے۔

★ — ایک شیخ کے مرید زیادہ دوسرے کے کم، مثال ایسے ہی ہے جیسے دو نوجوان ایک صاحب اولاد اور دوسرا بانجھ مگر جو لیست (قوت مردی) دونوں میں ایک جیسی۔

★ — مرید پیر سے ایسے فیض حاصل کرتا ہے جیسے لوگ شد کی مکھی سے شد نکلتے ہیں۔

★ — شیخ کو چاہیے کہ دو بالوں کی تلقین کرے: (۱) اخلاق کی درستگی (۲) بقدر ضرورت علم۔

★ — بد نظری کرتے وقت سوچے کہ اگر شیخ دیکھ رہے ہوتے تو پھر نہ کرتا، اسی طرح اللہ کا لحاظ کرے۔

★ — ایک غافل نے کسی شیخ سے کہا کہ آپ کا مرید ریائی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس تمہماً چاغ ہے لہذا بخشش کی امید ہے۔ آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں۔

★ — جس نے معقولات میں پابندی حاصل کی اس پر رحمت ہو گئی۔ فرحت قلب اس کی

لوہڈی ہے جو خود بخود مل جائے گی۔

★ — ساک کو چاہیے کہ ضرورت پوری کرے لذت کے بیچھے نہ پڑے۔ جیسے کسی نے خوبصورت عورت دیکھی تو حکم ہے کہ یہوی سے ہبستری کو ضرورت پوری ہوئی اللہ اللہ خیر سلا۔

★ — مجذوب گو مقبول مگر کامل نہیں ہوتا۔

★ — نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہارے لیے بمنزہ والد کے ہوں لہذا شیخ روحانی باپ اور اسکی یہوی ماں کی مانند ہوتی ہے۔

★ — حضرت حاجی امداد اللہ مساجد کی "فرماتے تھے کہ جو شخص بیعت کی تمنا غافر کرے میں اسکو اس لئے مرید کر لیتا ہوں کہ پیر کو قیامت کے دن جہنم جاتا دیکھ کر مرید ترس کھائے گا۔ شاید اسی برکت سے بخشنا جاؤں۔"

★ — ایک شخص نے کسی بزرگ کو بدیہی دے کر دعا کی درخواست کی فرمایا "بدیہی واپس لے جاؤ، یہ دعا کی دکان نہیں ہے۔"

★ — شیخ کی مٹھی چاپی کرتے ہوئے سنت کی نیت کی جائے کیونکہ احادیث سے ثابت ہے جبکہ صریح تبلیغات سے ثابت نہیں لہذا بدن کی ضرورت کی نیت کرنی بہتر ہے۔

★ — شیخ گھنگار مرید کو یوں سمجھے کہ کسی حسین نے چہرے پر سیاہی لگالی ہے اگر دھوئے تو چاند سا چہرہ نکل آئے گا۔

★ — عارف حق تعالیٰ کی شیوهں و تجليات کی پوری رعایت کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے جملی محبویت کا غلبہ دیکھا کہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں میں نازکوں۔ تو فرمایا اللہم ان تھلک هذه العصابة لم تعبد بعد الیوم [اے اللہ! اگر تو نے اس جماعت کو بلاک کر دیا تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی]

★ — حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حق تعالیٰ صبر دیکھنا چاہتے ہیں شفاء کی دعائے کی۔ جب منکشf ہوا کہ اطمینان عبدیت چاہتے ہیں فوراً کہا ۔ انى مسنی الشيطان بنسب وعداب [شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے]

★ — شیخ کو زبان بننا چاہیے اور مرید کو کلن۔ شیخ کو چاہیے کہ عام مریدوں کو خانگی معاملات سے مطلع نہ کریں نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔

★ — الفانی لا یرد [فانی والیں نہیں لوٹا] کی مثل ایسے ہے جیسے بالغ آدمی مبالغہ نہیں ہو سکتا اور پکا ہوا پھل کپا نہیں ہو سکتے۔

تقویٰ:-

★ — تقویٰ یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گیریاں نہ پکڑے۔

★ — تقویٰ یہ ہے کہ دل کی تمناؤں کو جسم کر کے طشتري میں رکھیں اور سرباز اور پھر اسیں تو نداشت نہ ہو۔

★ — ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ سلف صالحین نے اپنے علم و تقویٰ کے باوجود اس سے پناہ مانگی تھی۔

★ — دسوں کا آنارحمت ہے خلاف تقویٰ نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ عجب کی جڑ کنٹی ہے۔

ذلک صریح الایمان

★ — ولایت کا تعلق ایمان و تقویٰ سے اور دونوں کا تعلق دل سے ہے۔

★ — تقویٰ کے بغیر ترقی کا ہونا بے روح جسم پھولنے کی ماں ہے لاش پھول کر پھٹتی ہے تو پوری مستی کو بدیوار بنا ریتی ہے۔

ذکرو مراقبہ:-

★ — سالک کو مراقبہ میں اس طرح سکون ملتا ہے جیسے بچے کو ماں کی گود میں پیچ کر ملتا ہے۔

★ — کنوں کھو دیں تو پسلے مٹی ریت لکھتی ہے بعد میں پانی۔ اسی طرح مبتدی کو مراقبہ میں پسلے وساوس آتے ہیں پھر یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔

★ — سالک کا حال خوابیدہ شخص کی ماں ہوتا ہے جسے جانگنے پر پتہ چلتا ہے کہ محظوظ چلی پاس ہی تھا۔

★ — ذکر کی مستی خیال مستی کو کم کر دیتی ہے۔

- ★ — اذان کے وقت ذکر سے ہٹ کر اذان کے کلمات کا جواب دینا افضل ہے۔
- ★ — اگر مراقبہ میں جی نہ لگے تو ایک دن مراقبہ اور ایک دن نافذ کرے۔

دعا:-

- ★ — حقیقی دعا وہ ہے جو جسم کے انگ انگ سے نکلے۔
- ★ — شیخ عثمان خیر آبادی ”گاہوں کو کھونے سکوں کے بدالے میں بھی مال دے دیتے تھے۔ مرتبے وقت دعا مانگی کہ میں نے لوگوں کے کھونے سکے قبول کئے۔ اے اللہ! تو میرے کھونے مغلوں کو قبول فرمائ۔ پس دعا قبول ہوئی۔

- ★ — شیخ شاہاب الدین ”خطیب دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مرتبے وقت کوئی پاس نہ ہو، نہ اپنا نہ پرایا نہ ہی ملک الموت۔ بس میں اور تو۔

- ★ — مناسب وقت پر دعا بلا کو ناتی ہے نزول کے بعد مصیبت ختم نہیں ہوتی کم ہوتی ہے۔
- ★ — اگر تو جذبہ کامل کے ساتھ سمندر کے کنارے دعا کرے گا تو موجودین تیرے سامنے موتیوں بھری ہوئی صدف لائیں گی۔

- ★ — ابوالحسن نوری ”کی دعا۔ اے اللہ! اگر میری مغفرت نہیں کرنی تو جنم کو مجھ سے بھر دے اور باقی سب انسانوں کی مغفرت فرادے۔“

- ★ — دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کئے گا اے اللہ! میں نے تو دعا کی تھی مجھے نیک بنا، پس معدود سمجھا جائے گا۔

- ★ — جس سے حد ہواں کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔

علم و عمل:-

- ★ — اخلاص یہ ہے کہ انسان اعمال کا بدلہ نہ لے۔
- ★ — بے عمل عالم پارس کی طرح ہے جو اوروں کو سونا بنتا ہے خود پھری رہتا ہے۔
- ★ — بے عمل عالم کی مثال اس مریض کی ماں ہے جس کے پاس دوا ہو استعمال نہ کرے۔
- ★ — جس طرح چراغ جلانے بغیر روشنی نہیں دیتا علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔

★ — عالم بے عمل بچج کی ماند ہے جو رنگ برلنے کھانوں میں رہے مگر زائد تھے سے ناواقف رہتا ہے۔

★ — علم کا پڑھنا اور اس کا پڑھنا بے فائدہ ہے جب تک خوف خدا بھی نہ ہو۔

★ — محنت ہمارے ہاتھ میں ہے نصیب خدا کے ہاتھ میں۔ ہمیں اسی سے کام لینا چاہئے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔

★ — بے کار انسان مردے سے بھی بدتر ہے کیونکہ مردہ کم جگہ روکتا ہے۔

★ — حضرت بازیزد سلطانی ”کا قول ہے کہ میں نے تیس سال مجاہدہ کیا مگر علم پر عمل سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں دیکھی۔

★ — قاضی یضاوی ”نے شیراز کی قضاۓ لئے کسی بزرگ سے سفارش کروائی انہوں نے سفارشی رفتے میں لکھایہ مرد صاحب عالم فاضل ہے۔ جنم میں ایک مصلیٰ کی جگہ چاہتا ہے۔

★ — جس طرح خلوق کیلئے عمل کرنا ریا ہے اسی طرح خلوق کیلئے عمل ترک کرنا بھی ریا ہے۔

★ — عالم بد عمل پر اعتراض کا حق نہیں، اس لئے کہ وہ علم کامدی ہے عمل کا نہیں۔

★ — حضرت عمر بن بشیر نے فرمایا ”ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت وہ کرے جو فقیر ہو، سماں اللہ، سارے ملک کو درستگاہ بنادیا۔

برائے علمائے کرام:-

★ — نفس کی سرکشی کو توڑنا اماظطۃ الاذی عن الطريق میں داخل ہے۔

★ — آج کا عام روحانی مرض ہے یا لیت لنا مثال ماؤ تی قارون انه لذو حظ عظیم۔

★ — البداية و النهاية میں ہے کہ لوگ صحابہ کرام ”کی بڑی کرامت اسے سمجھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی و قاص کا لفکر دریائے وجہہ عبور کر گیا۔ محققین کے نزدیک صحابہ کرام ”کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قیصر و کسری کی دولت کے دریائے تو وہ اس میں سے ایمان کو بچا کر گزر گئے۔

- ★ — تقبیدی، پختی وغیرہ نسبت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملة آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب حلالکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت کے قرع تھے۔
- ★ — قل ان کان آباو کم کی تفسیر ہے کہ جب اعلیٰ سامنے آئے تو ادنیٰ سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔
- ★ — جس سے محبت ہو اس کا نام آئے تو نفس نیز ہو جاتی ہے۔ یہی معنی و جلت قلوبہم کا ہے۔
- ★ — ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا كفران لسعيه وآنا له كاتبون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ قربان جائیں اس عزت افزائی پر۔
- ★ — بغير معصية کے کوئی نعمت چھن جائے تو بہتر ملتی ہے۔ ماننسخ من آية اونسیهانات بخیر منها او مثلها اسکی دلیل ہے۔
- ★ — کسی نے حضرت خواجہ بازیزدہ سطائی ”سے کہا آپ بھوک کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں فرمایا ”اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ریسکم الاعلى نہ کھتا۔“
- ★ — علماء کادرس نظامی کا نصاب آخر سالہ ہوتا ہے سند یہ ہے کہ حضرت شعیبؑ کی خدمت میں حضرت موسیؐ کے رہنے کا عمد آخر سالہ ہے لیکن تھمیں کے لیے اتممت عشراف من عند کک۔
- ★ — ہذا کی طرف اولاد کی نسبت جائز ہے۔ و من ذریته داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و ذکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین۔
- ★ — بعض اسلاف کے چراغ کے نیل کا خرچ زیادہ ہوتا ہوا اور کھانے کا خرچ کم ہوتا تھا۔
- ★ — بے عمل علماء کے لئے عجیب تنبیہ ہے فرمایا نبذ فریق من الذین او تو

الكتاب كتاب الله و راء ظهورهم۔

● — الام باقرؑ سے فمن يکفر بالطاغوت ويؤمن بالله کی تغیریو چی ائمہ کما
کل من شغلک من مطالعۃ الحق فهو طاغوتک۔

● — حضرت حبیب چبی ”کا قول ہے۔ ”خدا کی رضا ایسے دل میں ہے لیس فیہ غبار
النفاق۔ [جس میں نفاق کا ذرہ بھی نہ ہو]

● — حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا السکون حرام علی قلوب الاولیاء۔

● — حدیث: من کشر صلوٰتہ باللیل حسن وجهہ بالنهار۔ [بورات میں
کثرت سے نماز پڑھے کا دن میں اس کے چہرے پر نور بھی زیادہ ہو گا]

● — عبودیت کی شان ہے۔ اُنی ظلمت نفسی اور مجبود کی شان ہے یا عباد
لا خوف عليکم الیوم۔

● — خواجه بایزید مطائی ”نے فرمایا ”محبت یہ ہے کہ جو کچھ محب دے اسے تھوڑا جانے اور جو
کچھ محبوب دے اسے زیادہ جانے مثلاً اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متعال الدنیا قلیل کما اور
والذَاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا يَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَوْ أَنْتَ مُحْبٌْ تَلُوقُ سَعْيَتُكِي دُلِيلٌ هے۔“

● — ويزيد فی الخلق ما يشاء سے مراد خوش آوازی ہے۔

● — شاہ مینا شرح و قایہ پڑھتے تھے جب کتاب الزکوٰۃ پر پہنچے تو چھوڑ دیا۔ استلو نے پوچھا
کیوں؟ کہا علم کا مقصد عمل ہے۔ صوم و نصلوة فرض ہیں پس ان کا علم ضروری ہے۔ جب زکوٰۃ
فرض ہو گی تو مسائل سیکھے لوں گا۔ سبحان اللہ پسلے لوگ جتنا پڑھتے جاتے تھے اتنا عمل بھی کرتے
جاتے تھے۔

● — ایک مرتبہ شیخ الاسلام عز الدین ابن عبد السلام سے کسی نے کہا کہ پادشاہ کے ہاتھ
چوں۔ حضرت نے فرمایا ”خدا کی قسم، اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا ہاتھ چوے چے
جائیکے میں اس کے ہاتھ چوں۔“

● — حضرت مرتضیٰ مظہر جان جانش” کو پادشاہ وقت نے بڑی جاگیر پیش کی فرمایا ”الله تعالیٰ نے

ساری دنیا کو مساعی الدنیا قليل کما اسی قليل میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کو ملا ہے۔ اب اس میں سے بھی تھوڑا سا حصہ آپ مجھے دیں گے تو اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔

★ — ایک بزرگ کسی امیر کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے۔ امیر نے کہا انہیں دینار بھری تھیں دے دو۔ فرمایا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ سمیٹ لیا کرتا ہے۔

★ — عطر لگاتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو فرمایا گیا ہے۔ من تطیب لله فله اجر [جو اللہ کیلئے خوشبو لگائے اسکے لئے اجر ہے]

★ — ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اذا هم مبصرون میں الہ سلوک کے لئے بڑی تسلی ہے۔

★ — ایک گلزاری پیچنے والے نے آواز لگائی الخیار العشرہ بدائق۔ حضرت شمسی نے جیتی ماری کہ جب دس خیار کی یہ قیمت ہے تو ہم اشار کی کیا قیمت ہو گی۔

★ — احوال و مواجهیں کے متعلق حضرت جنیدؒ کا قول ہے تلک خیالات تربی بہا اطفال الطریقة۔

★ — ایک صحابیؓ کی زبان سے کلام اشاء اللہ و شلت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلتني لله نداء بل ماشاء الله وحده۔

★ — تلک آیات الکتب و قرآن مبین۔ پلے ہے میں کتاب کی حفاظت اور دوسرے میں سمجھ کر پڑھنے کی تلقین۔ یہ کہنا تقطیل ہے کہ بدون سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے۔

★ — اللہ تعالیٰ کو بندرے کا ایسی مطلوب ہے اور یوں اللہ بکم الیسر کا یہی مطلب ہے۔

★ — یادوں رہم خوفاو طمعا میں عجیب تعلیم دی یعنی عبادت کو ایسا کامل نہ سمجھو کہ نازکرنے لگو نہ ایسا ناقص کہ بے کار سمجھنے لگو۔

★ — انسان کو آئندہ کی خبر نہ دینا حق تعالیٰ کی رحمت ہے ولو اتبع الحق اهواء ہم لفسدات السموات والارض۔

★ — ایک شعر سن کر حضرت ابو الحسن نوریؒ پر حال پر الگوں نے حضرت جعینؓ سے کہا آپ پر حال کیوں نہ ہوا فرمایا تو رئی الجبال تحسیبہا جامدة

★ — انزل من السماء ماء فسالت او دية بقدرها [اس نے آسمان سے پانی
نازل فرمایا۔ چنانچہ اس کے مطابق راویاں بنے لگیں] اس آیت میں چاروں سلاسل کے لئے تمثیل ہے۔

★ — مہمات میں ایک دو کام مشورہ کافی ہوا کرتا ہے۔ ان تقو موالله مشتبیہ، فرادی ثم تتفکرو اما بصاحبکم من جنة۔

★ — ولئن شئنا لندھبین بالذى او حينا اليك میں علم پر ناز ختم اور ولو لا ان ثبتنا کل لقد کدت تركن اليهم میں عمل پر ناز کی جزاً الحائز دی اس آیت کو سمجھنے والا نہ علم پر ناز کر سکتا ہے نہ عمل پر۔

★ — اخبار پڑھنے کی ضرورت پر دلیل دی جاسکتی ہے کہ ان رسول اللہ ﷺ یت فقد اصحابہ۔

★ — اذا حضر العشاء والعشاء فابدوا بالعشاء [جب عشاء اور کھانا ایک وقت پیش ہوں تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو]

★ — کسب دنیا جائز حب دنیا منع بلکہ کمال رحمت یہ کہ احبابیت منع ہے۔ قل ان کان اباو کم وابناو کم میں کی ہتایا کیا۔

★ — مومن پل صراط سے گزریں گے تو جنم کے گی یا موسیٰ من اسرع فان نور کٹ اطفاء ناری۔

★ — اہل دنیا روز محشر غرباء کو اجر ملتا دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتھا جلو دنا فرضت بالمقاریض فتعطی مثل ما و توا۔

★ — ایک دن آواز آئے انک من اهل الجنۃ دوسرے دن آواز آئے انک من اهل النار تو بھی عبادات میں فرق نہ آئے۔

- ★ — نادنوں کی بات پر تمہی عقل کی زکوٰۃ ہے۔
- ★ — بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے والوں کی تعداد فاتحہ کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔
- ★ — ہر پنج کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ خدا ابھی بندے سے مایوس نہیں ہوا۔
- ★ — سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔
- ★ — جیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے بھیلاتا ہے مگر گلہ خدا سے کرتا ہے۔
- ★ — بری عادات کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
- ★ — جتنی محنت سے لوگ جنم خریدتے ہیں اس سے آدمی محنت میں جنت ملتی ہے۔
- ★ — کسی سے کنارہ کشی کے لئے بھی محدث ضروری ہے ولا تنسوا الفضل بینکم۔
- ★ — ترك تبلیغ کے لئے مخاطب کی ناگواری عذر نہیں۔ افحضر ب عنکم الذکر صفحان کنتم قوما مسرفین۔
- ★ — الا ثم ما حاک فی صدر کث۔ [کناہ وہ ہے جو دل میں کلک پیدا کرے]
- ★ — مکہ کی حقیقت تجلی الوہیت، مدینہ کی حقیقت تجلی عبدیت، عرفات کی حقیقت "حاضری" کی اہمیت۔
- ★ — مسلم شریف کی حدیث ہے اما تهم اللہ اماتة [مومنوں کو جنم میں ایک حرم کی موت دی جائے گی۔ جس سے تکلیف کم ہو جائے گی]

متفرقہات:-

- ★ — جنت میں حوریں، شراب اور قرب خداوندی جمع ہو گا چونکہ حکم اللہ ہو گا۔
- ★ — ایک عمل ایک وقت تاجائز اور دوسرا وقت جائز ہو سکتا ہے۔ جیسے نکاح سے پہلے لوگ کو دیکھا حرام بعد میں دیکھنا ثواب، چونکہ یوں بن گئی ہے۔
- ★ — پنجی واڑھی سے زیادہ تاکید اونچے پا جائے کی ہے۔

- ★ — نیچی داڑھی سے زیادہ تکید اونچے پاجائے کی ہے۔
- ★ — زبان سے اثر نہ ہونے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عام آدمی پولیس والے کو کہے کہ تم بیر طرف ہو۔ سو دفعہ بھی کے تو کیا اثر۔ الٹا پولیس والا گردن تاپے گا جبکہ وزیر ایک دفعہ کے تو بیر طرف۔ لہذا پسلے عند اللہ مقام پاؤ بھر زبان سے جو نکلے گا اسکا اثر ہو گا۔
- ★ — حضرت شاہ ابو سعیدؒ نے سلاسل اربع کی مثال اربع انمار میں یوں دی ہے۔ پانی کی نہ نسبت سحور دیہ دودھ کی نہ نسبت نفثہ بندیہ، شراب کی نہ نسبت چستیہ، شد کی نہ نسبت قادریہ۔
- ★ — طب جسمانی میں معدے اور طب روحانی میں دماغ کی اہمیت ہوتی ہے۔
- ★ — انگریزی پڑھ کر دیندار بننا عربی پڑھ کر بے دین بننے سے بہتر ہے۔
- ★ — صبر کی حقیقت یہ ہے کہ بڑے آرام کیلئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتی ہے۔
- ★ — شریعت میں اعضاء و جوارح کو آمادہ کرتا پڑتا ہے طریقہ میں اعضاء و جوارح آدمی کو آمادہ کرتے ہیں۔
- ★ — جس نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کو مشترک کیا وہ مرنے کے بعد گنمam۔ جس نے زندگی میں گنمائی کی کوشش کی وہ مرنے کے بعد مشترک
- ★ — جیف کے درمیان طرکا ایک دن بھی جیف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے آدمی کا کچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔
- ★ — یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو کچھ سورۃ یوسف پسلے یاد کرے اسے قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے۔
- ★ — مرشد کی دعا کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریزہؓ وفات نبویؐ سے تین سال پہلے ایمان لائے مگر حافظ اتنا کہ روایات سب سے زیادہ۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔
- ★ — جس طرح شوت بغیر محل حرام ہے اسی طرح غصہ بھی بغیر محل حرام ہے۔
- ★ — شیخ ابو سعید ابو انجیرؓ کے ایک خالف نے تھپڑا را۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کما و القدر خیرہ و شره من الله تعالیٰ آپ نے فرمایا، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کس

- کے چہرے پر سیاہی لگی ہے۔
- ★ — بزرگوں کا کلام نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھو طوطا کیسے ہو بھو آدمی کی طرح بولتا ہے کیا وہ آدمی ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں۔
- ★ — حقیقی صبریہ ہے کہ بلا آنے کو ایسا سمجھے جیسے بلا جانے کو سمجھتا ہے۔
- ★ — تخلکند وہ ہے جو مصیبت نازل ہونے کے پہلے دن وہی کرے جو تیرے دن کرے گا۔
- ★ — اگر سارے جہاں کالقہ بنا کر مسلمان کے منہ میں رکھ دو تو بھی حق مسلمان ادا نہ ہو گا۔
- ★ — سچائی کی مشعل جہاں جلتی دیکھو فائدہ اخھاؤ یہ نہ دیکھو کہ مشعل بردار کون ہے۔
- ★ — ہر بچے کی پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ خدا بھی بندے سے مایوس نہیں ہوا۔
- ★ — مسلمان کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان نہ دو۔ خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ نہ کرو۔ تعریف نہ کر سکو تو غمیقت نہ کرو۔
- ★ — صرف ریاضی ہی میں نہیں اخلاقیات میں بھی خط مستقیم کا فاصلہ سب سے کم ہوتا ہے۔
- ★ — سو سال کی عمر میں ایک لمحے کی غلطی انسان کا رخ شرق سے مغرب کی طرف بدل دیتی ہے۔
- ★ — غلطی کے بعد چہرے کو بھانے کی چادر سے نہ چھپاؤ کیونکہ چادر چہرے سے زیادہ میلی ہے۔
- ★ — کہنے آدمی سے دوستی نہ کرو کیونکہ گرم کوئلہ ہاتھ جلاتا ہے اور ٹھنڈا کوئلہ ہاتھ کا لے کرتا ہے۔
- ★ — جب جسم سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء شوت کے بھوکے ہو جاتے ہیں۔
- ★ — حیوانات میں کمھی سب سے زیادہ حریص اور مکڑی سب سے زیادہ قناعت پسند پس اللہ تعالیٰ نے کمھی کو مکڑی کی نذرا بنا دیا۔
- ★ — اگر انسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو کئی پارساید معاش ہوتے۔
- ★ — نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔
- ★ — حضرت عبد اللہ بن مبارک ”نے نصیحت فرمائی۔ ”بری نظر چھوڑو خشوع کی توفیق ملے

گی۔ یہودہ گوئی چھوڑ دو دا انائی عطا ہوگی۔"

★ — نخش کلای کرنے پر ایک نوجوان کو کسی بزرگ نے کہا "دیکھ تو خدا تعالیٰ کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے۔"

★ — اگر غور کوئی علم ہوتا تو اس کے کئی سند یافتہ ہوتے۔

★ — اگر تو حق تعالیٰ سے راضی ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ تجوہ سے راضی ہے۔

★ — جو شخص کسی دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہے وہ قرضے کی پہلی قسط ادا کر دتا ہے۔

★ — اکھاری کاسار اے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھا کر گر پڑو گے۔

★ — عیاری چھوٹے کمبل کی طرح ہے اس سے سرچھپا گے تو پاؤں نکلے ہو جائیں گے۔

★ — حضرت موسیٰ نے دعا کی، خدا یا! مخلوق کی زبان مجھ سے روک دے فرمایا، اگر میں ایسا کرتا تو اپنے لئے کرتا۔

★ — کلو اواشر بوا نحیک گر کلو اتا گلو غلط ہے۔

★ — پیٹ کا دھنہ نہ ہوتا تو کوئی جانور جال میں نہ پختتا۔

★ — صندل کا درخت اس کلماڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دتا ہے جو اسے کلتا ہے۔

★ — ایک مرتبہ نبی ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا "میں تمہیں عبادت کرتے دیکھتا ہوں مگر حلاوت میں کمی پاتا ہوں۔" صحابہؓ نے پوچھا حلاوت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا "اکھاری۔"

★ — حضرت مجدد الف ثانیؓ نے فرمایا، "اب سوائے اتباع سنت کے کوئی آرزو باقی نہیں رہی۔"

★ — اشراف نفس کے بغیر جو بدیہی مطے اس میں برکت ہوتی ہے۔

★ — لباس کے تین درجے ہیں ایک آسانی کا جو ضروری ہے، دوسرا نیا اُش کا جو جائز ہے، تیسرا نامانیش کا جو منع ہے۔

★ — موحد ہوتے ہوئے مکوڈب ہونا اور مٹوڈب ہوتے ہوئے موحد ہونا بڑی سعادت ہے۔

★ — شاہ شجاع کرمانیؓ نے ۲۰ سال رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا معمول رکھا۔ ایک رات

سو گئے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت فضیب ہوئی۔ عرض کی "یا اللہ! میں نے جانے میں آپ کو ڈھونڈا
مگر آپ سونے میں ملے۔" فرمایا "جانے کی برکت سے سونے میں ملا۔"

★ — اگر مرغی کے پیچے بٹخ کا انداز کر کہ دیں تو پچھے مرغی کا ہی کملائے گا اگرچہ مرغی سے بڑا ہو گا۔
اسی طرح مرید کتنا ہی ترقی کر جائے روحانی بیٹھا اپنے مرشد ہی کا رہیگا۔

★ — غلطی ہونے پر نفس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ جیسے حالت حیض میں جماع کرے تو صدقہ
نکلنے کا حکم ہے۔

★ — توسل کی حقیقت یہ ہے کہ دعاء ملے "اے اللہ! فلاں شخص آپ کا مقبول ہے اور مجھے
اس سے محبت ہے پس اس محبت کے صدقے رحمت فرم۔"

★ — افضل عمل کی بہت نہ ہو تو جائز عمل کر لینا بہتر۔ معلوم ہوا کہ تجدید میں اٹھنے کی بہت نہ
ہو تو پڑھ کر سوئے۔

★ — اے دوست تو اپنے اصل مکان کی طرف بارہا ہے لیکن ست رفتاری کے ساتھ، اصل
مکان کی طرف تو جانور بھی تیز چلتے ہیں۔

★ — شیطان کے وساوس کی مثال بجلی کے تار کی طرح ہے۔ قریب یا دور کرنے کے لیے
پکڑوچھت جائے گی۔

★ — یہوی کی محبت اگر غفلت عن الدین کا سبب نہ بنے تو محمود بلکہ مطلوب ہے۔

★ — امام ابوحنیفہؓ نے امام یوسفؓ کو نسبت کی کہ کوئی پشت سے پکارے تو جواب نہ دو پشت
سے چانوروں کو پکارتے ہیں۔

★ — حضور اکرم ﷺ سے بنی ہاشم کے ایک وند نے عرض کیا کہ ہم اسلام لانے کو تیار
ہیں مگر زکوہ دیں گے نہ جماد کریں گے۔ فرمایا، منظور، جب اسلام لائے تو سب اعمال کئے۔ یہ
نی اعلیٰ السلام کی حکمت تھی۔

★ — بنی اکرم ﷺ نے ایک بی بی کو نوحہ سے توبہ کرائی۔ کہنے لگی "ایک نوحہ کا قرضہ ہے
اتار کر توبہ کرو گی" فرمایا تھیک ہے۔ انھوں کرنی راستے سے لوٹ آئی، حکمت یہ ہے۔

★ — ایسی بات نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ یہ نصف سلوک ہے۔

★ — منصور حلاج "کو سولی چڑھانے سے پہلے مردین نے پوچھا۔ ہمارے اور پتھر مارنے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا "تمہیں ایک ثواب انسیں دو ثواب۔ تمہیں مجھ سے حسن ظن ہے انسیں شریعت کا خیال۔ حسن ظن فرع ہے جبکہ شریعت اصل ہے۔

★ — محبت شیخ خیال غیر میں مثال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے چاند دیکھ کر کہا ہذا ربی۔ یہ ظاہر تو شرک ہے لیکن حقیقت میں شرک کا ابطال ہے۔

★ — امام باقرؑ کا فرمان ہے کہ مردہ ولی نفسانی خواہشات سے پیدا ہوتی ہے۔ زندہ انسان ہی غور سے سنتے ہیں۔

★ — جو نعمت کی قدر نہیں کرتا نعمت نامعلوم طریقے سے چھین لی جاتی ہے۔

★ — عذاب گوئی سے عجب پیدا ہو تو لکھ کرو عذاب کرے اس طرح لوگ کہیں گے بیچارہ دیکھ دیکھ کر بول رہا ہے۔

★ — اپنے اختیار و قصد سے کسی کی برائی دل میں رکھنا اور اسے ایسا پوچھانے کی تدبیر کرنا کہیہ ہے۔ اگر کسی سے رنج کی بات پیش آئے اور طبیعت ملنے کو نہ چاہے تو یہ انتباش ہے دور ہونے کی دعا کرے۔

★ — مال دنیا کی کی پر نظر رہنا خوب دنیا کی علامت ہے۔

★ — اہل اللہ کے نزدیک مال پر فخر کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے بھی آپس میں گندگی کے نوکروں پر فخر کریں۔

★ — حضرت ابراہیمؑ سے کوئی فاقہ کی خلکیت کرتا فرماتے "تم فاقہ کی قدر کیا جاؤ، ہم نے سلطنت دے کر خریدے ہیں، ہم سے پوچھو۔"

★ — عورت کے لئے زیور و لباس کی محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اچھے کپڑے پہنے دوسری جگہ جائے تو معمولی کپڑے پہنے۔

★ — ابن عطاء سندری کو امام ہوا کہ میں ایسا رازا ہوں اگر تو دعا کرے کہ رزق نہ ملے تو پھر بھی دوں گا اگر روکر مانگے گا تو کیوں نہ دوں گا۔

★ — امام مالک" کے ہاں امام شافعی" سماں ہوئے۔ امام مالک" نے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور کھانا

شروع کیا ہکہ مہمان بے تکلف ہو جائے۔

★ — دریا کے پانی اور آنکھوں کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔

★ — ہماری مشرقی عورتیں عام طور پر (عاختقات الازواج) اور قاصرات الطرف (دوسروں کی طرف نہ دیکھنے والاں) ہوتی ہیں۔ عورتیں فطر نامود کے تابع، مگر مرد محبت کی وجہ سے عورت کا تابع ہوتا ہے۔

★ — بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔

★ — حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح دینے میں ایثار کی تعلیم مقصود ہے۔

★ — اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے جذبات کا لحاظ فرمایا ہے سات زینیں سات آسمان
مگر سات آسمان کا تذکرہ بار بار سات زین کا ایک ہی بار۔

★ — حضور اکرم ﷺ کو جب اختیار دیا جاتا دو باتوں میں، آپ ﷺ آسان شق کو
اختیار فرماتے۔ اس میں عاجزی و مکال عبدیت ہے۔

★ — ایک صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرؑ کی ”سے مکہ کے قیام کی اجازت طلب کی۔
فرمایا ”تم ہندوستان رہو دل مکہ میں یہ بہتر ہے اس سے کہ تم مکہ میں رہو اور دل ہندوستان
میں۔“

★ — شجاعت اور تدبیر اکٹھی ہو سکتی ہیں شیر کتنا بہادر مگر چھپ کر شکار کرتا ہے۔

★ — عوام کا یہ حال کہ شرک کو بھی توسل کجھتے ہیں علمائے خلک کا یہ حال کہ توسل کو بھی
شرک کجھتے ہیں۔

★ — حرم شریف کی خاصیت رحم کی سی ہوتی ہے پچھہ بڑا ہوتا ہے تو رحم بھی بڑا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح حاجج کے زیادہ ہونے پر حرم میں وسعت ہوتی ہے۔

★ — الی میں اگرچہ تیری نافرمانی کروں مگر تجھ سے امیدیں تو منقطع نہیں ہوتیں۔ دنیا کی بے
وقائی نے تیری طرف دھکیل دیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے دروازے پر جمادیا۔

★ — الی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کی
جاوے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلتا تو تیرے غیرے کیونکر سوال کیا جاوے۔

- ★ — الٰی جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا اور جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا۔
- ★ — الٰی ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو جکڑ لیا تو میرا مددگار ہو کہ میری بھی مدد فرمادا اور میرے متعلقین کی بھی مدد فرم۔
- ★ — الٰی قبر میں اترنے سے پہلے ہمیں شک سے، شرک سے اور نفاق سے بری فرم۔ اے اللہ میں ہوائے نفسانی اور وساوس شیطانی پر تیری مدد چاہتا ہوں۔
- ★ — الٰی تو جانتا ہے کہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مدد و موت نہیں ہوئی تاہم طاعت کی محبت دل سے کبھی نہیں نکلی۔
- ★ — الٰی میں بہت سی طاعتیں بجا لایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے پختہ اور راح کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرے اعتماد کو ڈھا دیا۔ نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان پر اعتماد کرنے سے پھیر دیا۔
- ★ — الٰی جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہیں تو بھلا اس کی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہوں گی اور جس کے علوم و حقائق بھی مخفی دعوے ہیں تو بھلا اس کے دعوے کیونکر دعوے نہ ہوں گے۔
- ★ — الٰی جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے برے اوصاف نے مجھے مایوس کیا تیرے احسان نے میری امید بند ہاری۔
- ★ — الٰی باوجود میری نتھا قبت اندریش کے تو مجھ پر کس قدر مریان ہے اور باوجود میرے افعال کی قباحت کے تو مجھ پر کس قدر رحم کرنے والا ہے۔
- ★ — الٰی جب میرا حال تجھ سے مخفی نہیں تو میں تجھ سے اس کا شکوہ کیوں کروں۔ الٰی جب تو میرا کفیل ہے تو مجھے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمایا اور جب تو میرا مددگار ہے تو مجھے ذیل و رسولانہ فرمایا اور جب تو مجھ پر مریان ہے تو روز محشر کی ناکامی سے بچا۔
- ★ — الٰی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مریانی سے منصف فرمایا تو کیا میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو اپنے لطف و مریانی سے محروم فرمائیگا۔
- ★ — الٰی مجھ سے وہ ہے جو میری بدی اور کینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم کو سزاوار ہے۔

- ★ — الی جب میں اپنے غناکی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہونگا۔
- ★ — جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ پچانی وہ اس کے نقدان کے بعد اس کی قدر پچانے گا۔
- ★ — جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی میریانیوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہوا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں اس کی طرف کھینچا جائے گا۔
- ★ — جو کلام کسی متكلم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس پر اس قلب کا نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔
- ★ — طاعت کے نقدان پر غم نہ ہونا اور اس کے ساتھ طاعت کی طرف نہ اٹھنا دھوکہ میں پڑنے کی علامت ہے۔
- ★ — جب تو اپنی قدر اس کے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کر اس نے تجھ کو کس کام میں لگا رکھا ہے۔
- ★ — جس نے اپنے عمل کا شمول نہ دھلائی اور اس کی حکمل میں دنیا میں پالیا تو یہ اس کے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہے۔
- ★ — جس کے سلوک کی ابتداء اور اد کے الزام سے منور ہوگی اس کے سلوک کی انتہا انوار و معارف کے ساتھ روشن ہوگی۔
- ★ — جس کو تو ہر سوال کا جواب دینے والا ہر مشاہدہ کا ظاہر کرنے والا اور ہر علم کا بیان کرنے والا دیکھے تو اس سے اسکا جمل سمجھ لے۔
- ★ — عارف وہ ہے کہ جس کی یقینواری کبھی زائل نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو کبھی قرار نہ آوے۔
- ★ — غیر کے بقا کی طرف تیرا نظر اٹھانا اور مساوا کے نقدان سے تیرا وحشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہے۔
- ★ — جب تک تو تخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے ان کا تابع ہے اور جب تو اس کا مشاہدہ

کر کے تو مخلوقات تیرے تالیح ہیں۔

❷ — بڑا سخت تعجب ہے کہ جس سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا اس سے بھائنا ہے اور جس کے ساتھ کسی طرح نہیں رہ سکتا اس کو طلب کرتا ہے فی الحقيقة آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

❸ — تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو۔ وہ اپنے اوصاف کے ساتھ تیری امداد فرمائے گا تو اپنی ذلت میں پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کرے گا تو اپنے بعجز میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا تو اپنی ناؤانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کے ساتھ دیکھیری فرمائے گا۔

❹ — جو چیز تیری نہیں دوسరے کی ہے اس کا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے لئے مباح کر دے گا حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔

❺ — تو اپنے دل کو اغیار سے خالی کر اللہ تعالیٰ اسے معارف و اسرار سے پر کرے گا۔

❻ — با اوقات بعض کی تاریک رات میں وہ علوم و معارف تجھ کو دیئے جو تو بسط کے روز روشن میں نہیں پاسکتا۔

❼ — ابتدائے سالک اس کی انتبا کا آئینہ اور تجھی گاہ ہے جس کی بدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گی اس کی نہایت بھی اس تک ہو گی۔

❽ — جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تحوڑے زنانہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الاف و احسانات پالیتا ہے جونہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آنکھیں نہ اپشارہ وہاں پینچ سکے۔

❾ — پر وہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے پر وہ پوشی دوسری گناہ ہونے کے بعد غلق سے پر وہ پوشی۔

❿ — علوم و حقائق تجھی کے وقت محل وارد ہوتے ہیں پھر حفظ و گحمداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے۔ "لا تحرک به لسانک لتعجل به۔"

❻ — امروار ایسیہ کا ورود بقدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار بالطفی کے ہوتی ہے۔

- ★ — ورد کا تو تیرا مولیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور وارد کا تو اس سے خواہاں ہے تو بھلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔
- ★ — مولیٰ تعالیٰ کے احسان اور اپنے عصیان سے ڈر کے مبادا یہ تیرے لئے استدرج ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم درجہ بدرجہ ان کو اواتریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جائیں گے۔
- ”سنستدر جہنم من حیث لا یعلمون۔“
- ★ — حققت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور بالا تر سمجھے بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور پست خیال کرے۔
- ★ — جس چیز سے تو مایوس ہے اس سے آزاد ہے اور جس کا طامع ہے اسکا بندہ ہے۔
- ★ — درحقیقت تیرا ہمیشہ وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم کے ایسا اور کوئی نہیں ہے۔
- ★ — گاہے تو بد کار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہے۔
- ★ — ایسے شخص کی مجالست نہ کر کے نہ جس کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف برانگیختہ کرے اور نہ اس کا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔
- ★ — جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو توبجی اپنے ایسے مولیٰ سے کہ تیری پیشان اس کے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔
- ★ — نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہے تجھ کو طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اس کا نفع تیری طرف عود کرے۔
- ★ — اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے بھید کے ظمور کی طرف اپنے بندوں کو نگران پایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرے اور جب دیکھا کہ اگر ان کو اسی کے ساتھ پھوڑ دیا جائیگا کہ سر عنایت وہی ہے تو تقدیر از لی پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے تب فرمایا اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

- ★ — جس نے تیری تعظیم کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔
- ★ — جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے مدح کے موقع میں تیری طرف نسبت کرتا ہے۔
- ★ — جب تجھ کو مساوا سے متوضش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔
- ★ — اول تجھ پر ایجاد کی نعمت مبذول فرمائی اور دوسرے ہر لمحہ پے در پے ظاہری و باطنی بقاء کی نعمت پہنچائی۔
- ★ — جب عطا سے تجھے فراخ دلی ہو اور منع سے دل تنگی ہو تو سمجھ لے کہ تو عبورت میں سچا نہیں۔
- ★ — خلق کا دینا تیرے لئے حرج ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی احسان ہے۔
- ★ — نہ دینا صرف اسی وجہ سے تجھ کو تکلیف رسال ہے کہ تجھ کون نہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و لطف کی فہم نہیں۔
- ★ — جب تجھ کو دیا تو اپنا جود و کرم و کھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قبر و غلبہ مشاہدہ کرایا پس وہ بہر مل معرفت سے تجھ کو بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و احسان کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔
- ★ — صرف دار آخوت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کیلئے محل جزا مقرر کیا ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ دینا چاہتا ہے دار دینا اسکو سامانیں سکتی دوسرے یہ کہ دار بقا میں بدله دینے سے ان کی قدر کو رتر اور بالا ٹھہرایا۔
- ★ — جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اس کا لطف و محبت جدار ہے تو یہ اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔
- ★ — جب تک تو اس دار دینا میں ہے کہ درتوں کے پیش آنے کو عجیب نہ خیال کر کیونکہ دینا نے اسی چیز کو ظاہر کیا جو اس کا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے۔
- ★ — جب ہمچ ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آنے میں کیا کام کرو گا اور دانشنز انتظار کرتا

- ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معالله فرمائے گا۔
- ★ — اس میں تیری کوشش جس کا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اس میں تیری کو تھی جس کا وہ تجھ سے طالب ہوا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ پیش قدمی کرنے والی ہمیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پہاڑ سکتیں۔
- ★ — اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری موجودہ حالت شغل دینی یا رنسوی سے نکال کر اس کے سوا کسی دوسری حالت کے کام میں لگادے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالے کے کام میں نکلتا۔
- ★ — دعا و عبارت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنی عبودت کے اظہار اور اس کی ربویت کے حقوق کو قائم کرنا ہونا چاہیے۔
- ★ — اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو بخلاف اسکی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں حیا کیوں نہیں کرے گا۔
- ★ — سوال کے ساتھ یاد تو اس کو دلایا جائے جس پر غلط و سو جائز ہو اور طلب کے ساتھ متنبہ اس کو کریں جس کو سائل سے بے پرواہی ممکن ہو۔
- ★ — اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں۔ پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن اور بعطا ہو جائے۔
- ★ — اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بیٹھا کیونکہ کریم سے امیدیں تجاوز نہیں کر سکتیں۔
- ★ — بلو جو درگزارانے کے دعائیں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو قبولیت دعا سے مایوس نہ کروے کیونکہ وہ تیری احبابت کا کفیل اس امر میں ہوا ہے جس کو وہ تیرے لئے پسند فرماتا ہے۔
- ★ — شوت نفسانیہ کو دل میں سے بھروسے کنے والے خوف کے یا مفارکرنے والے شوق کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔
- ★ — جب تو یہ چاہیے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے منقوص ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حقیقی کے

احسائات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تھجھ پر کھلے تو جو کچھ نافرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جتاب میں صادر ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرے۔

★ — اگر تھجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری مذمتوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا جودو کرم تھجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی انتہا نہیں۔

★ — لغزش اور معصیت صادر ہونے کے وقت عنو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہے۔

★ — جب تھجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولی ہے ان میں نفس پر جوزیاہ شاق ہو اسکو دیکھو اور اس کی پیروی کر کیونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے۔

★ — معصیت میں خط نفسانی کھلم کھلا ہے اور طاعت میں خط نفسانی پوشیدہ ہے پس جو بیماری پوشیدہ ہواں کا اعلان خخت ہوتا ہے۔

★ — جب تیرا مولیٰ تیری الی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے جس کے تلاقی نہیں تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جواں کے لائق ہے تر زبان ہو۔

★ — سب سے زیادہ جالل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقین عیوب کا خیال چھوڑ دے۔

★ — مومن حقیقی کی جب درج ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرما تا ہے کہ اس کی ایسے وصف میں تعریف ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کرتا۔

★ — لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تھجھ میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جو اپنے اندر پاتا ہے اپنے نفس کی مذمت کر۔

★ — خواہ نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا خخت لاعلان بیماری ہے۔

★ — تھجھ سے خوارق عادات کیونکر ظاہر ہوں ابھی تک تو نے نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی نہیں۔

★ — ہر ایک معصیت اور غفلت اور نفسانی شهوت کی جزاپنے نفس سے رضامندی ہے۔

★ — اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا لگا کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نترانے سے بُرے

- تمھے سے پوشیدہ اور عائب ہیں زیادہ بہتر ہے۔
- ★ — حقوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا، مگر جب ان میں بھی مولیٰ حقیقی کوئی دینے والا مشہدہ کرے۔
- ★ — تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاصلمندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لو۔
- ★ — اگر موہب اللہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فخر و فاقہ کو اپنے اوپر راست کرے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے صدقے فقراء ہی کے واسطے ہیں۔
- ★ — فاقوں کا نازل ہوتا مریدوں کی عیاد ہے۔
- ★ — اگر تو وائی عزت کا خواہاں ہے تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔
- ★ — اگر یقین کا نور تمھے پر روشن ہو جاتا تو دنیا کے محاسن پر فنا کے گھن کو ظاہر دکھے لیتا۔
- ★ — اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تمھے پر دنیا کی مفارقت سمل کر دے۔
- ★ — اگر تو چاہے کہ مهزوں کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور نیپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
- ★ — جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تمہرا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص اور اللہ تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔
- ★ — فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہی گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہیے گی۔
- ★ — ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر کو نہ چھوڑ کیونکہ اٹائے ذکر میں غفلت ہونے کے بہ نسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ بعید نہیں کہ تمھے کو اللہ تعالیٰ ذکر غفلت سے ذکر بیداری تک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جسیں میں اللہ کے سواب سے نسبت ہو جائے بلند فرمادیوے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔
- ★ — عمر گذشت کا عوض نہیں اور عمر موجودہ بے بہا ہے۔

★ — تیرا اعمال کی بجا آوری کو فارغ وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہے۔

★ — اغیار سے خالی ہونے والے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت سے جس حال میں تجھ کو ٹھہرا رکھا ہے جدا کر دے گا۔

★ — بقدر ایک سانس کے بھی تیار وقت نہیں گزرتا مگر اس میں تیرے لئے خدا کا امر مقدر کیا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔

★ — تنزیہ ہے اس ذات پاک کے واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرا یا اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا۔ بزرگی طرف پہنچانا چاہا۔

★ — گناہ کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کر دے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اس کا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔

★ — قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ شنی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات الہی و نعماء شمای کے میدان میں داخل ہو۔

★ — تجھ پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب فرمایا۔

★ — جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتلی و طائف عبودیت کی بجا آوری کی طرف ائمہ میں معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرمایا کہ گویا ان کو اپنے ایجاد کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانک۔ تیرا پروردگار ان لوگوں پر تجہ فرماتا ہے کہ جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔

★ — تیرے لئے طاعات کو اوقات معینہ کے ساتھ اس لئے مقید کر دیا تاکہ کسل اور لیت و لعل ملنے نہ ہو اور وقت فراغ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لئے باقی رہے۔

★ — تیرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر امداد ٹو اب بڑھا دی۔

★ — نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ

کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے۔ اس میں قلوب کے میدان اسراروں کیلئے فراخ ہوتے ہیں اور اس میں انوار کے ستارے چکتے ہیں۔

★ — اس کے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کوئر عرض کا طالب ہو سکتا ہے یا اس کی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزاہ کا طالب ہو سکتا ہے۔

★ — محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عرض کا امیدوار ہو یا حصول غرض کا طلبگار ہو۔

★ — جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوات تو کسی کا بندہ بننے۔

★ — حق جل و علا جس طرح عمل مشترک کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح قلب مشترک کو بھی پسند نہیں فرماتا۔

★ — تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودت کے اندر تیرا سچانہ ہونے کی دلیل ہے۔

★ — گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے۔ بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا محتاج ہے۔

★ — اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عرض کا طلبگار مت ہو۔ ایسے عمل پر تجھ کو یہی عرض کافی ہے کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر موافذہ نہیں کیا۔

★ — جب تو کسی عمل پر عرض کا خواہش ہو گا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطلبہ ہو گا۔

★ — عمل کرنے والوں کے لئے جزاہ متعال یہی کافی ہے جو اثنائے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھوتا ہے۔

★ — ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالاتر ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدله قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔

★ — کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں جسکا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو۔

- ★ — چل کے گئے کی سیر کی ابتداء اور سیر کی انتہاء ایک ہوتی ہے تو مخلوق سے مخلوق کی طرف سفر نہ کر بلکہ مخلوق سے خالق کی طرف جا۔
- ★ — طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و سیکایت کے واقع ہونے پر پیشانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔
- ★ — جب تھے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تھے کو تیرے پر دردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تھے پر مقدر ہوا ہے۔
- ★ — اگر اس کے عدل و انصاف سے مذکور ہو گئی تو کوئی گناہ صغیر نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیر نہیں۔
- ★ — جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اس میں حقائق و اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔
- ★ — علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے ملکوک و اوہام کے پردے اٹھاوے۔



باب 12

احلائق حمیدہ

سید الاولین والآخرين حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ﷺ کے اخلاق حمیدہ کی گواہی رب کعبہ نے ان الفاظ میں دی۔ «وانک لعلی خلق عظیم» (القلم: آیت 4) [اور یہیک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں] امت محمدیہ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ "لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة" (الازدرا: آیت 21) [تمارے لئے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اسوہ حسنة ہے]

ان آیات مبارکہ کے پیش نظر سالک کو اخلاق رذیلہ سے چھکارہ پانے اور اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کے بغیر چارہ نہیں۔ یہی پیغام حدیث پاک میں اس طرح دیا گیا "تخلقو بااخلاق الله تعالیٰ" [اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرو] اسلام میں اخلاق حمیدہ کو ایمان لانے کے بعد تمام اعمال پر فضیلت دی گئی ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ "اکمل الْمُؤْمِنُونَ ایماناً احسنُهُمْ خلقاً" [ایمان والوں میں سب سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں اعلیٰ ہے] اس بارے میں حیران کرن بات تو یہ ہے کہ مکارم اخلاق کی تعلیم کو بعثت نبوی ﷺ کا مقصد بتایا گیا ارشاد گرامی ہے "بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" [میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بعوثت ہوا ہوں]

ایک روایت میں ہے "الدین النصیحة" [Dین سراسر خوبی ہے] اللہ اک مومن کسی کا بد خواہ نہیں ہو سکتا۔ سالک کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے دین کا ہو یا دنیا کا۔ ایمان لانے کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق کو آرام پہنچانا ہے۔ بد اخلاق آدمی سے نہ تو خالق خوش ہوتا ہے نہ می خالق۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں

وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا "یا اللہ! تیری حقوق میں سب سے بھترن کون ہے؟" فرمایا "کسی دوسرے کو کائنات پہنچے تو یہ غمکنی ہو" پس بارگاہ روہیت میں محمدؐ سیرت ہی سب سے بڑی سفارش ہے۔

مکارم اخلاق:- سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ مکارم اخلاق دس ہیں۔

- (1) حق بولنا (2) حق کا معاملہ کرنا (3) سائل کو عطا کرنا (4) احسان کا بدل دینا (5) صلح رحمی کرنا
- (6) امانت کی حفاظت کرنا (7) پڑوی کا حق ادا کرنا (8) ساتھی کا حق ادا کرنا (9) مہمان کا حق ادا کرنا
- (10) ان سب کی جڑ اور اصل اصول حیا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے "روشن دل وہ ہے جس میں فلق نہ ہو، اور سیاہ دل وہ ہے جس میں فلق نہ ہو۔" مشائخ کرام نے درج ذیل دس باتوں کو خوش غلطی کی علامت قرار دیا ہے:

- (1) لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملا (2) لوگوں کی غنواری کرنا (3) حاجت مندوں کے کام آتا (4) لوگوں کے اتحجھے کام کی خالافت نہ کرنا (5) عیب جوئی و عیب گوئی سے بچتا (6) اپنے عیوب پر نظر رکھنا (7) کوئی مذمت کرے تو نیک تاویل نکالانا (8) گنگار کی مقدرت قبول کرنا (9) میانہ روی اختیار کرنا (10) لالہینی سے پرہیز کرنا۔

سالک کو چاہئے کہ حتی الواسع کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا

پر کے وا دل نہ ڈھاویں رب دلائ وحی رہندا

اخلاق الصالحين:- حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے "جس نے کوئی رات اور دن مومن کو تکلیف دیئے بغیر گزارا۔ اس نے وہ رات نبی علیہ السلام کے ساتھ بسر کی" سالک کو چاہئے کہ برائی کے جواب میں حتی المقدور اچھائی کا معاملہ کرے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے۔ "ادفع بالستی ہی احسن" (مم السجدہ: آیت 34)

[آپ نیک برآؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کجھے]

قانون فطرت بھی یہی ہے کہ صندل کا درخت اس کلاماڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو اسے کلاتا ہے۔ پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ہاتھ انہیں مسل دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ”اے دوست! اگر کوئی تمیرے راستے میں کائے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کائے نہ بچھا! اور نہ ساری دنیا میں کائے ہی کائے ہو جائیں گے۔“

حسن خلق کے فضائل:— حضرت خواجہ محمد معصوم ”اپنے مکتوبات میں حسن خلق کے متعلق فرماتے ہیں۔

اے شفقت کے آثار والے! دنیوی زندگی نہایت قلیل ہے اور ابدی و داعیٰ معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، سعادت مندوہ شخص ہے جو اس تھوڑی فرصت کو غیبت جان کر اس میں آخرت کے کام بنائے اور طویل سفر کا تو شہ میا کرے اور چونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ایک جماعت کی ضروریات کا مردج بنا لیا ہے۔ (اس لئے) اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کا شکر بجالا کر خلقوں خدا کی حاجت روائی میں اچھی طرح کرہمت باندھیں اور اپنے مالک (اللہ تعالیٰ) کے بندوں اور بندیوں کی خدمت گاری کو دنیا و آخرت کے درجات حاصل کرنے کا وسیلہ تصور فرمائیں اور خلقوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے اور ان کے ساتھ کشادہ روئی و خوش خلقی سے پیش آئے اور ان کے معاملات میں زری و سوالت اختیار کرنے کو مولاۓ حقیقی جل سلطانہ، کی رضا مندی کا درپیچہ (کھڑکی) جائیں اور نجات کا سبب اور ترقی درجات کا ذریعہ سمجھیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خلقوں اللہ تعالیٰ کا لئنہ ہے پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محظوظ وہ شخص ہے جو اس کے لئنہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے، ان کو خوش کرنے، حسن خلق، زری کرنے، سملت دینے اور بردباری کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثیں تحریر کی جاتی ہیں اچھی طرح خور فرمائیں اور اگر کسی حدیث کے معنی (مجھے) میں کوئی پوشیدگی رہ جائے تو کسی دیندار طالب علم سے اس کا حل طلب کریں۔

تغیر خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کا (دینی) بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کو کسی دشمن یا ہلاکت کے سپرد نہیں کرتا اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی

میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے اور جس شخص نے کسی مسلمان کا کوئی غم دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غمتوں میں سے کوئی غم دور کر دے گا اور جس شخص نے کسی کے (بدن یا عیب) کی پرده پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پرده پوشی فرایے گا۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مرد کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندہ کی مرد میں رہے گا اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ بیٹک اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ہے جن کو لوگوں کی حاجات (پوری کرنے) کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے لوگ اپنی حاجات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون ہیں۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ بیٹک اللہ تعالیٰ کی کچھ قویں (لوگ) ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لئے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور جب تک وہ ان نعمتوں کو (اللہ کے بندوں پر) خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں میں برقرار رکھے گا لیکن جب وہ ان نعمتوں کو (خرچ کرنے سے) روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا۔ اس کو ابن ابی الدنيا و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لئے چلا (یعنی کوشش کی) تو یہ عمل اس کے لئے دس سال کے اعتکاف سے ہتر ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندق کا فاصلہ کر دے گا۔ ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلہ پر ہوگی جتنا کہ زمین کے ایک کارے سے دوسرے کنارے تک (مشرق سے مغرب تک) فاصلہ ہے۔ اس کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا اور کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کی ضرورت (پوری کرنے) میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو اس کے لئے پورا کر دیا اللہ عزوجل اس کے لئے پچھتر ہزار فرشتوں کا سالیہ کرے گا جو اس پر اگر وہ صحیح کا وقت ہو گا تو شام تک اور شام کا وقت ہو گا تو صحیح تک رحمت طلب کرتے اور اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ایک گناہ مٹا دے گا اور اس کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اس کو ابن

جان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت (پوری کرنے) میں کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ستر نیکیاں لکھے گا اور اس کے ستر گناہ مٹا دے گا۔ یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آجائے پس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی تو وہ (کوشش کرنے والا شخص) اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جانا تھا اور اگر اس (کوشش) کے دوران ہلاک ہو گیا تو وہ جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا۔ اس کو ابن الہدیا نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے اور کسی تنگی کو آسان کرنے کے پارے میں کسی صاحب اقتدار کی طرف پہنچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پل صراط سے گزرنے کے وقت اس کی مد فرمائے گا جبکہ لوگوں کے قدم لا کھڑا رہے ہوں گے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کو خوش کرنا ہے یعنی تو اس کی ستر پوشی کرے یا اس کی بھوک کو دور کرے یا اس کی حاجت پوری کرے اس کو طبرانی اور ابوالشیخ نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض (کی ادائیگی) کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو کہ اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے اور اس کی توحید بیان کرتا ہے (یعنی لا اله الا الله کہتا ہے) پس جب بندہ اپنی قبر میں نخل ہو جاتا ہے تو وہ خوشی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تو مجھ کو نہیں بچا تا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے پس وہ کہتی ہے کہ میں وہ خوشی ہوں کہ تو نے مجھے فلاں شخص پر داخل کیا تھا آج میں تیری وحشت کو انہیں میں تبدیل کروں گی۔ اور تجھ کو جنت (دلیل) کی تلتین کروں گی اور تجھ کو قول ثابت (کلمہ شہادت) پر ثابت رکھوں گی اور یوم قیامت کی حاضری کے مقالمات میں تیرے ساتھ حاضر ہوں گی اور تیرے لئے تیرے رب کی طرف شفاعت کروں گی اور تجھ کو جنت میں تیری منزل دکھاؤں گی۔ اس کو ابن الہدیا اور ابوالشیخ نے روایت کیا ہے اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ

اللهم جو اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ذریعہ اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا (وہ چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا) (تقویٰ) اور ابھی اخلاق ہیں اور آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ وزن میں داخل ہوں گے تو آپ نے فرمایا وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ اس کو ترمذی، اہن حبان اور یقینی نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنے الی و عمال کے ساتھ سب سے زیادہ مربیا ہو، اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیشک بندہ ضرور اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے درجے اور بہت بلند منزل پر پہنچے گا اور پیشک یہ (اس کی) عبادت (کے ثواب) کو کئی گناہ کروے گا۔ اور پیشک وہ ضرور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جنم میں سب سے پیچے کے درجے میں پہنچے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ کیا تم کو ایسی عبادت کی خبر نہ دوں جو کہ آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو، (وہ) خاموشی اور حسن خلق ہے۔ اس کو اہن الی الدنیا نے روایت کیا اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کی جانب سے آیا اور کمایا رسول اللہ ﷺ کو نما عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا حسن خلق پھر وہ شخص آپ کی دائیں جانب سے آیا اور عرض کیا کونسا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا حسن خلق اور پھر وہ آپ ﷺ کی بائیں جانب سے آیا اور عرض کیا رسول اللہ ﷺ کو نما عمل افضل ہے؟ پس رسول اللہ ﷺ اس شخص کی طرف مڑے اور فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ تو سمجھ نہیں رہا۔ (وہ عمل) حسن خلق (ہے اور وہ) یہ ہے کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو غصہ نہ کیا کہ اس کو محمد بن نصرالہ روزی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ میں اس شخص کے لئے جنت کے احاطہ میں گھر دلانے کا خاص من ہوں جو جگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو اور اس شخص کے لئے جنت کے وسط میں گھر دلانے کا خاص من ہوں، جو جھوٹ بولنا ترک کر دے اگرچہ جھوٹ بولنا مزاج کے طور پر ہی ہو، اور اس شخص کے لئے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا خاص من ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اس کو ابو داؤد اہن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور نیز حدیث ترمذی میں آیا ہے پیشک

یہ وہ دین ہے جس کو میں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور سخاوت و حسن خلق کے سوا اور کوئی چیز اس کے لئے سزاوار نہیں، پس جب تک تم اس (دین) پر قائم رہو، ان دونوں اوصاف سے اس (دین) کا اکرام کرو، اس کو طبرانی اور بزارنے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے حسن خلق گناہوں کو اس طرح پچھلا (مٹا) دیتا ہے جس طرح کہ پانی برف کو پچھلاتا ہے اور بد اخلاقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نزی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نزی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نزی کو پسند کرتا ہے اور نزی کرنے والے سے راضی ہوتا ہے اور نزی پر ایسی مدد کرتا ہے جو وہ سختی پر نہیں کرتا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو وزن خی کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے یا (یوں فرمایا) جس پر وزن خی کی آگ حرام کر دی جاتی ہے (سنو) یہ ہر اس شخص پر حرام کر دی جاتی ہے جو آسانی، نزی اور سولت والا ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلم (بردباری) سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو ابو معلی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر بندہ حلم (بردباری) کے ذریعہ صائم و قائم (دن کو روزہ رکھنے اور رات کو نماز پڑھنے والے) کا درجہ پالیتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا پھر اس نے اس کو ضبط کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور محبت کرے گا۔ اس کو اصفہانی نے روایت کیا۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ کیا تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے باعث اللہ تعالیٰ (جنت) میں مکان کو اوچا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ﷺ (ضور ارشاد فرمائیے) آپ نے فرمایا (وہ یہ ہے کہ) جو شخص تجھ سے جہالت (کا برداشت) کرے تو اس سے برداری کر اور جو شخص تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے اور جو شخص تجھ کو محروم

کرنے تو اس کو عطا کرے اور جو تمہارے قطع تعلق کرے تو اس سے میل جوں کرے۔ اس کو طبرانی و بیزار نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کسی کو پچاڑ دینے سے طاقت و رہ نہیں ہوتا درحقیقت طاقت و رہ ہے جو شخص کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیش کیا جبکہ ایک قسم کا صدقہ (یعنی) ہے کہ تو کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں کو سلام کرے۔ اس کو ابن ابی الدینیا نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تیرا تبسم کرنا، تیرے لئے صدقہ (یعنی) ہے اور تیرا امر بالمعروف و نهى عن المکر کرنا صدقہ ہے اور راستہ بھکلنے کی زمین (جگہ) میں تیرا کسی کو راستہ ہٹانا تیرے لئے صدقہ ہے اور تیرا راستہ سے پھریا کاتھا یا ہڈی دور کرنا تیرے لئے صدقہ ہے۔ اور تیرا اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لئے صدقہ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ پیش جنت میں ایک ایسا بالاخانہ ہو گا جس کے باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے (شفاف ہونے کی وجہ سے) نظر آئے گا تو ابوالکاشمی[ؑ] نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (بالاخانہ) کس کے لئے ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس شخص کے لئے ہو گا جس نے اچھا کلام کیا اور (لوگوں کو) کھانا کھلایا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہیں وہ نماز کے لئے کھڑا ہوا۔ اس کو طبرانی و حاکم نے روایت کیا ہے۔

یہ حدیثیں کتاب ترغیب و تہذیب سے لی گئی ہیں۔ جو کہ علم حدیث کی معتمر کتابوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کے منشاء پر عمل عطا فرمائے۔ اپنے حال کے صفحوں کو ان احادیث کے مضمون کے ساتھ موازنہ کریں جو کچھ حال کے موافق معلوم ہو اس پر اللہ تعالیٰ جل سلطان کا شکر بجالانا چاہئے اور جو کچھ ایسا نہ ہو تو حق سمجھنے سے عاجزی و زاری کے ساتھ اپنا حال ان (احادیث) کے موافق ہونے کی دعا کرنی چاہئے۔ اگر کسی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق سردست حاصل نہ ہو تو بھر حال اپنی کوتاہی کا اعتراف تو اس کو حاصل ہونا ہی چاہئے۔ اور یہ (اعتراف) بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ کسی کو عمل کی توفیق بھی حاصل نہ ہو اور اپنے آپ کو قصور وار بھی نہ جانے کیونکہ ایسے شخص کو اسلام سے بہت کم حصہ حاصل ہے۔

۔ ہر کس کہ یافت دلتے یافت عظیم

وآل کس کہ نیافت درد نیافت بس است

[جس شخص نے پالیا اس نے ایک بڑی دولت پالی اور جس شخص نے نہیں پالیا اس کو نہ پانے کا درد ہی کافی ہے] [کتبہ مخصوصہ دفتر اول مکتب (147)

خیر خواہی کی لاجواب مثالیں:-

1) — روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لٹکر کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں جیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چیونٹی نے دوسری جیونٹیوں سے کہا "یا ایها النمل ادخلوا مسکنکم" (النمل: آیت 18) ।

[اے چیونٹی! اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھوڑو]

اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ نہ صرف اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا بلکہ ایک سورت کا نام اتمل رکھ کر ہیشہ ہیشہ کے لئے چیونٹی کے نام کو عزت بخشی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو اگر ایک مومن دوسروں کی خیر خواہی کرے گا تو کتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر کمیرا

2) — قانون فطرت ہے کہ اگر کسی کھیت میں حیوانوں گاگو بر اور انسانوں کی نجاست ڈال دی جائے تو یہ گندگی اور نجاست کھاد کا کام کرتی ہے اور اس کھیت کی نصل اچھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے کہ گندگی اگر ساتھ رہنے والی نصل کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور ہم اشرف الخلقات ساتھ رہنے والے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو پھر ہم گندگی و نجاست سے بھی گئے گزرے بن گئے۔

3) — حضرت عمر بن عبد العزیز "مگر میوں کی دوپہر میں سوئے ہوئے تھے اور ایک باندی پٹکھا کر رہی تھی۔ اس باندی کو نیند آئی تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز "کی آنکھ کھلی تو آپ نے اس باندی کو سوئے ہوئے پالیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے پٹکھا لے کر اسے پٹکھا کرنا شروع کر دیا وہ باندی تھکی ہوئی تھی کافی دری تک گمری نیند سوئی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو اس

نے دیکھا کہ امیر المؤمنین اسے پچھا کر رہے ہیں وہ چونک اٹھی آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں جیسے میں انسان ہوں ویسے ہی تم بھی انسان ہو۔ میں نے تم کو سوتے دیکھا تو سوچا کہ پچھا کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں۔

(4) — حضرت امام اعظم ابو حنیفہ "امی جوانی میں کپڑے کی دکان کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ غدر کے بعد دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے۔ ایک دوست نے صورت حال دریافت کی تو فرمایا کہ آج موسم ایر آلوہ ہے اس کیفیت میں گاہک کو کپڑے کے رنگ و معیار کی صحیح شاخت نہیں ہوتی۔ میں نے دکان بند کر دی تاکہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو اچھا سمجھ کر دھوکہ نہ کھائے۔

(5) — فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص "جب مرصع کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں اور گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کی اجازت دے دی مگر اپنے خیمے کو وہیں لگا رہنے دیا تاکہ کبوتری کو تکلیف نہ پہنچے۔ عربی زبان میں کبوتری کو فسطاط کہتے ہیں۔ آج اسی جگہ فسطاط نامی شر آباد ہے اور عمرو بن العاص کی عظمت کی گواہی رہتا ہے۔

(6) — حضرت مولانا روم "اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے کہ دیکھا ایک کتا سو رہا ہے۔ آپ مع جماعت اس وقت تک وہیں کھڑے رہے جب تک کتا از خود وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو نہ چلا گیا۔ یہ اس لئے کیا کہ میری وجہ سے کتے کی نیند میں خلل نہ آئے۔

(7) — حضرت خواجہ باقی اللہ "ایک رات تجد کیلئے اٹھے۔ سخت سردی تھی۔ آپ نے تجد پر گمی پھر اپنے بستر کی طرف بڑھے تاکہ لحاف میں لپٹ کر بیٹھیں۔ دیکھا کہ ایک لمبی کمیں سے آ کر لحاف میں گھسن گئی ہے۔ چنانچہ آپ ساری رات سطھ پر بیٹھے گھسترے رہے مگر لمبی کو لحاف سے نکالنا پسند نہ کیا۔

(8) — حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری "نے سترہ دن ایک رخی بیمار کتے کی خدمت کی۔ جب کتا سخت یا ب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے علوم و معارف عطا فرمائے کہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام بنے۔ ایک بد کار عورت نے پیا بے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ پس سالک کو چاہیے کہ دوسروں کی خیر خواہی کو اپنے لئے زریعہ نجات سمجھے۔ سلف

صالحین نے حیوانوں کے ساتھ حسن فلق کا اس قدر مظاہرہ کیا تو ہمیں انسانوں کے ساتھ خوش خلقی کا معاملہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ وین اسلام نے تو مومنین کو مواخات کی ملائیں پر دیا ہے۔

اخوت اسلامی کے فضائل:-

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”انما الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ“ (ال مجرات: آیت 10)

[بے شک ایمان والے بھائی ہیں]

حدیث پاک میں ہے۔ ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اس کو نیک دوست عطا کر دیتا ہے کہ اگر بھول جائے تو یاد کر اداۓ اور اگر یاد ہو تو اس کی مدد کرے۔“

ایک روایت میں ہے:

”دو بھائیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو ہاتھ ہوں۔ جب ہاتھ ملتے ہیں تو ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے۔ جب بھی دو مومن ملتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے بھلائی عطا کی۔“

جناب رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو بھائی بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے اس تدر درجہ بلند کرے گا کہ ویسا درجہ وہ اپنے کسی اور عمل کے ذریعے نہیں لے سکتا۔“

فریان اللہ ہے:

”وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَاتِ وَيُزَيِّدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ“ (الشوری: آیت 26)

[اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں اور زیادہ رہتا ہے انہیں اپنا فضل]

”وَيُزَيِّدُهُمْ“ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں:

”ان کے بھائیوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرے گا اور انہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔“

حضرت سعید بن میب، شعی، ابن الیلسی، هشام بن عروة، ابن شرمه، شریق، شریک بن عبد اللہ، ابن عینیہ عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حبل اور ان کے موافقین کا بھی نہ ہب ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”مومن الفت رکنے والا۔ الفت کیا جانے والا ہے اور جو الفت نہ کرے اور نہ ہی اس سے الفت کی جائے اس میں کچھ بھلائی نہیں۔“

حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”مومن اپنے بھائی کی وجہ سے کیہر ہے۔“

حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے:

”اسلام کے بعد کسی بندے کو نیک بھائی سے بڑھ کر بھلائی نہیں ملی۔ تم میں سے ایک آدمی اگر اپنے بھائی سے محبت دیکھے تو اس کو تحام رکھے اس لئے کہ یہ کم ہی ملاکتی ہے۔“

بعض محدثین حضرات کا فرمان ہے۔ ”اس امت سے سب سے پہلے خشوع اتحادیا جائے گ۔ پھر تقویٰ پھر امانت اور پھر الفت۔“ ایک حکیم کے چند اشعار ہیں۔

ما فالت النّفـس علـى بـغـيـة الـذـ من وـد صـديـق اـمـين
مـن فـاتـه وـد اـخ صـالـح فـذـكـ المـقـطـوـع مـنـهـ الـوـتـين
[غش نے ایک امانت وار دوست کی محبت سے بڑھ کر لذیذ مقصود حاصل نہیں کیا جو نیک بھلائی کی محبت سے
محروم رہا یہ ایسا ہے کہ اس کی مضبوط رسمی ثوث گئی]“

حضرت عمر بن خطاب کی وصیت حضرت میخی بن سعید انصاری نے حضرت سعید بن المیب سے روایت کی۔ ”تجھ پر پچے دوست ہلانے لازم ہیں۔ ان کے پہلو میں زندگی گزار۔ اس لئے کہ فرانی میں یہ زینت ہیں اور مصیبتوں میں یہ کام آنے والا مسلمان ہے۔“

حضرت ابن مسعودؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے (قیامت کے روز) سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہوں گے۔ ہر ستون کے سرے پر ایک ہزار بالا خانے ہوں گے وہ الہ جنت پر جھائختے ہوں گے۔ الہ جنت کو ان کا صن اس طرح روشنی دے گا جیسا کہ دنیا والوں کو سورج روشنی دیتا ہے۔ ان پر بزرگیم کا لباس ہو گا۔ ان کی پیشانوں پر یہ تحریر ہو گا:

”هُوَ لِاءُ الْمُتَّحَابِينَ فِي اللَّهِ عَزُوْجُلٍ“

[یہ اللہ عزوجل کی خاطر یا ہم محبت کرنے والے ہیں]

حضرت عبادۃ بن صامتؓ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میری خاطر محبت رکھنے والوں میری خاطر ملاقات کرنے والوں اور میری خاطر واضح اور صداقت اختیار کرنے والوں کیلئے محبت حق (اور لازم) ہو گی۔“

ابو یثیرؓ نے حضرت مجاهدؓ سے روایت کیا:

”جب اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والے باہم ملتے ہیں اور ایک بھائی دوسرے کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جائز ہے ہیں جیسے کہ موسم سرماں خلک درخت کے پتے جھر جاتے ہیں۔“

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”سلت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس روز اپنے عرش کا سالیہ عطا کرے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سلیہ نہ ہو گا۔ وہ آدمی جنوں نے اللہ کی خاطر محبت کی۔ اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔“

حضرت قیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے:

”محبت و رحمت کے ساتھ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔“

نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”ایک آدمی نے کسی دوسری بستی میں جا کر اپنے ایک بھائی سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راست پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اس نے پوچھا، کمال کا ارادہ ہے؟ کمال! اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس کی ملاقات کا ارادہ ہے۔

پوچھا۔ کیا تو صلد رحمی کر رہا ہے یا تھوڑے پر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکار رہا ہے۔
کہا۔ نہیں! بلکہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے۔

فرشتنے کے لئے میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے محبت رکھتا ہے جیسے
کہ تو نے اللہ کی خاطر اس آدمی سے محبت رکھی۔

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے:

”اگر آدمی دن کو روزے رکھے اور اظاہر نہ کرے اور رات کو قیام کرے اور جہاد کرے مگر اللہ
تعالیٰ کی خاطرنہ کسی سے محبت رکھنے نہ ہی کسی سے عذالت رکھنے تو اتنی بڑی برداشت بھی اسے
نفع نہ دے گی۔“

ایک رفع نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا:
”کون سا بہرہ ایمان پختہ ترین ہے۔“

صحابہؓ نے عرض کیا ”نماذ۔“

فرمایا (نماذ) ایک نیکی ہے مگر اس درجہ کی نہیں۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا حج اور جہاد۔

فرمایا نیکی ہے اور اس درجہ کی نہیں۔

عرض کیا۔ اے اللہ کے رسولؐ آپ ہی نہیں بتائے۔

فرمایا۔ پختہ ترین بہرہ ایمان ”حب فی الله“ اور ”بغض فی الله“ ہے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث میں ہے اور موسیٰ بن عقبہؓ نے فرمایا:

”میں اپنے ایک بھائی کو ایک بار ملتا ہوں تو کہی روز تک اس کی ملاقات کے باعث خوشی کی مجلس
قائم کرتا ہوں۔“

حضرت جعفر بن سلیمانؑ نے فرمایا:

”جب میں اپنے بھائی میں سنتی دیکھتا ہوں تو محمد بن واسعؓ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔“

حضرت محمد بن واسعؓ نے فرمایا:

”دنیا میں تین لذیذ ترین چیزیں ہی باقی رہ گئیں۔“

- 1۔ باجماعت نماز پڑھنا۔
- 2۔ رات کو تجوہ پڑھنا۔
- 3۔ بھائیوں سے ملاقات کرنا۔

حضرت حسنؑ اور حضرت ابو قلابؓ فرمایا کرتے تھے:

”ہمیں اپنے احباب اپنی اولاد والی سے بھی محبوب تر ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے اہل ہمیں دنیا یاد دلاتے ہیں اور ہمارے احباب ہمیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔“

اخوت کی بنیادی شرط: - دو آدمیوں کے درمیان موافقات قائم ہونے کیلئے بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں ہم جس ہوں یعنی دونوں کے حال میں مماثلت ہو۔ مثلاً دونوں نیکو کار ہوں یا دونوں ایک شیخ کے مرید ہوں یا دونوں علم غاہرو علم باطن کے حال ہوں۔ بعض حقدین کا قول ہے کہ دو آدمیوں میں البتہ چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر ہوتی ہے۔

1۔ جب وہ عزم میں یکساں ہوں۔ (مثلاً دونوں سالک ہوں)

2۔ حال میں اشتراک ہو۔ (مثلاً دونوں ایک ہی سلسلہ میں مسلک ہوں)

3۔ علم میں قریب قریب ہوں۔ (مثلاً دونوں صاحب نسبت ہوں)

4۔ اخلاق میں اتفاق ہو۔ (مثلاً دونوں میں عاجزی ہو)

اگر دو آدمیوں میں چاروں قدریں مشترک ہوں تو انکی موافقات پختہ ترین ہوتی ہے۔ اسلئے کما

جاتا ہے ”الجنس يميل الى الجنس“

[جن کامیلان اپنی ہی جس کی طرف ہوتا ہے]

حدیث پاک میں ہے:

”اگر ایک مومن کسی ایسی مجلس میں جائے جہاں ایک سو منافق ہوں اور ایک مومن ہو تو وہ اسی (مومن) کے پاس آ کر بیٹھے گا۔ اگر منافق کسی مجلس میں جائے جہاں جس میں ایک سو مومن ہوں صرف ایک منافق ہو تو وہ اس (منافق) کے پاس جا کر بیٹھے گا۔“

اس حدیث کا سبب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ میں احمد کی ایک عطارہ عورت تھی۔ مکہ کی ایک عطارہ عورت مدینہ آئی اور یہ مزاح کرنے والی عورت تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا۔ ”کہاں ٹھہری ہو۔“ عرض کیا ”فلاں (عطارہ) کے پاس۔“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”ارواح جمع شدہ لفکر ہیں جن کا باہم تعارف ہوا ان میں البتہ ہو گئی اور جن میں باہم اجنبیت ہوئی ان میں اختلاف ہوا۔“

حدیث مواخات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان صحابہ کرامؓ کے درمیان مواخات قائم کی جو علم و حال میں ہم شکل و ہم جنس تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبد الرحمنؓ کے درمیان مواخات قائم کی یہ دونوں مددار ہونے کی وجہ سے مماثل تھے۔ حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت ابو الدرب داعؓ کے درمیان مواخات قائم کی یہ علم و زہد میں ہم شکل تھے۔ حضرت عمارؓ اور حضرت سعدؓ کے درمیان مواخات قائم کی یہ حال میں مشترک تھے۔ حضرت علیؓ اور اپنے درمیان مواخات قائم کی۔ سبحان اللہ۔

روایت ہے کہ حضرت معروف کرفیؓ نے ابو محفوظؓ سے پوچھا: ”اے ابو محفوظؓ! اس شرمنی دو بلند پایہ بزرگ ہیں۔ میں کس کی مصاجبت کروں تاکہ اس سے علم و ادب سیکھوں۔ امام احمد بن حنبلؓ یا بشربن حارثؓ۔“

انہوں نے فرمایا:

”اکن میں سے ایک کی بھی مصاجبت نہ رکھ۔ اس لئے کہ امام احمد بن حنبلؓ محدث و فقیر ہیں۔ ان کا اخلاق لوگوں سے زیادہ رہتا ہے ان کی مصاجبت تیرے دل کی حلاوت ذکر اور محبت خلوت کو گنوادے گی۔ اور بشربن حارثؓ اپنے حل میں غرق ہیں وہ تیری طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اسود بن سالمؓ کی مصاجبت کرو کہ وہ احباب کے معاملے میں فراخ دل اور صابر آدمی ہیں۔ وہ آپ کیلئے بہتر ہیں اور توجہ بھی کریں گے۔“

حضرت معروف کرفیؓ نے ایسا یہ کیا تو انہیں خوب نفع ہوا۔ حالانکہ اسود بن سالمؓ ان دونوں سے کم درجہ کے بزرگ تھے۔ مگر حال کی مناسبت اور وصف کی مشکلت کی وجہ سے فائدہ زیادہ ہوا۔

ایک عرب عالم کا قول ہے:

”دوسٹ کی مثال کپڑے میں پیوند کی طرح ہے۔ اگر اسی کپڑے کی جنس کا پیوند نہ ہو تو اس کیلئے
میعوب بن جاتا ہے۔“

جب دو ایسے آدمی مصاحت کریں جو ہم جنس و ہم مشرب نہ ہوں تو ان میں تفریق ہو جاتا لازمی
ہے۔ ایک عرب شاعر کا قول ہے۔

و قائل لما تفرقتما فقلت قولًا فيه انصاف
لم يك من شكلي فقارته والناس اشكال و الاف
[کئے والے نے پوچھا کہ تم میں جدائی کیوں ہوئی۔ میں نے انصاف کی بات تھائی کہ وہ میری محل کا نہ تھا
اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور لوگ اشکال والفت کے ساتھ رہتے ہیں]

حبيب کیسا ہو....؟

حضرت بشر بن حارث "فرمایا کرتے تھے:

”صرف خوش خلق آدمی ہی سے اختلاط رکھو اس لئے کہ یہ بھلی بات ہی کرے گا اور بدفلق سے
اختلاط مت کرو اس لئے کہ یہ بری بات ہی کرے گا۔“

حضرت سفیان ثوری "فرماتے ہیں:

”تو جس سے مواغات قائم کرنا چاہتا ہے اسے غصہ والا دے پھر کوئی آدمی اس سے تیرے بارے
میں پوچھے اگر وہ اچھی بات کرے تو اس کی مصاحت اختیار کر لے۔“

اپک بزرگ فرماتے ہیں:

”احتجان لئے بغیر کسی سے مواغات قائم نہ کو۔ اس کے سامنے ایک راز کھول دو۔ پھر اسے غصہ
 والا کر دیکھو۔ اگر راز کھالنے کر دے تو اس سے فتح کر رہو۔“

ابو یزید سے کسی نے پوچھا ”میں کس آدمی سے مصاحت کروں؟“

فرمایا ”جو تجھ سے ایسے آگہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ آگہ ہے اور تمہی ایسی پرده پوشی کرے جیسے اللہ
تعلیٰ کرتا ہے۔“ (کویا تعلق تو باخلاق اللہ کا عملی نمونہ ہے۔)

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ ”صرف اس آدمی سے مباحثت قائم کرو جو چار حالات میں بھی ایک جیسا ہے۔“

۱۔ غصہ کے وقت

۲۔ رضاکے وقت

۳۔ لامع کے وقت

۴۔ خواہش نفس کے وقت

ایک ادیب ”کا قول ہے۔ ”صرف اس آدمی سے مباحثت رکھ جو تیرا راز چھپائے اور تمہی نئکی پھیلائے۔ مصالاب میں تیرا ساتھی ہو اور سرغوبات میں تھجھ پر ایسا کرے۔“

ایک عالم کا فرمان ہے کہ دو میں سے ایک آدمی ہی کی مباحثت کرو:

۱۔ وہ آدمی جس سے توکوئی دین کی بات سکھے۔

۲۔ وہ آدمی جو تھجھ سے دین کی بات سکھے۔

روایت ہے کہ ابو سلیمان ”نے ابن ابی حواری ”کو فیصلت کی:

”اے احمد! دو میں سے ایک آدمی ہی کی مباحثت کرو۔“

۱۔ وہ آدمی کہ تو دنیا میں اس کی وجہ سے فراخی پائے۔

۲۔ وہ آدمی کہ تو آخرت میں اس کی وجہ سے انعام پائے۔

حضرت ابو ذر ”فرمایا کرتے تھے:

”ہم ساتھی سے تعلقی بہتر ہے اور نیک ساتھی تعلقی سے بہتر ہے۔“

سلف صالحین میں سے ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی:

”اے بیٹے لوگوں میں اس کی مباحثت کرنا کہ اگر تو محتاج ہو جائے تو وہ تیرے قریب ہو۔

اور اگر تو امیر ہو جائے تو تیرے مل میں طمع نہ کرے۔ اگر اس کا درجہ بڑھ جائے تو تھجھ پر

بڑائی نہ دکھائے۔ اگر تو اس کی خاطر قاضع کرے تو وہ تیری حنافت کرے۔ (یعنی تجھے

ذمہ نہ کرے) اگر تو اس سے زیادتی کرے تو وہ برداشت کرے۔ اگر تو اس کے پاس ہو تو

وہ تحری زینت کا باعث ہے۔“

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ لوگوں کی چار اقسام ہیں تین کی مصاجبت کر اور ایک کی مصاجبت نہ کرے

- 1۔ سمجھدار آدمی جو اپنی سمجھ سے آگاہ ہے۔ یہ عالم ہے اس کی ایجاد کرو۔
- 2۔ سمجھدار آدمی جو اپنی سمجھ سے آگاہ نہیں یہ سونے والا ہے اسے جگارو۔
- 3۔ بے سمجھ آدمی آپ کو بے سمجھ ہی سمجھ کر جالا ہے اسے سکھاؤ اور تعلیم دو۔
- 4۔ بے سمجھ آدمی جو اپنے آپ کو بے سمجھ گلنان نہ کرے۔ یہ منافق ہے اس سے دور رہو۔

حضرت ابو میران ”فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو تین کے درمیان ہوتا ہوں۔

- 1۔ اگر اپنے سے زیادہ عالم سے ملاقات ہو تو اس سے سیکھتا ہوں۔
- 2۔ اگر اپنے جیسے سے ملاقات ہو تو یہ میرے مذکورات کا دن ہے۔
- 3۔ اگر اپنے سے کم علم والے سے ملاقات ہو تو یہ میراثواب کا دن ہے۔ (یعنی اسے سکھاتا ہوں اور ثواب کا میدوار ہوں)۔

ابو جعفر محمد بن علی ”نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ”پانچ آدمیوں سے مصاجبت نہ کرنا بلکہ راستہ چلنے ہوئے ان کے ساتھ بھی نہ چلن۔“

- 1۔ جھوٹے کی۔ یہ قریب کو دور اور دور کو قریب ظاہر کرے گا۔
- 2۔ احمق کی۔ فائدہ پہنچانا چاہا ہے گا مگر نقصان پہنچا بیٹھے گا۔
- 3۔ بخیل کی۔ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تو اس کا محکم ہو گا۔
- 4۔ مذر حرمی نہ کرنے والے (بے وفا) کی۔ میں نے قرآن میں تین جگہ اس پر لعنت ہوتے پائی ہے۔
- 5۔ فاسق (بدکار) کی۔ کہ وہ تجھے ایک لقہ یا اس سے کم میں فروخت کرے گا۔ بیٹھے نے پوچھا ”لئے سے کم تر کیا جیزے ہے؟“ فرمایا ”لئے کی امید پر یعنی طمع۔“

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ پانچ آدمیوں کی مصاجبت سے دور رہو۔

1- بدعتی

2- فاسد

3- جاہل

4- دنیا کالا پی

5- لوگوں کی بہت غیبیت کرنے والا

حضرت عفیان ثوریؓ فرمایا کرتے تھے کہ احقر کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک لکھی ہوئی خطا

ہے۔

ایک حدیث پاک میں ہے:

”اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے اصحاب کے ساتھ زیادہ نرم روی رکھے اور بہترین پڑوی وہ ہے جو اپنے پڑوی سے نری سے پیش آئے۔ جاہل کی مصاجبت سے دور رہو ورنہ اس کی صحبت تجھے بھی جاہل کر دے گی یا اپنے مولیٰ کرم سے غافل کر دے گی۔“

قرآن مجید میں دو آدمیوں کی مصاجبت سے نپکنے اور ایک کی مصاجبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا

ہے۔

1- جاہل کے مصاجبت سے نپکو۔ فرمایا گیا ”فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبعُنَ سَبِيلَ الظَّالِمِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ [یونس: آیت 89] [سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور مت چلواہ اگلی جو نہیں جانتے]

2- غافل کی مصاجبت سے نپکو۔ فرمایا گیا ”وَلَا تطعُ من اغفلنَا قلبَهُ عَن ذِكْرِنَا“ [الکعنون: آیت 28] [ند الماعت کر اگلی جکا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا]

3- غیب کی مصاجبت اختیار کرو۔ فرمایا گیا ”وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مِنْ انَابِ الى“ [لقمان: آیت 15]

[اور اس کی راہ کا ابتدئ کر جس نے میری طرف رجوع کیا]

ہم سالک کو چاہیے کہ اپنے مرشد اور بیر بھائیوں ہی سے مصاجبت رکھے کہ وہی اس

آیت کا مصدقہ ہوتے ہیں۔

اخوت کے آداب: — ساکھن کو چاہیے کہ اخوت کے آداب کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور انہار، من سن اس کے مطابق بیانیں۔ چند آداب درج ذیل ہیں۔

۱) — محبت و مودت میں اپنے بھائیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”جب بھی دو آدمیوں نے اللہ کی خاطر محبت کی تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب تر وہ ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرے۔“ دوسری روایت میں ہے۔ ”اللہ تعالیٰ کی خاطر اخوت قائم کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب تر وہ ہے جو اپنے بھائی کیلئے زیادہ نرم ہو۔“

”اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا:

”وَاحْفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ“ (الجمعة: آیت 88)

[اور مسلمانوں پر شفقت رکھئے]

اور صحابہ کرامؓ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”رَحْمَهَاءُ بَيْنَهُمْ“ (الثغر: آیت 29)

[ایک دوسرے کے ساتھ نرم تھے]

کسی شاعر نے مومن کامل کے متعلق کہا:

ہو حلقت یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن کا ایک وصف بتایا گیا ”اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين“ (المائدۃ: آیت 54) [مرہان ہوئے وہ مسلمانوں پر سخت ہوئے وہ کافروں پر]

ایک اور جگہ فرمایا گیا:

”وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُوا بِالصَّرْحَمِ“ (البلد: آیت 17) [اور ایک دوسرے کو صبر کی دعیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کھلنے کی دعیت کرتے رہے]

حدیث پاک میں ہے ”ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی النساء“

[تم نہ نشان والوں پر رحم کرو! آسمان والا تم پر رحم کرے گا]

2) — اپنے بھائیوں کی حاجت روائی میں کوشش رہیں۔ روز محشر بعض لوگ کہیں گے۔

”لِمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمٍ“ (الشعراء: آیت 100-101)

[”بھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔“]

اس آیت میں حمیم کے معنی ہیں ہمیم۔ یعنی ہاء کو قرب کے باعث ہاء سے بدل دیا۔ یہ اہتمام سے ماخوذ ہے۔ یعنی ”مہتمن بامرہ“ [اس کے معاملہ کا اہتمام کرنے والا] اس سے معلوم ہوا کہ صدیق (دوست) وہی ہے جو تیرے امور کا اہتمام کرے۔ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ ”جب ان کا ایک بھائی فوت ہوتا تو اس کے الہ و عیال کی چالیس چالیس برس تک خدمت کرتے اور انہیں صرف چڑھاتے ہوئے کی ہی تکلیف ہوتی تھی۔“

سیرت سلف سے اخوت فی اللہ کے حقوق کے بارے میں واقعہ منقول ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے گھر میں آتا ہے اور اس بھائی کو معلوم بھی نہیں۔ وہ اس کے گھر والوں سے پوچھتا ہے ”تمارے پاس آتا ہے، تھی ہے، تمہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔“ اگر وہ جواب دیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیز نہیں تو وہ یہ تمام چیزیں خرید کر انہیں لا رہتا یعنی وہ اپنے الہ و عیال اور اپنے بھائی کے الہ و عیال میں فرق نہ رکھتا۔ اپنے بھائی کا بوجھ بھی خوشی خوشی الخاتا اور بتاتے ہیں کہ جب بھائی سے ملاقات ہوتی تو اس مدد کا ذکر تک نہ کرتے۔

روایت ہے کہ حضرت مسروقؓ نے کافی قرض لے رکھا تھا اور ان کے دوست حضرت شمسؓ پر بھی قرض تھا۔ چنانچہ حضرت مسروقؓ نے حضرت شمسؓ کا قرض ادا کر دیا اور انہیں معلوم نہ تھا جبکہ حضرت شمسؓ نے حضرت مسروقؓ کا قرض ادا کر دیا اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کون ادا کر گی۔ حضرت ابو الدروعؓ نے مل میں بنتے ہوئے دو بیلوں کو دیکھا کہ ایک بیل رک کر بدن سمجھانے لگا تو دوسرا بیل بھی رک گیل۔ حضرت ابو الدروعؓ یہ دیکھ کر رو پڑے۔ فرمایا کہ اگر حیوان ایک دوسرے کی اتنی رعایت کرتے ہیں تو دو بھائیوں کو ایک دوسرے کی کتنی رعایت کرنی چاہیے۔

3) — کسی غلطی کے ارتکاب پر اپنے بھائی کو رسوانہ کرے بلکہ مناسب طریقے سے اصلاح کی کوشش کرے۔ حضرت ابو الدروعؓ کے بارے میں حموی ہے کہ ایک نوجوان ان کی مجلس پر چما

میں حتیٰ کہ حضرت ابو الدروع اس کی نیکو کاری کی بیان پر اس سے محبت کرنے لگے۔ اچانک یہ نوجوان کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھ لے بعض حادیین اسے حضرت ابو الدروع کے پاس لے آئے اور کہا کہ کاش آپ اسے دور کرویں۔ آپ نے فرمایا سچان اللہ ہم ایک چیز کی وجہ سے اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے اہل کے بارے میں یہی حکم دیا۔

فان عصو کث فقل انى برىء مما تعملون (الشراعۃ: آیت 216)

[پھر اگر تمہی نافرمانی کرے۔ تو کہ دے میں الگ ہوں تمہارے کام سے]

اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ "میں تم سے نبی طور پر ہی بے زار ہوں۔"

حضرت عمرؓ نے ایک آدمی سے مواغات کر کی تھی وہ غیر ملک چلے گئے تو غفلت میں پڑ گئے۔ جب حضرت عمرؓ کو پہنچا تو آپ نے ان کی طرف ایک مکتب لکھا۔

"بسم الله الرحمن الرحيم۔ حم تنزيل الكتب من الله العزيز العليم۔ غافر الذنب و قابل التوب" (المؤمن: آیت ۱، ۲، ۳)

[یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی مرف سے ہو زبردست ہے ہر چیز کا جانے والا ہے، گناہ بخششے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے]

یہ لکھنے کے بعد اسے بڑے فعل پر ندامت دلائی۔ جب اس نے مکتب پڑھا تو کہا۔ "اللہ تعالیٰ نے مجھ فرمایا اور حضرت عمرؓ نے مجھے اچھی نصیحت کی۔" پھر وہ توبہ تائب ہو کر نیک ہو گیا۔ اپنے بھائی کی نصیحت پر عمل پیرانہ ہونا سخت دلی اور کذب حال کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافرین کے متعلق فرمایا:

"ولکن لا تحبّون الصّحّين" (الاعراف: آیت 79)

[اور یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے]

4) — اپنے بھائی کے عیوب اور اس کی لغزشوں کی پرده داری کرے۔ حدیث پاک میں ہے "ایسے بڑے پڑوی سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اگر وہ نیکی دیکھے تو اسے چھپا دے اور اگر وہ برائی دیکھے تو اسے ظاہر کر دے۔"

وصفات میں امام شافعی کا قول علماء نے بت پسند کیا ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکیم نے

امام شافعی کو یہ فرماتے سن۔

”هر آدمی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتا رہے اور نافرمانی نہ کرے اور ہر آدمی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے اور اطاعت نہ کرے۔ اب جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے بڑھ گئیں تو یہ عدل ہے۔“

حضرت عیینی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا ”جب تمہارا بھائی سورہا ہو اور اس کا کپڑا اس سے کھل جائے تو تم کیا کرتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ”ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں اور پردہ کرتے ہیں۔“ فرمایا ”بلکہ تم اس کا پردہ کھولتے ہو۔“ انہوں نے عرض کیا ”سبحان اللہ یہ کون کرے گی؟“ فرمایا ”تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کے بارے میں ایک بات سنتا ہے تو اس میں اضافہ کر کے اسے پھیلاتا ہے۔“ (وہ پردہ کھولنے والا ہوا)۔

ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص دنیا میں اپنے بھائیوں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔

(5) — کسی معاملے میں اپنے بھائی کا راز نہ کھولے۔ حضرت عباس نے اپنے بیٹے کو کہا۔ ”میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب آپ کو دوسروں پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے تین باتوں کا خیال رکھتا۔ ان کا کوئی راز نہ کھونا، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا اور انہیں تمہارے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔“ امام شعیؑ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا یہ بلکہ ہزار کلمات سے بہتر ہے۔ حفاظت راز کے بارے میں عبداللہ بن معتز کا شعر مشور ہے۔

و مستودعی سرآ تبراء ن کتمه فاو دعته صدری فصارله قبرا
[اور میری جائے حفاظت راز ہے اس کا اغفاء ہی اقامت کر لیا۔ چنانچہ میں نے سینہ کو یہ لانت دی اور وہ اس کی قبر بن گیا]

حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے:

”سو من مومن کا بھائی ہے نہ وہ اسے غمزہ کرتا ہے نہ ہی شرمندہ کرتا ہے۔“

(6) — سالک کو چاہیے کہ اپنے بھائی کیلئے عائبانہ دعا کرتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے ”آدمی کی اپنے بھائی کے معاملے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے بارے میں قبول نہیں ہوتی۔“ ایک

حدیث میں آتا ہے۔ ”بھائی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا رد نہیں ہوتی اور فرشتہ کرتا ہے ولکھ مثل هذا (اور تجھے بھی اسی قدر ملے) حضرت ابو الدرباد“ فرمایا کرتے تھے۔ ”میں سجدہ میں اپنے چالیس بھائیوں کیلئے دعا کرتا ہوں اور ان کے نام لیا کرتا ہوں۔“ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے:

”ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پھرہ دیا کرتی ہیں۔“

7) — سالک کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کیلئے دعا کرے۔ کیا خبر اس کی دعا قبول ہو جائے اور حسن نیت کی وجہ سے مردے کی بخشش ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے۔ ”قریب میں مردے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ڈوبنے والا ہر چیز سے پٹ پٹ جائے۔ وہ اپنے بیٹے یا والد یا بھائی کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور زندوں کی دعاوں سے مردوں کی قبروں پر پھاؤں کے برابر اوارات آتے ہیں۔ کما کرتے ہیں ”جیسے دنیا میں زندوں کیلئے تحائف ہوتے ہیں۔ مردوں کیلئے دعائیں بنزٹلہ ان تحائف کے ہیں۔“ سلف صالحین اپنے بھائیوں کو اپنی وفات کے بعد دعائیں کرنے کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے ”غیرہ وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی حمیب نہ ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کتنی اچھی اور خوبصورت دعا سکھائی۔

”رَبِّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا خُواْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“ (المُحْشَر: آیت 10)
[اے ہمارے پوروگار! ہماری مغفرت فرمایا اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں]

8) — سالک کیلئے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کیلئے دسترخوان کو وسیع رکھے اور ”انما نطعمکم لوجه الله“ (الدھن: آیت 9) [بیک ہم آپ کو اللہ کیلئے کھلاتے ہیں] پر عمل پیرا ہو۔ محمد بن واسع ”ایک مرتبہ حضرت ابو سلیمان داراللئی“ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عمدہ عمدہ مرغوب چیزوں دسترخوان پر رکھیں مگر ہمراہ کھانے کی بجائے فظیل پاس بیٹھے محظگو رہے اور فرمایا ”میں نے یہ چیزوں تمہارے لئے چھپا رکھی تھیں۔“ محمد بن واسع نے کہا ”آپ ہمیں مرغوب چیزوں کھلاتے ہیں اور آپ خود نہیں کھاتے۔“ فرمایا ”میں انہیں نہیں کھاؤں گا۔ میں

انہیں چھوڑ چکا اور تمہارے سامنے اس لئے رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تم یہ چیز چاہتے ہو۔“
حضرت ابراہیم بن ادھم اپنے بھائیوں کے آنے پر معیضہ شر اور ساطھی بستیوں سے صنوبر،
بادام اور بندق کا پھل توڑ کر لاتے اور فرماتے ”کھاؤ۔“ وہ عرض کرتے ”کاش آپ یہ کام چھوڑ
دیتے اور اپنی نماز پڑھتے رہتے۔“ وہ فرماتے ”یہ میرے لئے نفلی نماز سے افضل ہے۔“

شریعت نے تو اپنے صدیق کے گھر سے بغیر اون کھانا کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ نبی
اکرم ﷺ نے حضرت بریرہ پر صدقہ کیا ہوا گوشت کھایا اور وہ موجود نہ تھیں۔ اس لئے کہ
آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا ایسا کرنا حضرت بریرہ کیلئے سرت کا باعث ہو گا۔

ہاشم او قص ” نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری ”ایک بزری فروش کی دکان پر بیٹھے اس نوکری
سے یہ چیز اور اس نوکری سے وہ چیز کھا رہے ہیں تو کما ”اے ابو سعید!“ آپ ایک آدمی کامال بغیر
اس کی اجازت کے کیوں کھا رہے ہیں۔“ فرمایا ”اے لڑکے کھانے کی آیت پڑھنا۔ وہ خاموش
رہے تو حضرت حسن بصری ” نے یہ آیت پڑھی ”ولا علی انفسکم ان تاکلو امن
بیو توکم ” سے لے کر ”او صدیقکم ” (النور: آیت 61) تک پڑھی۔

بعض سلف کا یہ حال تھا کہ اچانک مہمان آگئے۔ گھر میں کھانے کو نہ تھا۔ اپنے بھائی کے گھر
گئے اور وہاں سے روٹیاں اور ہندیا پکی ہوئی اٹھالائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ جب وہ
بھائی ملتا تو اس کام کو مستحسن سمجھتا اور کہا کرتا کہ اگر دوبارہ مہمان آئیں تو ایسا ہی کیجئے گا۔

حضرت محمد بن واسع ”اور فرقد سنگی“ کے اصحاب ان کے گھر میں آتے اور صاحب غاذہ سے
اجازت لئے بغیر کھالیا کرتے وہ فرمایا کرتے۔

”تم نے مجھے سلف صالحین کا اخلاق یاد ولادیا۔ ہم اسی طرح تھے۔“

مالک بن ریشار ” اور محمد بن واسع ” دونوں حضرت حسن بصری ” کے گھر میں تشریف لائے۔
حضرت حسن ” موجود نہ تھے۔ محمد بن واسع ” نے چار پالی کے نیچے سے کھانے کی نوکری نکلی اور کھانا
کھانے لگے حضرت حسن بصری تشریف لائے تو فرمایا:

”دور صحابہ میں ہم ایسے ہی تھے ہم ایک دوسرے سے تنفر نہیں کیا کرتے تھے۔“

سلف صالحین اپنے مسلمان بھائیوں سے اختلاط رکھتے، مل کر کھاتے کھلاتے، بازاروں میں

چلتے، ضروریات کی جیزیں خود خرید لاتے اور سلان خود اٹھا لیتے۔ صحابہؓ و تابعینؓ کی بھی سیرت تھی۔ حضرت عمرؓ اپنے گھر والوں کیلئے اپنی پیشے پر (خوارک وغیرہ) بوری اٹھا لیتے۔ حضرت علیؓ اپنے کپڑے اور ہاتھ میں سمجھو اور نمک اٹھا لاتے اور فرمایا کرتے۔

لا ينقص الكامل من كماله ماجر من نفع الى عياله

[کامل اس وجہ سے ناقص نہیں ہوا کہ اس نے الہ و عیال کے نفع کیلئے مشقت اٹھائی]

حضرت ابیؓ بن کعب، عبد اللہ ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ کا بھی طریقہ تھا۔ یہ لکڑیاں خود لاتے۔ اپنے کاندھوں پر آئٹے کی بو ریاں اٹھا لاتے۔ نبی اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک جیز خریدتے تو خود اٹھا لیتے آپ کا صحابیؓ عرض کرتا "یہ مجھے دستجے میں اٹھا لیتا ہوں۔" آپؓ فرماتے "جیز کا مالک اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔" نبی اکرم ﷺ بعض اوقات بکری کا دودھ دو سببے، الہ غانہ کے ہمراہ روٹیاں پکانے میں مدد کرتے، گھر میں جھاؤ و دیتے حالانکہ آپؓ پر خشیت الہی اور محبت الہی کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ (اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جو ساکھیں ذکر و اذکار اور وظائف و اوراد میں لگ کر گھر کے کام کا ج سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور اسے نہدوں تقویٰ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

حضرت علیؓ کا قول ہے "میں اپنے بھائیوں کو جمع کر کے انہیں کھانا کھلاؤں یہ بات مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔"

حضرت ابو سليمان دارالانیؓ فرماتے تھے "اگر میں ساری دنیا کا مالک بن جلوؤں اور ساری دنیا کا نواہ بنا کر اپنے بھائی کے منہ میں دے دوں تو بھی اسے کم سمجھوں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا "میں اپنے ایک بھائی کو نواہ کھلاتا ہوں تو اس کا زائد تھہ اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں۔"

9) — سالک کو ہاہیے کہ اپنے بھائی کی دل آزاری ہرگز نہ کرے۔ حضرت بکر بن عبد اللہ مزنیؓ چھت کا پرندہ اپنے صحن میں رکھا کرتے تھے ماکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک عالم حضرت مولانا حسین احمد مدنیؓ کے گھر سماں بن کر نہ تھے۔ حضرت نے کھانے کیلئے پھل پیش کئے۔ فراغت پر سماں نے کماکہ حضرت میں چکلے باہر پھینک دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آپؓ چکلے ایک ہی جگہ باہر پھینک دیں گے۔ سمائے کے پنجے دیکھیں گے تو ان کے دل میں پھل کھانے کی خواہش پیدا

ہوگی۔ جب ان بچوں کو گھر میں پھل کھانے کو نہ ملے گا تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کیسے بچپنکیں کے فرمایا ان چھپکوں کے گلوے گلوے کر کے ایک اس جگہ، دوسرا دوسری جگہ اس طرح فاصلے فاصلے سے چھپلے بچپنکوں گا کہ دیکھ کر اندازہ ہی نہ ہو گا کہ یہاں کسی نے پھل کھائے ہیں۔

میں مسلمان بھائی کی دل آزاری سے بچتا چاہیے اور اس کا تذکرہ یہ شے الفاظ میں کہا چاہیے۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت محبہؓ کو دعیت کی:

”جب تیرا بھائی تجھ سے غائب ہو تو اس کا ذکر اسی طرح کر جیسے کہ اگر تو اس سے غائب ہو تو اپنا ذکر ہونا پسند کرتا اور جیسے تو چاہتا ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے اس طرح اسے بھی معاف کر۔“ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ”میں نے غیر حاضری میں جب بھی کسی بھائی کا ذکر کیا تو یہ فرض کر لیا کہ وہ ہمیں بیٹھا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے بارے میں وہی کہا جو وہ اپنی موجودگی میں سننا پسند کرتا ہے۔“ ایک دوسرے کے ساتھ زیاد کی کیفیت پیدا نہ ہونے دی جائے۔ ابو اسماء بالبلیہؓ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم جھگڑ رہے تھے۔ آپؐ غصبتاک ہوئے اور فرمایا ”زیاد کرنا چھوڑو، اس لئے کہ اس میں بھائی کم ہے۔ زیاد چھوڑو اس لئے کہ اس کا فائدہ کم ہے اور یہ بھائیوں کے درمیان عداوت بھڑکاتا ہے۔“

عبد الرحمن بن جعفر بن نصیرؓ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ میں یعنی میں تھا اور میرا ایک پڑوی یہودی تھا۔ وہ تجھے تورات کی باتیں بتایا کرتا۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب بھیجی۔ یہودی نے کہا:

”تم نے جو کامگر تم پر جو نازل ہوا اس کی تم لوگ تاب نہیں رکھتے۔ ہم اس نبیؐ کی اور اس کی امت کی صفات تورات میں پاتے ہیں کہ کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ علم رکھتا ہو اور گھر کی چوکھت سے نکلے تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ناراضی ہو۔“

سلف صالحین کا قول ہے کہ شیطان جس قدر اللہ تعالیٰ کی خاطر مواخات قائم کرنے والوں سے جلتا اور حسد کرتا ہے اسقدر وہ نیکی میں تعلوں کرنے والوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتا۔

اس کا صرف یہی کام ہے اور وہ دوسرے کاموں سے فارغ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”قُلْ لِعَبْدِنِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ“

(عن اسرائیل: آیت 53)

[اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بھرپور ہو۔ شیطان جھگڑا تاہے آپس میں]

حضرت پوپل علیہ السلام کے والقادات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مِنْ بَعْدِ إِنْ نَزَغَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخْوَتِي“ (یوسف: آیت 100)

[بعد اس کے کہ جھگڑا انہیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان]

سالک کو چاہیے کہ اپنے دینی بھائی کو نصیحت کرے مگر فضیحت سے بچے۔ نصیحت کتے ہیں تمہلی میں اچھی بات سمجھانے کو اور فضیحت کتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کر غلطیوں کی نشاندہی کرنے کو تاکہ بھائی شرمند ہو۔ اسی طرح عتاب کرے مگر تو بخ سے بچے۔ عتاب کتے ہیں خلوت میں ناراض ہونے کو اور تو بخ کتے ہیں لوگوں کے سامنے ناراض ہوئے کو۔

اسی طرح مدارات کرے مگر مدارت سے بچے۔ مدارات کتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیلئے بھائی کا قرض ادا کر دیا وغیرہ اور مدارت کتے ہیں کہ تو کسی کام کے ذریعے دنیا چاہے اور نفسانی مرے کیلئے ایک کام کرے۔

اسی طرح غبطہ کرے مگر حد سے بچے۔ غبطہ (ریتک) کتے ہیں کہ جو انعام تو بھائی پر دیکھے وہ اپنے لئے بھی چاہے۔ یہ نہ چاہے کہ بھائی کا انعام ختم ہو۔ حد یہ ہے کہ جو انعام بھائی کے پاس ہے وہ لینا چاہے جبکہ وہ انعام بھائی کے پاس نہ رہے۔

اسی طرح فرات پر اعتمدوں کرے مگر بد فتنی سے بچے۔ فرات کتے ہیں کہ اپنے وجدان پاٹنی کے ذریعے بھائی کی برائی کا اندازہ کر لینا اور بد فتنی کتے ہیں کہ اپنے خبث باطن کی وجہ سے بھائی کو برآ سمجھنا۔ یہ بد فتنی حرام ہے۔ رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے۔

”ایک دوسرے سے بغرض نہ رکھو۔ ایک دوسرے سے دشمنی و اختلاف نہ رکھو۔ پاہم

حد نہ کو نہ ہی باہم قطع تعلق کرو اور اللہ کے بندے! بھائی بھائی بن جاؤ۔"

متقی آدمی کی علامت یہ ہے کہ اگر باہم دو بھائیوں میں کسی وجہ سے تفرق بھی ہو جائے تو انقلاب ہو جانے پر بھی خوش روئی اور حسن فلق کا مظاہرہ کرے۔ بقول شاعر

ان الکریم اذا نقضی وده يخفی القبیح و يظهر الاحسان
و تری اللشیم اذا تصرم حبله يخفی الجميل و يظهرها البهتان
[شرف آدمی جب محبت فتح کرتا ہے تو رائی چھپتا اور ملک ظاہر کرتا ہے۔ اور کینے آدمی کی جب روئی ثوہتی
ہے تو اچھائی چھپتا اور بہتان ظاہر کرتا ہے]

نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ دعا مانگی تو درج ذیل القاطا سے ہے:- "یامن
اظہر الجميل و ستر القبیح ولم یواخذ بالجریمه ولم یهتك السر"
[اے جس نے اچھائی ظاہر کی اور رائی پر پودہ ڈال دیا اور لگانہ پر مواد نہ نیس کیا اور پر پودہ دری نہیں کی]
ان مندرجہ بالا صفات کو اپنے اندر پیدا کرنای تعلقاً با خلاق اللہ تعالیٰ کملاتا ہے۔ مالک کو
چاہیئے کمیہ و عاشر بہتان کر کے۔

"ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا يجعل في
فلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف مدحيم" (الخشوة آیت 10)

[اے ہمارے پورو دگار! ہم کو بخشنے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں]
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے کہ ایک محلیٰ سامنے سے آئے۔ ابھی وہ دور ہی
تھے کہ نبی اکرم ﷺ نے فریلیا "بختی آ رہا ہے۔" پھر کچھ دن کے بعد اسی طرح ہوا کہ آپ
نے اسے دیکھ کر فرمایا "بختی آ رہا ہے۔" ایک دوسرے محلیٰ یہ سن کر ریکھ کرنے لگے۔ دل
میں سوچا کہ کسی طرح اس محلیٰ کا خاص عمل دیکھوں جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت
نصیب ہوئی۔ پس وہ تین دن کیلئے اس محلیٰ کے گھر مسلمان بن کر را در ہوئے۔ دن رات اپنے
محلیٰ کے اہل کو ملاحظہ کیا کوئی خاص بات نظر نہ آئی جو امتیازی حیثیت رکھتی ہو۔ تیرے دن
اس محلیٰ سے پوچھ لیا کہ آپ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نبی اکرم ﷺ

نے جنت کی بشارت دی۔ انسوں نے کماکوئی خاص عمل تو نہیں البتہ رات جب میں سونے لگا ہوں تو اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ شاید یہ سینہ بے کینہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا ہو کہ دنیا میں جنت کی بشارت نصیب ہوئی۔

مواخالت کو قائمِ وادمِ رُخْنے کیلئے ذہنفات مرکزی حیثیت رکھتی ہیں ایک تواضع دوسری ایک۔ حدیث پاک میں آتا ہے ”من تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ“ [جس نے اللہ کیلئے تواضع کی اسے اللہ نے بلندی دی]

زمین کی طرح جس نے عاجزی و اکھاری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر ایک بزرگ اپنے متولین سے فرمایا کرتے تھے:

”ایک کتے نے اصحابِ کف کا ساتھ دیا تو اس کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا۔ تم اپنے احباب کو اصحابِ کف کی مانند سمجھا کرو اور اپنے آپ کو ان کا تناصور کیا کرو۔ پس تمہیں بھی اپنے احباب کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب ہو گا۔“

حضرت خواجہ فضل علی قریشی ”اپنے مریدین سے فرمایا کرتے کہ فقیرو! دیکھو سر اونچا ہے جب بھی کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو سر بجوتے لگتے ہیں۔ پاؤں نیچے ہیں لہذا جب بھی عزت ملتی ہے تو لوگ پاؤں پکڑتے ہیں اور منت سماجت کر کے مناتے ہیں۔ پس تم غور و تکبر سے بچو۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے دنی بھائی کیلئے اس طرح بچو جائے کہ اگر وہ سینے پر پاؤں رکھ کر بھی گزر جائے تو یہ برانہ مانے۔

ایک بزرگ تواضع کی فضیلت یوں بیان فرمایا کرتے تھے:

”انسان سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر نکارتا ہے یہ جھکنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا انسان جتنا میرے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی دوسری حالت میں نہیں ہوتا۔“

دوسروں کو اپنے سے بہتر اور افضل تصور کرنا تواضع کی علامت ہے۔ سالک اپنے سے عمر میں بڑوں کا اس لئے ادب کرے کہ ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں اور اپنے سے چھوٹوں پر اس لئے شفقت کرے کہ ان کے گلہ مجھ سے کم ہیں۔

ایک مرتبہ چند سالکم اپنے شیخ کی غائبہ میں حاضری کیلئے پیدل جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے انکو دیکھا تو سوچا کہ چلو ان میں سے جو بھی بڑا بزرگ ہو گا اس سے دعا کرواؤں گا۔ چنانچہ پسلے سے صافیہ کیا اور کہا کہ آپ بزرگ ہیں میرے لئے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے میں تو خادم ہوں بزرگ تو وہ ہیں جو میرے پیچے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرے سے دعا کیلئے کہا اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میں تو خادم ہوں بزرگ تو وہ ہیں جو میرے پیچے آ رہے ہیں۔ کرتے کرتے سب گز رکھے۔ جب آخری صاحب گزرنے لگے تو اس شخص نے ان سے دعاؤں کی گذارش کی کہ آپ بزرگ ہیں میرے لئے دعا کریں۔ وہ فرمائے لگے ادھو۔ میں تو خادم ہوں بزرگ تو وہ تھے جو آگے گز رکھے۔ اللہ اکبر۔ گویا سب دوسروں کو اپنے سے افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے۔

ایثار کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود اپنے بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دینا۔ چنانچہ صحابہ کرام " کی خاص صفت بتائی گئی۔ "ویبونون علی انفسهم ولو كان بهم خصاًصه" (الحضرۃ: آیت ۹) [وہ انکو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خداوس کے زیادہ سخت ہوتے ہیں] ایک صحابیؓ کا مشور واقعہ ہے کہ سہمان گھر آئے تو دستِ خوان بچا کر چراغ بجھا دیا خود کھانا نہ کھایا تاکہ سہمان پیٹ بھر کر کھالے۔

شیخ ابو الحسن اطلاعیؓ کے پاس شر "رے" میں 30 سالکمین جمع ہوئے۔ پانچ آدمیوں کا کھانا تھا۔ خادم نے دستِ خوان پر کھانا جن دیا اور بھانے سے چراغ بجھا دیا۔ سب سالکمین انہیں میں اس طرح اپنے ہاتھ کھانے اور منہ کی طرف بڑھاتے رہے جیسے کھانا بچا کر کھا رہے ہوں۔ کافی دیر کے رہے ہوں۔ بعض اپنا منہ اس طرح چلاتے رہے جیسے کھانا بچا کر کھا رہے ہوں۔ بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو خادم نے دیکھا کہ کھانا بچا ہوا ہے ہر کسی نے کم کھایا تاکہ میرا دوسرا بھائی کھانا کھالے۔ یہی اخلاق صحابہ کرام " سے منقول ہیں۔ ایک بکری کا سرسات گھروں سے ہوتا ہوا پھر پسلے گھر تھی گیا۔

سیدنا علیؓ اور سیدہ فاطمہؓ نے تین دن پانی سے سحری و اظفاری کی گئی اپنا کھانا سائلین کو دے دیا چنانچہ آیات نازل ہوئیں۔ "وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبَّةٍ مَسْكِينًا وَ يَعِيمًا وَ اسْيِرًا" (الدھر: آیت 8)

[اور وہ لوگ (محض) خدا کی محبت سے غریب اور تیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔]
 حضرت حذیفہؓ سے جنگ یرموک میں ایک زخمی مجاہد نے پانی مانگا تو دوسری طرف سے
 حضرت ہشام بن العاص نے آہ کی۔ اس مجاہد نے اپنا منہ بند کر لیا اور دوسرے کی طرف اشارہ کیا
 کہ پسلے اسے پانی پلا کیں۔ جب دوسرے کو پلانے لگے تو تیسرا طرف سے آواز آئی۔ دوسرے
 نے تیسرا کے پاس بھیج دیا۔ پانی پلانے والے جب وہاں پہنچے تو وہ فوت ہو گئے۔ جب دوسرے
 کی طرف لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ وہ بھی فوت ہو گئے جب پسلے کی طرف آئے تو وہ بھی شہید
 ہو گئے۔ انسانی تاریخ میں ان مجاہدین نے ایثار کا ایک نیا باب رقم کیا کہ میں جان کنی کے عالم میں
 خود پانی نہ پیا اور دوسرے کی طرف بھیجا خود پیاس کی حالت میں اپنی جان جان آفریں کے پرداز
 دی۔

ایک مرتبہ حکومت وقت نے شیخ ابوالحسن نوریؑ، شامؑ اور رقمؑ کو گرفتار کیا ہاکہ قتل کر
 دیا جائے۔ جب سراڑا نے لگے تو شیخ ابوالحسن نوریؑ پسلے جلاد کی طرف بڑھے ہاکہ انہیں قتل کر
 دیا جائے، پوچھا گیا کہ پہل کیوں کی؟ فرمایا اسلئے کہ میرے بھائی چند لمحے اور جی لیں۔ سبحان اللہ
 مواغتفت کے پودے کی آیماری ایثار کے پانی سے کرتے رہیں تو یہ ایثار خفت بن جاتا ہے۔

”اصلہ ثابت و فرعها فی السماء“ (ابی الحیم: آیت 24)

[جس کی جر خوب گزی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں جاری ہوں]

اسلام نے تو تھوڑی دیر کی مصاجبت اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی ایثار کا برتواؤ کرنے کی
 تعلیم دی ہے پھر پیر بھائیوں اور عزیز و اقارب کا تو کیا کرنا۔

نبی اکرم ﷺ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک آدمی نے راستہ میں آپؐ کی مصاجبت
 اختیار کی۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو نبی اکرم ﷺ نے پیلو کی دو مساویں توڑیں ان میں سے
 ایک شیرہ می تھی دوسری سیدھی۔ آپ نے شیرہ می خود لے لی اور سیدھی اپنے ساتھی کو دے
 دی۔ اس آدمی نے عرض کیا ”آپ بھے سے زیادہ سیدھی (مسواک) کے حقدار ہیں۔ نبی اکرم
 ﷺ نے فرمایا:

”جو آدمی بھی کسی کی مصاجبت کرتا ہے چاہے دن کی ایک گھنٹی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے

صحابت کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا اس میں اللہ عزوجل کا حق ادا کیا یا نہیں۔ میں اس بات کو تپنڈ کرتا ہوں کہ مجھ پر تمہارا حق ہو جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔“

اخوت فی اللہ، محبت فی اللہ اور صنِ صاحبۃ الرحمٰن سلف صالحین کے طرق تھے۔ آج یہ تایید ہو گئے ان کے آثار جاتے رہے۔ جو ان پر عمل کرے اس نے انہیں زندہ کیا اور جس نے انہیں زندہ کیا اسے بعد میں عمل کرنے والوں جیسا اجر ملے گا۔ جس سالک کو نیک شخص بھائی مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو تمام جانوں کے پروردگار ہے۔

نوٹ :- اخوت اسلامی کے تحت دیئے گئے اکثر واقعات شیخ ابو طالب کی "کی کتاب "قوت القلوب" سے اخذ کئے گئے ہیں۔



باب 13

سوالات و جوابات

سوال نمبر 1: - شیخ کو مریدوں پر تنقید کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بلا جود مریدوں کی محبت کیوں ملتی ہے۔

جواب: - ڈاکٹر علاج معالجہ کے لئے اگرچہ نظر لگاتا ہے مگر شفاء حاصل ہونے کے بعد لوگ دعائیں دیتے ہیں۔

سوال نمبر 2: - پیر سے محبت رکھنے کے بارے میں شریعت کی کوئی دلیل بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ یا نہیں؟

جواب: - ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا، تو کس کو دوست رکھتا ہے؟ "عرض کیا کہ آپ ﷺ کو۔" آپؑ نے پوچھا کہ "اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ؟" عرض کیا "می" ہی، اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو ہم بت پرست ہوتے۔"

سوال نمبر 3: - آج کل کامل پیر کے تالل بینے کو بھی پیر سمجھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
جواب: - جس طرح ڈاکٹر کے بینے کو ڈاکٹرمانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا، جب تک وہ باقاعدہ ڈاکٹری کا علم حاصل نہ کرے۔ اسی طرح پیر کا بینا پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باقاعدہ نسبت اخذ نہ کرے۔ ہاں اگر نسبت اخذ کرے تو پیر کا بینا "نور علی نور" ہوتا ہے۔ اس سے ہی بیعت کی تجوید کرنا افضل ہے۔

سوال نمبر 4: - بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یقین پا ہونا چاہئے۔

جواب: جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا یا ایک سووا ہوا دوسرے سوئے ہوئے کو نہیں چھڑا سکتا یا ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا اسی طرح ایک غافل دوسرے غافل کو زاکر نہیں بنا سکتا۔ جب پیر ہی کامل نہیں تو مرید کامل کیسے بنے گا۔

سوال نمبر 5: جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ انسان اپنی اصلاح خود کیوں نہیں کر سکتا؟

جواب: محلبہ کرامہ نے قرآن اتریتے ہوئے دیکھا، صاحب قرآن کو دیکھا، نبی کے فرمان کو اپنے کافوں سے سن۔ مگر اپنا ترکیہ خود نہ کر سکے بلکہ نبی علیہ السلام نے ان کا ترکیہ کیا۔ قرآن پاک میں ”ویز کیھم“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مزکی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج اس گئے گزورے دور میں بھلاہم اپنی اصلاح خود کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح درخت کو اپنے پھل بو جمل محسوس نہیں ہوتے اسی طرح انسان کو بھی اپنے عیوب برے محسوس نہیں ہوتے۔ شیخ کے بغیر ترکیہ حاصل کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کے کہ میں بیمار تو ہوں مگر میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں خود پڑھ کر اپنا اعلان کرلوں گا۔ کیا اسے عقلمند کہا جائے گا؟

سوال نمبر 6: بعض ساکھیں اپنے اوپر مباحثات کا دارہ تھک کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟

جواب: مباحثات میں وسعت اس لئے نہیں کہ ہر شخص ہر مباحث کو استعمال ہی کرے بلکہ کیا معلوم کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پیش آجائے۔ اسی لئے بعض مشائخ تمباکو کھلانا پینا تو بڑی دور کی بات ہے پان کھانے اور چائے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔

سوال نمبر 7: بعض اوقات ساکھیں پر کبھی عجیب کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: ساکھ کی مثال درخت کی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے درخت پر کونپلیں پھوٹی ہیں نئے نئے پتے نکلتے ہیں پھر نئے پتے نکلنابد ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ درخت کی ترقی رک گئی بلکہ اس وقت درخت اپنے نئے شاخیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ساکھ کے ساتھ ہوتا ہے۔

سوال نمبر 8: سالک کو کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کا مشرب کیا ہے؟

جواب: سالک جس نبیؐ کے زیر قدم ہو، اس نبیؐ علیہ السلام کی صفات کا پرتو سالک کی خصیت پر واضح نظر آتا ہے۔ جو موسوی المشرب ہو گا اسے کلام الٰہی سے شفت زیادہ ہو گا اب را یہی المشرب کو توکل علی اللہ اور ممکن نوازی میں خصوصیت نصیب ہوگی۔ میسونی المشرب کی زندگی میں زہد فی الدنیا غالب ہو گا اس میں سلبی قوت بست زیادہ ہو گی محمدی المشرب کو اتباع سنت اور اخلاق محمدیہ سے شفت زیادہ ہو گا۔

سوال نمبر 9: اگر اولیاء اللہ کا فیض مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو دوسرے شیخ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: فیض تو رہتا ہے مگر اس تدر نہیں کہ ناقص کو کال بنا سکے۔

سوال نمبر 10: کوئی شیخ اپنے مرید کو عالق کرے اور مرید کا اعتقاد سالم رہے تو بیعت قائم رہتی ہے یا نہیں؟

جواب: شیخ ناراض ہو جائے مگر مرید کا اعتقاد باقی و قائم رہے تو بیعت باقی رہتی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور ﷺ حضرت کعب بن مالکؓ سے منقبض ہو گئے تھے مگر ان کا اعتقاد درست رہا اللہ کا مسامیابی ہوئی۔

سوال نمبر 11: اگر کسی مرید کا اعتقاد پیرؒ کے بارے میں جاتا رہے اور شیخ بیعت والہن نہ کرے تو بیعت رہتی ہے یا نہیں؟

جواب: بیعت ثوث جاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن جابرؓ سے روایت ہے ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے پاس رہنے کی بیعت کی مگر بخار ہوا اور وہ بغیر اجازت چلا گیا تو نبیؐ نے فرمایا: مدینہ بھٹی کی ماہنہ ہے اپنے میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے کو خالص کرتا ہے۔

سوال نمبر 12: پیرؒ کا مرید سے تعلیم کیا ہونا چاہئے؟

جواب: وغیری ہونا چاہئے جو سیدنا صدیق اکبرؓ کا حضرت نبیؐ اکرم ﷺ سے تعلیم ایک مرتبہ

نبی علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ جواب میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے عرض کیا: پا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ (1) آپؑ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا۔ (2) آپؑ پر اپنا مل خرچ کرنا۔ (3) میری بیٹی آپؑ کے نکاح میں ہے۔ سوچئے ان تینوں کا مرکز و محور ایک ہی ذات تھی۔ پس مرید کو اپنے شیخ سے ایسا ہی والانہ تعلق ہونا چاہئے۔

سوال نمبر 13: سلوک میں ذکر ہی سے فائدہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی؟

جواب: سالک کو ابتداء میں ذکر سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ ذکر خواہ نفی و اثبات ہی کیوں نہ ہو، مفید نہیں رہتا۔ بلکہ فکر کام آتا ہے۔ اس منزل پر تلاوت قرآن، کثرت نوافل، تبلیغ و تدریس اور تصنیف سے فائدہ ہوتا ہے پھر قرب بالفارائض کا درجہ آتا ہے خواہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوں یا بندوں کی طرف سے۔ مثلاً شیخ نے کہا خلافہ میں خدمت کرواب یہ خدمت کرنا فائدہ زیادہ دے گا بہ نسبت ذکر و فکر کے۔ اسے قرب بالفارائض کہتے ہیں۔

سوال نمبر 14: اساباق کے خاص سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہر سبق سے رذاکل کا ازالہ و ابستہ ہے پیر اس پر نظر رکھتا ہے کہ رذاکل دور ہوئے یا نہیں۔ جب ایک کے رذاکل دور ہو جاتے ہیں تو شیخ دوسرا سبق دے رہتا ہے۔

سوال نمبر 15: قرب بالنوافل سے کیا مراد ہے؟

جواب: سالک فنائے کامل حاصل کرنے کے بعد قرب بالنوافل سے ترقی پاتا ہے یعنی اپنی طرف سے جو چاہتا ہے عبادت کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے جو دین کا کام لیتا چاہیں اس میں لگادیتے ہیں، یہ قرب بالفارائض کہلاتا ہے۔ کسی کو تبلیغ کا کام، کسی کو تدریس کا اور کسی کو تصنیف و تایف کا کام پرداز کیا جاتا ہے۔ قرب بالفارائض والا فارائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے تو گرفت کی جاتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلوت میں آدمیوں کو بھیج کر تنبیہ سفری۔

سوال نمبر 16: نفی اثبات جس دم کے ساتھ ایک دفعہ میں اکیس سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب:- ساک کو اول یہ ذکر بحاظ شرائط 21 مرتبہ تک پہنچانا چاہئے پھر اس سے زیادہ کرے تو فائدہ ہے۔ مکتوبات مخصوصیہ میں کسی صاحب نے لکھا کہ میں ایک سانس میں ایک سو ایک بار غنی اثبات کرتا ہوں حضرت خواجہ محمد مخصوص ”نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

سوال نمبر 17:- کیا قرات قرآن سے وہ نتائج و اثرات حاصل ہوتے ہیں جو صوفیہ کے تابعے ہونے اؤکار سے حاصل ہوتے ہیں؟

جواب:- ابتداء میں ساک کی زیادہ ترقی ذکر سے ہوتی ہے حتیٰ کہ فتاویٰ قلب اور فتاویٰ نفس نصیب ہو جائے پھر تلاوت، نوافل اور دوسراے دینی اشغال سے زیادہ ترقی ہوتی ہے۔

سوال نمبر 18:- جن کے اس باقی زیادہ ہیں انہیں وقت پورانہ ملے تو کیا کریں؟

جواب:- ایکی صورت میں صرف نیت کر کے لٹائف پر سے توجہ کرتے ہوئے گزر جائیں تو بھی فائدہ سے خالی نہیں ہو گا۔

سوال نمبر 19:- نسبت سلب ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب:- نسبت نام ہے اس تعلق کا جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اس تعلق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا البتہ کیفیات و واردات سلب کی جاسکتی ہیں۔

سوال نمبر 20:- بعض لوگ چلتے پھرتے ہر وقت تحلیل لسانی (کلمہ کا ذکر) کرتے رہتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟

جواب:- سو نیصد جائز بلکہ مستحب ہے حضرت خواجہ عزیزان علی راتینی ”سے ایسا ہی سوال پوچھا گیا تو فرمایا: شریعت نے قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو قریب المرگ سمجھتا ہوں۔ لہذا اپنے نفس کو کلمے کی تلقین کرتا رہتا ہوں۔

سوال نمبر 21:- جو لوگ سفر کے دوران جیب میں قرآن پاک رکھتے ہیں اور مجبوراً پیشab کے لئے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟

جواب:- جیب کا حکم غلاف کا سا ہونا چاہئے، تاہم بہتر ہے کہ قرآن مجید کو کسی پلاشک وغیرہ

کے غلاف میں پیٹ کر جیب میں رکھیں۔

سوال نمبر 22:- مومن کو نماز کا انتقال کیوں رہتا ہے؟

جواب:- نماز جب روح کی نذارہ جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے لئے دل اسی طرح بیتاب ہوتا ہے جیسے روئی کھلانے کے لئے معدہ بیتاب ہوتا ہے۔

سوال نمبر 23:- مخدوب کون ہوتے ہیں؟

جواب:- اللہ تعالیٰ کے بعض بندے روحانی امور کے لئے معین ہوتے ہیں اور بعض مادی یا تکونی امور کے لئے تکونی امور کے لوگ ظاہر میں دیوانوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ رجال تشریع کو رجال تکونیں کی خبر ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا علم نہ تھا۔ کبھی کبھی تکونی و تشریع ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں۔ رجال تکونیں میں قطب مدار اور رجال تشریع میں قطب ارشاد ہوتے ہیں۔ عموماً قطب مدار قطب ارشاد کے ماتحت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: "انی علی علم من علم الله علم نیہ لاتعلم انت وانت علی علم علمکم الله لا اعلمه" [الله تعالیٰ نے ایک تم کا علم مجھ کو دیا ہے جو تم کو نہیں ملا ہے اور تم کو ایک تم کا علم دیا ہے جو مجھ کو نہیں ملا] یہ تکونی امور کے لوگ مخدوب کہلاتے ہیں۔

سوال نمبر 24:- واردات کوئی اور ملیہ سے کیا مراد ہے؟

جواب:- سائک کے دل میں بعض اوقات علمی نکات ڈالے جاتے ہیں اور بعض اوقات مادی امور سے متعلق نکات ڈالا جائیا ہو گا ایسا نہ ہو گا اس کو واردات کوئی کہتے ہیں۔ علمی معارف کو واردات ملیہ کہتے ہیں دونوں محدود ہیں مگر ملیہ کوئی سے افضل ہوتے ہیں ملیہ ہر شخص کو نہیں ملتے۔

م دیتے ہیں پاہ نظر قبح خوار دیکھ کر

سوال نمبر 25:- شرب کیا ہوتا ہے؟

جواب:- ہر سالک کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے۔ لیکن کون کس کے زیر قدم ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو دوسرے بزرگ کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں اپنے شرب کا پتہ چلے۔ جب مرید پہنچا تو اس بزرگ نے کہا تمہارے یہودی کا کیا حال ہے؟ مرید بت خاء ہوا۔ جب واپس پہنچا اور بزرگ نے مرید سے حقیقت حال پوچھی تو مرید نے مجھے سمجھتے بتایا۔ شیخ نے کہا، الحمد للہ کہ میں موسوی المشرب ہوں۔

سوال نمبر 26:- قوم کے کتنے ہیں؟

جواب:- عالم جملیات صفات الہی کا مظہر ہے۔ اب جملیات ذات کا مظہر بھی کسی کو ہونا چاہئے اس کو قوم کہتے ہیں کہ عالم کا قیام مادی و سماں پر نہیں بلکہ ذکر اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو گ۔ مشائخ چونکہ ذکر اللہ کرتے ہیں اور اس کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں لہذا ان میں سے کسی خاص کو قوم بنا دیا جاتا ہے۔

سوال نمبر 27:- دست غیب سے کیا مراد ہے؟

جواب:- بعض مشائخ کو روزانہ سحلے کے نیچے سے یا کسی اور طرح سے رزق مل جاتا ہے یہ دست غیب کہلاتا ہے۔ یہ بھی دست غیب ہے کہ بلا موقع کوئی ہدیہ پیش کرے۔

سوال نمبر 28:- بزرگوں کے فتح شریف پڑھنے کی کیا اصل ہے؟

جواب:- کوئی آیت یا عبادت جسے کسی شیخ کی زندگی اور کیفیت سے متابعت کالہ ہوان کے ایصال ثواب کے لئے پڑھنا فتح شریف کہلاتا ہے۔ بعض مشائخ خود متین کرنے ہیں اور بعض کی وفات کے بعد متولین مقرر کر دیتے ہیں۔

سوال نمبر 29:- خواب، واقعہ اور مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟

جواب:- نیند میں جو کچھ نظر آئے خواب کہلاتا ہے۔ مراقبہ میں بیٹھے بیٹھے سوجائے اور کچھ

دیکھے تو واقعہ کلاتا ہے۔ اگر مرافقہ میں بقائی ہوش دھوکہ دیکھے تو مشاہدہ کلاتا ہے۔

سوال نمبر 30:- قبض و سط سے کیا مراد ہے؟

جواب:- بعض اوقات سالک کو عجیب و غریب انتراح اور کیفیات محسوس ہوتی ہیں، یہ سط کلاتا ہے بعض اوقات یہ کیفیات ایسے دب جاتی ہیں جیسے کچھ بھی نہ تھا، یہ قبض کلاتا ہے۔ قبض و سط دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم اپنی کمزوریوں کے باعث صرف سط مانگتے ہیں جس طرح درخت کو کاشتکار پانی دیتا ہے پھر کچھ عرصہ پانی خشک و جذب ہونے کیلئے چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وقت پانی کھرا رہے تو نقصان دہ ہے اس طرح وقہ و قعہ سے پانی دینے سے درخت سربرز و شاداب ہوتا ہے۔ یہی حقیقت قبض اور سط کی ہے۔ ان کیفیات کے ذریعے سالک کی تربیت کی جاتی ہے۔

سوال نمبر 31:- فنا فی الرسول سے کیا مراد ہے؟

جواب:- جب طبعی طور پر سنت کی ابتداء ہونے لگے تو اس کیفیت کا ہم فنا فی الرسول ہے۔

سوال نمبر 32:- یادداشت سے کیا مراد ہے؟

جواب:- چھوٹے بچے کو ترتیب سے اے بی سی یاد ہوتی ہے بڑے کو اتنی تیزی سے پڑھنا نہیں آتا مگر بوقت ضرورت صحیح انگلش لکھ سکتا ہے۔ یا ہم مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں راستے میں اور ہر دیکھتے ہیں دوستوں کو سلام کرتے ہیں مگر مسجد میں جانا نہیں بھولتے۔ اس کو یادداشت کہتے ہیں۔ سالک بھی دنیا کے کام کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولتا۔

سوال نمبر 33:- نقشبندیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب:- دونوں میں کاظمین اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ فرق صرف طریق کار کا ہے۔ حضرت حاجی احمد اللہ مہاجر کی سے کسی نے پوچھا، میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوں یا سلسلہ چشتیہ میں۔ فرمایا، اس کی مثل یوں ہے کہ ایک زمین میں جھاڑیاں ہیں۔ اس میں کاشت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سال چھ میسینے مغلائی کرو پھر کاشت کرو، دوسرا یہ کہ جتنا صاف

ہو اتنا کاشت کرتے جاؤ اس نے کماکہ مجھے دوسرا طریقہ پسند ہے موت کا کیا پتہ کب آجائے۔ فرمایا پھر تمہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیت ہونا چاہئے۔

سوال نمبر 34:— کیا وجہ ہے کہ خنی المسک ممالک ششما پاکستان، ہندوستان، بجلہ دیش، وسط ایشیاء کی ریاستیں، ترکی اور شام وغیرہ میں سلاسل صوفیہ زیادہ رائج ہیں؟

جواب:— تمام دین کا نچوڑ چار قسمیں ہیں اور یہ چار بھی سست کردو میں آجاتی ہیں خنی و شافعی حضرت محمد الف ثانی ” نے فرمایا ہے کہ خنی المسک میں کملات نبوت غالب ہیں اور شافعی المسک میں کملات ولایت غالب ہیں خنی المسک ممالک میں اتباع سنت زیادہ ہوتی ہے۔

سوال نمبر 35:— نماز میں وساوس اور خیالات بہت آتے ہیں؟

جواب:— ہر وہ سو سہ خیال ہے جبکہ ہر خیال وہ سو سہ نہیں ہوتا۔ وہ سو سہ خیال ہے جو مقصد میں حاصل ہو لیکن فقط خیال مقصد میں حاصل نہیں ہوتا۔ خیالات کا آنا مضر نہیں خیالات کالانا مضر ہے۔ ہمیں نماز میں دنیا کے خیالات آتے ہیں جو اسفل ہے اور اکابرین کو خیالات آتے ہیں دین کے جو اعلیٰ ہیں جیسے حضرت عمر نماز میں جادو کی صفائی درست فرماتے تھے۔ ایسے خیالات محمود ہیں اور حضور قلب کے خلاف نہیں ہیں۔

سوال نمبر 36:— بعض مشائخ کو نماز میں اس قدر استغراق نصیب ہوتا ہے کہ اردو گرد کا پتہ بھی نہیں چلا کر کیا ہو رہا ہے، ہماری نمازیں کیوں الگی نہیں ہیں؟

جواب:— نماز میں اس قدر استغراق حاصل ہونا لازمی امر نہیں ہے حضور قلب سے مراد نماز میں توجہ الی اللہ ہے نبی طیبہ السلام نے ایک بچے کے روئے پر نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیا تھا۔

سوال نمبر 37:— نہ ہے وہ سو سہ آنے پر منتی کی گرفت ہوتی ہے؟

جواب:— صرف اس وہ سو سہ پر گرفت ہوتی ہے جو منتی کو غافل کر دے۔ جو وہ سو سہ آئے اور گزر جائے اس پر گرفت نہیں ہوتی۔

سوال نمبر 38: - ظن اور الامام میں کیا فرق ہے؟

جواب: - انسان جب نیت و ارادے کے ساتھ ایک رائے قائم کر لیتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں اور جب خود قلب میں کوئی خیال وارد ہوتا ہے اسے الامام کہتے ہیں۔

سوال نمبر 39: - عالم خلق اور عالم امر سے کیا مراہے؟

جواب: - اللہ تعالیٰ نے تکاثر کو دو طرح سے پیدا کیا ہے کہ کہ کر پیدا کیا وہ عالم امر کہلاتا ہے جبے بذریعہ پیدا کیا وہ عالم خلق کہلاتا ہے۔

سوال نمبر 40: - کیا صالح جائز ہے؟

جواب: - ساز اور باجوں کے ساتھ کسی قسم کا گانا حتیٰ کہ حمد و نعمت بھی ناجائز ہے۔ بغیر مزامیر کے چند شرانک کے ساتھ جائز ہے۔ مثلاً

1- اشعار فاسقانہ مضمون پر بقیہ ہوں۔

2- مجلس میں حرم، غیر حرم کا اختلاط نہ ہو۔

3- سامنیں کو اتنی رغبت ہو جیسے بھوک میں کھانے لگ۔

سوال نمبر 41: - سنت اور بدعت کی کیا پہچان ہے؟

جواب: - سنت عمل آفلائی ہوتا ہے بدعت علاقائی ہوتی ہے یعنی سنت عمل ہر جگہ اور ہر ملک میں یکسل ہو گا ٹھلا دسویں حرم کا روزہ رکھنا سنت ہے یہ ہر جگہ ہر ملک میں رکھا جاتا ہے۔ دسویں حرم کا "منانا" بدعت ہے اسی لئے ایران میں منانے کا طریقہ اور، پاکستان میں اور، عراق میں اور، ہندوستان میں اور ہے۔

سوال نمبر 42: - امت کا ایک بست براطیقہ تصوف کو اچھا نہیں سمجھتا یہ کیوں ہے؟

جواب: - بعض لوگ ڈھونگی پیروں کی باتیں سن کر تفسیر ہو جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہر معاملے میں کھوٹا کھرے سے ملا ہوا ہے۔ نکھارنا تو ہمارا کام ہے۔ علماء میں بھی بعض نفس پرست دینیادار لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علم حاصل کرنا بند کردے۔

تصوف پر اعتراض کرنے والوں کی مثال ہندہ کی ہی ہے جسے آکل الاکباد کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے کتنی بکی دشمن تھی مسلمان ہونے کے بعد کتنے لگی "یا رسول اللہ"! اب آپ سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں۔ "معترضین پر تصوف کی حیثیت کھل جائے تو ان کا یہی حال ہو۔

سوال نمبر 43:- تصوف میں عروج کن چیزوں سے ہوتا ہے؟

جواب:- چار چیزوں سے: (1) کثرت ذکر (2) اتباع سنت (3) تقویٰ (4) رابطہ شیخ

سوال نمبر 44:- بعض مثالیٰ کی زبان سے "انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی" وغیرہ کے الفاظ کیوں نکلے؟

جواب:- یہ الفاظ غلبہ حال میں نکلے اس حالت میں انسان معدود ہوتا ہے حضرت موسیٰ "کے سامنے اگر درخت سے آواز نکل سکتی ہے "انسی انا اللہ" تو کیا عجب ہے کہ کسی انسان کی زبان سے انا الحق کے الفاظ نکلیں۔ تاہم صاحب ہوش آدمی ایسے الفاظ کے گاتو جو تے پڑیں گے۔

سوال نمبر 45:- اکثر گناہوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟

جواب:- اکثر گناہ "حسب جاه" یا "وقت باہ" کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 46:- حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھا ہے کہ آخر میں حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ ایک ہو جائیں گے؟

جواب:- کعبہ تجلیات ذاتی کا مرکز ہے اسی لئے وہ موجود یہ ہے آنحضرت ﷺ کا قلب مبارک بھی آخر میں دائیٰ طور پر تجلیات ذاتی کا مرکز بن جائے گا۔ حضرت یوسفؑ کو ایک نبی حضرت یعقوبؑ نے سجدہ کیا۔ حضرت آدمؑ کو سجدہ کروایا گیا۔ "لا یسْعَنِ ارضی ولا سماوی و لکن یسْعَنِ قلب عبد مومن" کعبہ بھی تجلیات ذاتیہ کا مرکز مومن کا قلب بھی، فرق اتنا ہے کہ کعبہ دائیٰ تجلیات کا مرکز مگر مومن پر کبھی ہیں کبھی نہیں۔

سوال نمبر 47:- بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو

بسم اللہ پڑھتے دوسرے پر پاؤں رکھتے تو الناس پڑھتے یہ کیسے ممکن ہے یا بعض بزرگ اپنے شر سے دوسری جگہ پنچھے شادی کی پنچھے ہوئے واپس آئے تو چند کھنٹے ہی گزرا تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

جواب :- زمانے کا ایک طول ہوتا ہے ایک عرض ہوتا ہے عام مشور یہی ہے کہ زمانے کا صرف طول ہے عرض نہیں ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ خواص کے ایسے کام زمانے کے عرض میں کروادیتے ہوں جیسے واقعہ مراج۔

سوال نمبر 48 :- مبداء تعین کے کتنے ہیں؟

جواب :- ہر سالک کے لئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک مبداء تعین ہوتا ہے اس سالک کی رسائی اپنے مبداء تعین تک ہی ہوتی ہے اگر کسی کو اس سے اوپر سیر نصیب ہو تو وہ نظری ہوتی ہے قدی نہیں (مقام نہیں بننے گا) جیسے گھر لاہور میں ہے یہ اصل مقام ہوا۔ اب جمال گھوم پھر آؤ مقام یہی رہے گا۔

سوال نمبر 49 :- تعین اول کو نہیں ہے؟

جواب :- حدیث پاک میں ہے ”کنت کنزًاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق“ [میں غلی خزانہ تھا پس میں نے پسند کیا کہ میں پچانا جاؤں، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا] بعض مشائخ نے کہا کہ خدا کا پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے کا علم تعین اول ہے بعض نے کہا ارادہ (تحلیق) تعین اول ہے لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا حب (یہ چاہنا کہ مجھے پچانا جائے) تعین اول ہے یہ ”حب“ ہی نبی ”کامبداء تعین ہے اس سے اوپر لاتعین کا مقام ہے۔

سوال نمبر 50 :- صوفیائے کرام نقطہ مسئلے پر بیٹھ کر تمہات پھیرتے رہتے ہیں جہاد میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟

جواب :- جہاد کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقالات پر وارد ہوا ہے۔ مثلاً

(۱) — جہاد بالمال یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ”و جاہدوا باموالکم“ اس پر دلیل ہے۔

2) — جہاد بالنفس یعنی اپنی جانوں پر احکام شریعت نافذ کرنا۔ فرمان اللہ ہے ”وَ تِجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللہِ بِاٰمَوْالِکُمْ وَ اٰنْفُسِکُمْ“ اسی لئے حدیث پاک میں بھی وارد ہے
”المُجَاهِدُ مِنْ جَاهِدِ نَفْسِهِ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ۔“

3) — جہاد بالقرآن یعنی کفار کے سامنے اعلائے کلمتہ اللہ کی خاطر اسلام کی دعوت کو پیش کرنا
”وَجَاهَهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا“ اس کی دلیل ہے۔

4) — جہاد بالسیف یعنی کفار کے ساتھ قتال کرنا جیسے فرمان اللہ ہے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ
الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“

صوفیائے کرام عام طور پر جہاد کی پہلی تین صورتوں میں فعال رہتے ہیں۔ اس کی مثلیں اظہر
من الشیخ ہیں۔ رہی بات جہاد بالسیف کی توجہ دین اسلام کی سرپرستی کیلئے جہاد فرض عین ہو
جاتا ہے تو یہ حضرات کفن برداشت ہو کر میدان میں نکل آتے ہیں اور کفار کے سامنے سیسے پلانی
ہوئی دیوار یعنی بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ چند مثلیں درج ذیل ہیں:

1) — ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے جب جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی
سلطنت اور عیاسی غلافت کا چراغ گل کر دیا تو یہ ضرب المثل بن گئی تھی۔

”اذا قيل لك ان التاتار انهزموا فلا تصدق“

[اگر کوئی کے کہ تاتاریوں نے نکلت کھائی تو یقین نہ کرنا]

ایسی عجیب صورت حال میں حضرت محمد دربندی ”جیسے حضرات نے تاتاری شہزادوں کے
دلوں کی کالا پٹت دی اور تیس سال کے بعد یہی شہزادے مسلمان ہو گئے اور دنیا میں اسلام کی
علمت کا پھریری المرانے لگا۔ علامہ اقبال“ نے کہا

۔ ہے عیال آج بھی تاتار کے افسانے سے
پاسبل مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

2) — ہندوستان میں جب اکبر بادشاہ کی وجہ سے دین اللہ کی آنحضرتی اٹھی تو حضرت مجدد الف
عائی“ نے احیائے دین کا علم بلند کیا اور وقت کے بڑے بڑے فوجی جرنیلوں مثلاً شیخ فرید اور خال

غانان کے دلوں پر توجہات ڈالیں حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ رسمات بدعاں کا قلع قع ہوا اور دنیا میں "بھی الارض بعد موہبا" کا نتھ پیش ہوا۔ اور تنزیہب جیسا وندار ہادشاہ انہی کی محنت کا شر تھا۔

(3) — روس نے داغستان پر حملہ کیا تو غازی محمد شہید، "جزہ بے" اور شیخ شامل" جیسے مشائخ طریقت نے 1813ء سے 1859ء تک 46 سال جنگ لڑی اور کیونشوں کے ساتھ قتل کیا۔

(4) — طرابلس کی جنگ میں شیخ احمد الشریف سنوی نے اپنے مریدین کو اطاالویوں کے سامنے صف آراء کیا اور انہیں پندرہ سال تاکوں پنچے چھوائے۔ صحرائے عظیم افریقیہ کی سنوی خانقاہ آج تک مشہور ہے۔

(5) — انیسویں صدی عیسوی میں الجزار میں امیر عبد القادر نے فرانسیسیوں سے 1832ء سے لے کر 1847ء تک 15 سال جنگ کی یہ شیخ طریقت تھے۔

(6) — ہندوستان میں تحریک خلافت کے سلسلے میں جہاد شاہی کے حافظ فیاض شہید اور انگریز سے آزادی کے حصول کے لئے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے ناموں کو تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

(7) — افغانستان میں سید جمال الدین انقالی، ہندوستان میں شیخ المندر امیر مالنا حضرت محمود الحسن اور سلسلہ شاذیہ کے حسن البناء وغیرہم یہ سب حضرات مشائخ طریقت تھے۔ ان سب نے جہاد بالسیف کیا۔ ان عظیم قریانیوں کے بغیر تاریخ اسلام ناکمل ہے۔

(8) — سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانال شہید نے اپنے مریدین میں ایسا جذبہ جہاد بھرا کہ ایک خاتون اپنے دو بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگی۔

— بولی مال محدث علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو
 بتائیے حضرت مولانا محمد علی جو ہر اور مولانا شوکت علی" میں جذبہ جہاد کس نے بھرا تھا۔ وہی شیخ جو خود بھی ایک ظالم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آج بھی ان کی قبر مبارک کے قریب یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں:

بہ لوح تربت من یا تند از غیب تحریر ہے
کہ ایں مقتول راجز بے گناہی نیست تقصیرے

حضرت مولانا محمد علی جوہر "مسلمانوں کی آزادی کیلئے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اندرن چلے گئے تاکہ مسلمانوں کی آواز انگریز کے ایوانوں تک پہنچاسکیں۔ قید و بند کی صوبتیں برداشت کیں اور جب جان سے مار دیئے جانے کی دھمکی دی گئی تو "افضل الجهاد کلمہ حق عند سلطان جائز" کے مطابق کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا:

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لئے ہے	پر غیب میں سلام بقا میرے لئے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی " کو	خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لئے ہے
اکسر یہی ایک دوا میرے لئے ہے	اللہ کے رستے کی جو موت آئے سمجھا
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے	توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے



كتابيات

”تصوف و سلوک“ کی ترتیب و تالیف میں جن کتب سے مدد حاصل کی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	من ترتیب و تالیف
1	كتاب الملح في التصوف	شیخ ابو نصر سراج طوی	378: ہجری
2	كتاب التعرف	شیخ ابو بکر بن ابراہیم بخاری الکلبازی	380: ہجری
3	قوت القلوب	شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ کنی	386: ہجری
4	طبقات الصوفیہ	شیخ عبدالرحمٰن محمد بن الحسینی نیشاپوری	412: ہجری
5	ملیتۃ الاولیاء	محمدث کبیر شیخ ابو قیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی	430: ہجری
6	رسالہ تکریہ	شیخ ابو القاسم بن ہوازن الشیری نیشاپوری	465: ہجری
7	كشف القلوب	شیخ المشائخ ابو الحسن علی بن عثمان جھویری	470: ہجری
8	طبقات الصوفیہ	شیخ الاسلام عبداللہ بن محمد انصاری ہروی	480: ہجری
9	احیاء العلوم	شیخ محمد امام غزالی	505: ہجری
10	آداب المریدین	شیخ شاسب الدین سروردی	563: ہجری
11	زبدۃ الحقائق	شیخ المریقت عزیز بن محمد سنفی	616: ہجری
12	تذکرة الاولیاء	شیخ فرید الدین عطاء	630: ہجری
13	عوارف المعارف	شیخ شاسب الدین سروردی	632: ہجری
14	فتحات کیم	شیخ حمی الدین ابن عینی	637: ہجری
15	مرحاو العبلو	شیخ الدین امام رازی	654: ہجری
16	لحات	شیخ فخر الدین عراقی	688: ہجری
17	نفحات الانس	مولانا جاہی	ہجری
18	دلیل العارفین	خواجہ قطب الدین حنفیتار کاکی	ہجری
19	فوائد الساکنین	خواجہ فرید الدین سعیج شیراز	ہجری

بھری	حضرت خواجہ نظام الدین اویاۓ	Rahat al-Qulub	20
بھری	حضرت شیخ احمد سہنی مجدد الف ثالث	مکتبات امام ربانی	21
بھری	حضرت خواجہ محمد حصوم	مکتبات مخصوصیہ	22
بھری	حضرت سید زوار حسین شاہ	عمدۃ السلوک	23
بھری	حکیم الامم حضرت تھانوی	افاس عیسیٰ	24
بھری	حضرت خواجہ محمد عبد الملک صدیقی	شجرہ طیبہ	25

تصوّف و سلوک سے اقتباس

آج امت مسلمہ کی زبدوں حالی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ پسے
اور کھوٹا کھرے سے بالکل پویسٹ نظر انہے۔
— ناطقہ سر بگریت انہے لئے کیا کہتے

جس طرح علم ظاہر کے حامل علماتے حق کی صفوں میں علاطے سوء داخل چکے
ہیں اس طرح علم باطن کے حامل مشائخ حق پرست کے بھیں میں نفس پرست
لوگ شامل ہرچکے ہیں عوام الناس کی روحانی اور باطنی تنزلی کی انتہا یہاں تک
ہو چکی کہ ایک طبقے نے بیعت طریقت کو لازم قرار دے کر فرائض کے ترک
کرنے اور شریعت و طریقت کو الگ الگ ثابت کرنے کا بہانہ سنالیا۔
صلوٰوا فاضلوا، (خدود ہمیشہ اور دوسروں کو بھی گمراہ گیا)،
دوسرے طبقے نے بیعت طریقت کو گراہی سمجھ کر اسکی مخالفت کا بڑا اھالیا
ویا آسفنا!

ان حالات میں اہل حق کیلئے افراط و تغزیلیکے شکار ان دونوں طبقوں سے
چونکتی رہتی رہنے کے سوا چاروں نہیں تاکہ احکام شریعت کو نکھار پیش کیا جائے
اور حق و باطل کی صفاصل کو واضح کیا جاتے۔

دارالعلوم جہنمگ صدر فون: 0471-622832

مکتبۃ الفقیہ 223 سنت پورہ فیصل آباد فون: 618003-631539

جامعہ الحبیب شاداب کالونی فیصل آباد فون: 655531-659429

برائے رانی